

# اسلام میں تصور شفاعت

حضرت علامہ مولانا محمد سہرالدین

مکتبہ جمال کرم لاہور

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

# اسلام میں تصورِ شفاعت

مکتبہ مجتہدین  
اہلسنت و جماعت، کتب خانہ مرکزی  
زیر اہتمام، لاہور

مصنف

حضرت علامہ مولانا محمد سہرالدین

مکتبہ جمال گم

9. مرکز الاولیاء (سٹا ہاؤس) دربار مارکیٹ - لاہور فون: 7324948



Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب	اسلام میں تصور شفاعت
مصنف	حضرت مولانا محمد مہر الدینؒ
زیر اہتمام	ایم احسان الحق صدیقی
ناشر	مکتبہ جمال کرم لاہور
تعداد	1100 سو
قیمت	85 روپے

ملنے کے لیے!

- (۱) ضیاء القرآن پبلی کیشنز، گنج بخش روڈ لاہور
- (۲) ضیاء القرآن پبلی کیشنز، 14 انفال سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) فرید بک شال اردو بازار لاہور
- (۴) احمد بک کارپوریشن کمیٹی چوک راولپنڈی
- (۵) مکتبہ الجاہد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ

Click

## فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
9	حالات زندگی مصنف	1
14	اہل سنت کے لئے لمحہ فکریہ؟	2
17	ضروری اور معیاری گزارش	3
26	ایجاد کائنات عالم کا مقصد	4
27	انسان کی بنیادی کمزوری	5
27	انسانی افراط و تفریط	6
28	شریعت میں گناہ کی معافی	7
28	دربار الہی میں انسان کی عزت	8
29	امت کا تقاضا	9
30	اختلاف کی بنیاد و ابتداء	10
34	کتاب انوار ساطعہ میں کیا ہے؟	11
34	کتاب تقویۃ الایمان ہند میں	12
38	مسئلہ شفاعت کا سبب تالیف	13
39	ضروری نوٹ	14
40	شفاعت کا لغوی مفہوم	15
40	شفاعت کی حقیقت شرعی طور پر	16
41	شفاعت کی اقسام	17
45	قرآن مجید سے شفاعت کا ثبوت	18

Click

48	شفاعت کا ثبوت از تفاسیر معتبرہ	19
50	شفاعت از احادیث نبویہ	20
64	بحث تصرفات	21
64	سرور کائنات کے تصرفات	22
70	علمائے کرام کے تصرفات	23
75	ادلہ عقلیہ سے شفاعت کا ثبوت	24
77	شفاعت اور خوارج و معتزلہ	25
77	خوارج اور معتزلہ کے دلائل	26
79	شفاعت اور مولوی اسماعیل صاحب تقویۃ الایمان	27
85	ان عبارات سے کیا ثابت ہوا	28
85	شرک اصغر کو شرک اکبر میں داخل کرنے کا اقرار	29
86	مولوی اسماعیل صاحب سے متعلق تحریر سے کیا ثابت ہوا	30
87	تلك عشرة كاملة	31
88	شفاعت اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی	32
91	مسئلہ شفاعت اور جناب ابوالاعلیٰ مودودی	33
97	جماعت اسلامی کا ابتدائی تصور	34
101	مسئلہ شفاعت اور خاکساری جماعت	35
102	شفاعت پر اعتراضات و جوابات	36
105	شفاعت بالاذن کا معنی	37
106	مسئلہ شفاعت اور تبلیغی جماعت	38
106	تبلیغی جماعت کے بانی کا تعارف	39

107	تبلیغی جماعت کی پالیسی	40
108	تبلیغی جماعت کی ضرورت	41
110	تبلیغی جماعت کا ابتدائی وجود اور حکومت برطانیہ کی طرف سے مالی امداد	42
114	ایک اہم سوال	43
115	تفریق بین المسلمین اور ان میں انتشار کی نوعیت	44
116	عقائد و ہابیہ نجدیہ	45
122	کفر و شرک کی باتوں کا بیان	46
124	نجدی تحریک کا پس منظر	47
128	جمیعیہ علماء ہند اور حکومت کا اعتقادی و عملی اتحاد	48
130	پاک و ہند میں تفریق بین المسلمین اور تبلیغی جماعت	49
145	تبلیغی جماعت کا نقشہ حیات	50
149	عقیدہ کی شرعی اہمیت	51
154	مسئلہ شفاعت اور مولوی ثناء اللہ امرتسری	52
155	مسئلہ شفاعت اور پرویزی جماعت	53
156	مسئلہ شفاعت اور سرسید	54
157	مولوی غلام اللہ اور مسئلہ شفاعت	55
158	اہل سنت و جماعت اور حقانیت	56
167	بعض مضالطوں کا ازالہ	57
171	تفسیر بالرائے	58
172	دیوبندی اور حقیقت	59

173	بحث وسیلہ	60
174	وسیلہ کی اقسام	61
174	قرآن مجید سے وسیلہ کا ثبوت	62
176	حدیث شریف سے وسیلہ کا ثبوت	63
182	دعا و ندا کے ساتھ وسیلہ	64
189	ندا قریب و بعید کی بحث	65
195	وسیلہ کی نوعیت	66
196	نسبت و اسناد کی نوعیت اتصاف	67
198	اسناد مجازی اور مجاز عقلی	68
201	غیر اللہ کے توسل اور واسطہ کی نوعیت	69
205	وسائل اور اسباب کی طرف اسناد	70
208	معجزہ کی تعریف	71
209	کیا معجزہ مقدور اور اختیاری ہوتا ہے	72
212	امور شرعیہ میں واسطہ کی نوعیت	73
214	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مختار ہونا	74
217	مجاز میں قرینہ	75
218	متنازعہ فیہا عبارتیں اور توسل و واسطہ کی ابتداء کب سے ہے	76
219	معترضین اپنے کو کیوں چھپاتے ہیں	77
220	عبارات ندائیہ کی صحت	78

## اُستاز العلماء حضرت مولانا محمد مہر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ

یگانہ روزگار علامۃ الدہر مولانا محمد مہر الدین مذہباً حنفی مسلکاً سنی مشرباً نقشبندی اور تلمذاً بریلوی تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت زمیندار راجپوت گھرانے میں ۱۹۰۰ء میں بمقام خاصہ ضلع امرتسر، ننھیال کے ہاں ہوئی۔ ابھی سال سوا سال کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے آباؤ اجداد سو سال قبل دوآبہ ضلع جالندھر سے نقل مکانی کر کے موضع جمال پور ضلع لاہور چلے گئے تھے جو لاہور سے نارووال جاتے ہوئے شمال مشرق میں ۱۵ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ موضع لبان والا کے سکول میں چار جماعت ہی پڑھنے پائے تھے کہ ۱۹۰۹ء میں والد ماجد چوہدری روشن دین صاحب ابن چوہدری بہاول خان صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، اس لیے پڑھائی کا سلسلہ مزید آگے نہ بڑھ سکا۔ بھائیوں کے ساتھ مل کر کاشتکاری میں مصروف ہو گئے۔ انہی کی نگرانی میں قرآن مجید ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک سپارہ پڑھا تھا کہ بڑے بھائی چوہدری فضل دین صاحب بھی انتقال کر گئے۔ اب ایک بھائی اور بہنوئی کے ہمراہ زمینداری کا سلسلہ چلنے لگا۔ ۱۸ سال کی عمر تک یہی صورت حال رہی، پھر دو سال تک محکمہ راشن سے منسلک رہے اور یوں عمر عزیز کے بیس سال گزر گئے۔

وہ شخص جسے کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آخر وہ کس طرح ساری عمر ان دنیاوی دھندوں میں لگا رہتا، روح بیقرار، دل مضطرب تھا کہ کسی نہ کسی طرح منبع علم و حکمت قرآن مجید کے مطالب و معانی تک رسائی حاصل کی جائے۔ آخر یہ اشتیاق اس حد تک بڑھا کہ ۱۹۲۹ء میں ملازمت کو خیر باد کہہ کر سیدھے مرجع چشت اہل بہشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ کے دربار اقدس میں اجمیر شریف پہنچ گئے۔ وہاں دو تین دن تک رہے، لیکن وہاں کی زبان سے چنداں واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے لاہور واپس چلے گئے اور حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر حاضری دی، جہاں حضرت خواجہ اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چلہ کشی کی تھی۔ فاتحہ خوانی سے فارغ ہوئے، تو ایک بزرگ



سیرت شخصیت پر نظر پڑی۔ یہ حضرت مولانا صوفی غلام رسول صاحب بلند پایہ بزرگ موضع موچھل ضلع امرتسر کے رہنے والے تھے، جو تبلیغی دورے پر تھے اور چند بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے ہمراہ رہتے تھے، ان سے ملاقات کی اور ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے پڑھانے پر رضا مندی کا اظہار کیا، اس طرح ان کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا، ۱۰ ماہ کے عرصے میں سات سیپاروں کا ترجمہ پڑھ لیا، چونکہ مولانا کو پڑھائی کا حد سے زیادہ شوق تھا، اسی لیے دن رات اسی میں صرف کرنا چاہتے تھے، لیکن استاد محترم تاکید کے ساتھ زیادہ پڑھنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ ان کے ایک شاگرد مولوی امام الدین صاحب محنت کی زیادتی کی وجہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ مولانا کو پڑھائی کی ایسی لگن تھی جو کسی کروٹ آرام نہ لینے دیتی تھی۔ جب دیکھتے کہ استاذ مکرم جو خواب ہیں، تو اٹھ کر مسجد میں چلے جاتے اور سبق یاد کرنے میں مصروف ہو جاتے۔

ایک دفعہ خویش واقارب سے ملنے گھر آئے، توجی میں آیا کہ اس طرح پڑھنے کے لیے تو مدت درکار ہے، اس لیے کسی اور جگہ جانا چاہئے تاکہ جلد از جلد گوہر مقصود حاصل کیا جائے۔ انہی دنوں ضلع گوجرانوالہ میں ایک مدرسے کا پتا چلا، سوچا کہ وہیں چلنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے دلی مراد پوری ہو۔ وہاں جا کر انکشاف ہوا کہ یہ تو غیر مقلد ہیں، اس لیے دوسرے دن ہی وہاں سے چل دیئے اور جامع مسجد کھوجیاں والی میں جا پہنچے، وہاں پورے ذوق و شوق سے پڑھنے کا موقع ملا اور چار پانچ ماہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پورا پڑھ لیا۔ ان دنوں وہاں مولوی عبدالعزیز جامع مسجد کے خطیب تھے۔ ترجمہ قرآن مجید کی تکمیل کرنے کے بعد درسیات کی ابتدا کی۔ صرف بہائی وغیرہ کتابیں شروع کیں اور اس قدر دلچسپی اور انہماک سے اسباق جاری رکھے کہ مولانا کی ابتداء کے وقت جو طلبہ سکندر نامہ، فصول اکبری وغیرہ پڑھتے تھے، مختصر سے وقت میں ان تک جا پہنچے۔

کچھ عرصہ کے بعد مولانا مہر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مولوی سراج احمد، سید احمد علی، اور مولوی فضل کریم صاحبان ایک جماعت کی صورت میں جامع نعمانیہ لاہور پہنچ گئے،

امتحان دیا، اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کر کے داخلہ لے لیا، لیکن جلد ہی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ پڑھائی کے لیے شہری فضا چنداں سازگار نہیں ہوتی، اس لیے کسی دیہاتی ماحول کے مدرسے میں جانا چاہئے۔ چنانچہ نگاہِ انتخاب اس وقت لاہور سے تین میل دُور اچھرے کے مدرسے پر پڑی، جو اب بھی جامعہ فتحیہ کے نام سے قائم ہے۔ اچھرے کے مدرسے میں زرا دی، زنجانی، فصول اکبری اور ترکیب پڑھی، ہدایۃ النخوشروع کی تھی کہ سال ختم ہو گیا۔

یہاں یہ طریقہ رائج تھا کہ بڑے اسباق اساتذہ پڑھاتے اور چھوٹے اسباق طلبہ کے ذمے ہوتے۔ طلباء اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے پوری توجہ نہ دے سکتے تھے اور یہ بات مولانا کے لیے بارِ خاطر بنی رہتی۔ چاروں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایسی جگہ چلنا چاہئے، جہاں اساتذہ پڑھاتے ہوں۔ اسی تلاش میں مدرسہ کریمیہ جالندھر پہنچ گئے۔ وہاں مولوی محمد عبداللہ صاحب ہوشیار پوری صدر مدرس، اور مولوی احمد بخش صاحب نائب مدرس تھے، ان سے ایک سال کے عرصہ میں کافیہ، قدوری وغیرہ کتب پڑھیں۔ اگلے سال یہ سوچ کر پھر اچھرے چلے آئے کہ اب تو اساتذہ ہی ہمیں اسباق پڑھائیں گے۔ ان دنوں وہاں مولوی ابراہیم صاحب، مولوی محمد چراغ صاحب اور مولوی حبیب شاہ صاحب خطیب مصری شاہ مدرس تھے۔ اس سال شرح وقایہ، ہدایہ اولین وغیرہ کتب پڑھیں کہ اتنے میں دیوبندی بریلوی، اختلاف کھڑا ہوا، چونکہ میاں قمر الدین صاحب مہتمم مدرسہ منشی برکت علی، حاجی جان محمد وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ سب سنی تھے، اس لیے اس اختلاف کے دوران مولوی محمد چراغ وہاں سے چلے آئے۔ ان کے بعد استاذ الاساتذہ مولانا مہر محمد صاحب تلمیذ مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی شیخ الجامعہ بہاول پور کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان سے دورۂ حدیث کے علاوہ باقی کتب مثلاً ملا حسن، حمد اللہ، مختصر المعانی، مطول، خیالی، صدرا، شمس بازغہ وغیرہ پڑھیں۔ اس طرح قرآن مجید کی کشش اور فیض و برکت سے کتب درسیہ پڑھنے کی سعادت میسر آئی۔

دورۂ حدیث پڑھنے کے لیے امام الحدیث مولانا سید دیدار علی شاہ الوری، بانی مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور اور ان کے صاحبزادے مرشدی حضرت علامہ مولانا

ابوالبرکات سید احمد قادری (قدس سرہما) شیخ الحدیث والتفسیر حزب الاحتاب لاہور کی خدمت میں زانوئے تلمذتہ کیا اور ۱۳۳۶ھ / ۱۹۲۶ء کو سند فراغ حاصل کی۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب تفسیر خزائن العرفان سے بھی سند حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

دارالعلوم حزب الاحناف ہی میں مولانا حبیب شاہ صاحب سے کتب طب موجز، قانون شیخ اور قانون نچہ طب کا درس لیا اور ۱۹۵۴ء میں دارالعلوم طب جدید مشرقی شاہدرہ لاہور سے امتحان دے کر افتخار الاطباء کی سند حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں آپ مدرسہ اسلامیہ، اب مدرسہ حفظ القرآن، ہرہ کوٹ ضلع لائل پور میں مدرس تھے کہ امیر طریقت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری قدس سرہ دورے پر تشریف لائے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا مہر دین صاحب عارف کامل کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ کس قدر عظیم تائید ایزدی تھی کہ زمیندار گھرانے کا ایک نوجوان اب شریعت و طریقت کا فضل و شرف حاصل کر کے سنت نبویہ کا بہترین ترجمان اور مسلک اہل سنت کا بلند پایہ مبلغ بن گیا۔ کس کے تصور میں تھا کہ زمینداری وغیرہ میں مصروف یہ نوجوان علم و فضل کا رفیع القدر مسند نشین بنے گا۔ آپ کی تدریسی اور تبلیغی زندگی کا، دورہ بہت طویل ہے۔ آپ ایک سال ہرہ کوٹ، لائل پور، تین سال جامع نعمانیہ لاہور، دو سال مسجد شکر خاں احمد آباد یوپی، دس گیارہ سال حزب الاحتاب لاہور میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔

۱۹۳۶ء میں جامعہ نعمانیہ لاہور تشریف لائے، اسوقت حضرت مولانا تاج الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حیات تھے اور مدرسے کے منتظم تھے۔ تین سال یہاں رہنے کے بعد جامع مسجد شیخوپورہ بسلسلہ خطابت تشریف لائے۔ تین سال وہاں رہنے کے بعد لاہور تشریف لے آئے اور تقریباً آٹھ سال تک مسجد دائی انگہ میں خطیب رہے۔ بعد ازاں جامعہ نعمانیہ لاہور کے منتظمین نے ایک بار پھر آپ کی خدمات حاصل کر لیں۔ چار سال تک وہاں پڑھاتے رہے۔ مولانا کی دلی خواہش تھی کہ ایسے اسباب و ذرائع حاصل کیے جائیں جن سے

مدرسے کی ترقی اور عروج کو مدد ملے، لیکن انتظامیہ نے پس و پیش سے کام لیا، تو مولانا دل برداشتہ ہو گئے اور شاہ عالم مارکیٹ لاہور کے نزدیک نیویں مسجد نیا بازار میں مدرسہ غو لاٹمانیہ قائم کیا، بے سروسامانی کے عالم میں بھی مولانا کی علمی قابلیت و لیاقت کی کشش تھی کہ طلباء کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی، جن میں اکثر و بیشتر آخری کتابیں پڑھنے والے طلباء تھے۔ ۴ سال تک نہایت کٹھن اور ہمت شکن حالات کا مقابلہ کیا۔ بعد ازاں مدرسہ کی بہتری کی خاطر اسے کراؤن چوک گڑھی شاہو کی جامع مسجد میں منتقل کر دیا۔ وہاں حالات اور بھی زیادہ ناسازگار ہو گئے، جن کی بناء پر مدرسہ سے دستبردار ہونا پڑا۔

پھر ایک سال تک برکات العلوم مغلیہ پورہ، لاہور اور ایک سال جامعہ حنفیہ قصور پڑھاتے رہے۔ اس اثناء میں چونکہ آپ مستقل طور پر مصری شاہ قیام پذیر ہو گئے تھے، اس لیے اپنے گھر میں ہی سلسلہ تدریس شروع فرمایا۔

ظاہر ہے اتنے طویل عرصہ میں بی شمار علماء نے آپ سے استفادہ کیا ہوگا۔ خوف طوالت کے پیش نظر آپ کے صرف چند تلامذہ کے ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱- سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر صاحب، کوٹلی لوہاراں، سیالکوٹ
- ۲- خطیب پاکستان مولانا غلام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ، انجن شیڈ، لاہور
- ۳- مولانا محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری، مدیر رضوان، لاہور
- ۴- مولانا محمد عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مہتمم جامعہ حنفیہ، قصور
- ۵- مولانا علامہ محمد عبد القیوم ہزاروی، ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور
- ۶- مولانا علامہ محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ، سیالکوٹ
- ۷- مولانا انوار الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ناظم مکتبہ حامدیہ، لاہور
- ۸- مشہور و معروف مؤرخ صاحبزادہ علامہ اقبال احمد صاحب فاروقی اور
- ۹- مولانا باغ علی نسیم، ناظم مکتبہ نبویہ، لاہور
- ۱۰- مولانا مظفر اقبال صاحب، لاہور

- ۱۱۔ مولانا سید منزل حسین شاہ صاحب، لاہور
- ۱۲۔ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب مسجد اٹا صاحب، لاہور
- انکے علاوہ سندھ، سوات، بنیر وغیرہ کے بے شمار علماء کرام نے آپ سے استفادہ کیا۔
- حضرت مولانا مہر الدین نقشبندی جماعتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی اور تدریسی مصروفیات کے باوجود چند ایک نہایت اور قابل قدر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ تسہیل المبانی شرح اردو مختصر المعانی، جسے آپ نے ۱۹۵۵ء میں مکمل کیا۔
- ۲۔ فیصلہ شرعیہ بر حرمت تعزیہ، ردّ شیعہ جس کا موضوع نام سے ظاہر ہے۔
- ۳۔ حل قطبی، اردو
- ۴۔ مسائل رمضان
- ۵۔ النداء بحرف الیاء
- (الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کے جواز پر مختصر مگر مدلل رسالہ)
- ۶۔ مسائل شب برأت
- ۷۔ ردّ خاکسار
- ۸۔ بہار جنت
- ۹۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام
- ۱۰۔ شفاعت کی حقیقت
- ۱۱۔ مقالات مولانا محمد مہر الدین رحمۃ اللہ علیہ

## اہلسنت کیلئے لمحہ فکر یہ؟

مولانا کی تصنیف تسہیل المبانی کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مولوی حامد میاں خطیب پولیس لائن گوجر سنگھ کی روایت ہے کہ ایک مولوی صاحب ہندوستان سے

لاہور آئے۔ تو کہنے لگے کہ میں مولانا سرمدین صاحب قاسمیل دعوہ بند شائع مفسر معانی سے  
خلافت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ قاسمیل دعوہ بند تو کہا، انہوں نے تو دارالعلوم دعوہ بند کی  
مدت بھی نہیں دیکھی۔ میں ان سے اپنی طور پر حصارف ہوں، وہ تو برطیعی ہیں۔ پہلے تو  
انہیں یقین ہی نہ آیا کہ وہ برطیعی ہیں، لیکن جب میں نے انہیں پورے وثوق سے یقین دلایا  
کہ وہ برطیعی ہی ہیں۔ تو کہنے لگے: لہذا تو ہم وہ چھپنے ہوئے دعوہ بندی ہوں گے، ورنہ برطیعی  
ایسا کام نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ پچھ در پچھت کر کے ہامو فوشیہ لاگائیے۔ یہ نئی مسجد میں پہنچے، اتفاق  
کی بات کہ مولانا اس وقت تفصیل سے دعوہ بندیت اور وہابیت کا رد کر رہے تھے، جب کہیں جا کر  
ان کا دماغ ٹھکانے آیا۔

مولانا سید نظام بیگانی صاحب صدر المدینہ مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ میرٹھ  
نے بشیر الالام شرع ملکہ عالم اور بشیر الالام شرع بخاری میں دعوہ بندی معمرات کی طبعی قابلیت کا  
فائلانہ جائزہ پیش کیا اور دوسری طرف شہید ترمذی آزادوی مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عبد  
الحق خیر آبادی، مولانا نظام محمود (بھٹیاں) مولانا احمد حسن کانپوری، ملتی معایت احمد کوردی،  
مولانا فضل نام خیر آبادی نام اہلسنت اہل معمرات مولانا شاہ احمد رضا خاں برطیعی وغیرہم  
علمائے اہلسنت رحمہم اللہ تعالیٰ انکی ہاکمال ہستیاں ہیں (جن کی تفصیل اس جگہ دشوار ہے) کی  
تصنیفات میں سے ایک ایک کتاب انکی ہے، جس کا جواب مخالفین آج تک پیش نہیں کر سکے۔  
اس کے باوجود مقام فور ہے کہ مخالفین کو ایسے خیالات کے اعہار کی گنجائش کیونکہ  
ہوتی، اس کی دوعی دیکھیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ حد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا اسلئے کہ انہوں  
نے علمائے اہلسنت والجماعت کی تصنیفات کا مطالعہ ہی نہیں کیا، ورنہ ہرگز انہیں اس قسم کے  
سے بنیاد خیالات کے اعہار کی جرأت نہ ہوتی۔

ان حالات کے پیش نظر علماء اہلسنت والجماعت کا فریضہ ہے کہ علماء و اکابر اہلسنت کی  
تصنیفات کی بھرپور اشاعت کریں اور اسلاف کرام کی مسامی جمیلہ کو منظر عام پر لائیں۔ موجودہ  
دور کے فضلاء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ تحریری میدان میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ

باطل پرستوں کو راہِ حق و صداقت نظر آ جائے اور انہیں راہِ راست کی طرف آنے میں آسانی ہو۔  
زیر نظر کتاب ”اسلام میں تصورِ شفاعت“ حضرت مولانا محمد مہر الدینؒ کی  
اہم تصنیف ہے جس کی اشاعت کی سعادت مکتبہ جمال کرم لاہور کو حاصل ہو رہی  
ہے۔ یہ ادارہ اہل سنت کے اداروں میں تھوڑے عرصے میں علمی و فکری میدان میں آیا  
اور نہایت عمدہ دیدہ زیب کتابیں شائع کیں۔ مولانا کریم! اس ادارے پر اپنی خاص  
رحمت نازل فرمائے اور اس خزاں رسیدہ دور میں سب کی آرزوؤں کو بہار آشنا کر  
دے۔ حضرت مولانا کی تین اور اہم کتب ”بہارِ جنت“ ”حیاتِ حضرت عیسیٰ علیہ  
السلام“ اور ”حرمتِ تعزیہ“ بھی مکتبہ جمال کرم لاہور ہی شائع کر رہا ہے۔ اللہ رب  
العزت ادارہ کے اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اکابر علمائے اہل سنت  
کی تصانیف کو شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔

وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

والسلام

محمد عبدالحکیم شرف قادری

شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

۲۳۔ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

۱۶۔ جون 2001ء



## ضروری اور معیاری گذارش

برادرانِ اسلام! شمس و امس کی طرح واضح ہے کہ اہلسنت والجماعت کا مسلک اور مذہب ہی صحیح ہے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ قرونِ اولیٰ کا یہی نظریہ حیات تھا۔ یہی سوادِ اعظم اور لائحہ عمل جمہورِ اہل اسلام ہے۔ اور یہی کتاب و سنت کا مرقع اور لب لباب ہے اور ضروری و واجب العمل اور باقی گروہ اور اسلامی فرقے محض افراط و تفریط کی ایجاد سے اہلسنت والجماعت سے الگ ہو کر مختلف ناموں سے موسوم ہیں جن سے ہر فرقہ بزعم خود اپنے کو صراطِ مستقیم پر تصور کرتا ہے اور دوسرے کو غلطی کا مجسمہ قرار دیتا ہے۔ گو ہر انسان آزاد ہے اور مختار اور ادھر شرعی پابندی ناپید ہے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا مگر بعض معلومات و حقائق ضروری ہیں اور معیاری کہ اگر ان کو سمجھ لیا جائے اور اپنے حال و حال کا لائحہ عمل بنایا جائے تو بہت ممکن ہے کہ اس مذہبی اور نظری افراط و تفریط کی حقیقت منکشف ہو کر قلت اختلاف کا موجب بن سکے اور تعدد و تکرر مذہبی کا قدرے سدباب ہو سکے اور وہ معلومات چند شرعی مصطلحات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) فرض اعتقادی: اور وہ یہ ہے کہ ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو جیسے صوم و صلوة۔ اس کا انکار ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر ہے اور اس کی فرضیت اگر عوام و خواص سب پر واضح ہو تو اس کے انکار پر امت کا قطعی اجماع ہے کہ یہ کفر ہے کہ جو اس کو کفر نہ کہے وہ بھی کافر ہے اور اس کو بلا عذر شرعی ایک بار بھی چھوڑے تو فاسق مرتکب کبیرہ و مستحق عذابِ نار ہے۔ خلاصہ یہ کہ انکار اس کا کفر صریح اور ترک بلا عذر گو ایک بار ہو موجب فسق ہے۔



(۲) فرض عملی: اور وہ یہ ہے جس کا ثبوت قطعی دلیل سے تو نہیں مگر اولہ شرعیہ کی روشنی میں مجتہد کی نظر میں بغیر کرنے کے انسان بری الذمہ نہ ہو سکے حتیٰ کہ یہ اگر کسی عبادت میں فرض ہے تو وہ عبادت اس کے بغیر محض باطل ہوگی۔

اس کا حکم یہ ہے کہ بلاوجہ اس کا انکار گو کفر نہیں لیکن فسق و گمراہی ضرور ہے ہاں مجتہد دلیل شرعی سے اس کا انکار کر سکتا ہے جیسا کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے اختلافات ہیں کہ ایک امام ایک چیز کو فرض قرار دیتا ہے اور دوسرا نہیں مثلاً حنفیہ کے نزدیک وضو میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور شافعیہ کے نزدیک چوتھائی نہیں بلکہ ایک بال سر کا اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا فرض وضو میں حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ کہنا اور نیت کرنا سنت ہے اور حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک فرض اور اس فرض عملی میں ہر شخص اسی کی پیروی کرے گا جس کا وہ مقلد اور پیروکار ہے۔ اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی اطاعت جائز نہیں اور اس کے امام نے جس امر کو عبادت میں فرض قرار دیا ہے گو اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا لیکن اس کے ادا کیے بغیر وہ عبادت باطل اور کالعدم ہوگی۔ اسے دوبارہ کرنا لازم ہوگا۔

اس سے ثابت ہوا کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے اجتہادی فرائض صرف انہی کے پیروکاروں کے لیے ہیں نہ دوسرے کے لیے اور اس کو فرض اجتہادی بھی کہتے ہیں۔

(۳) واجب اعتقادی: اور یہ وہ ہے کہ ظنی دلیل سے اس کا ضروری اور لازمی ہونا ثابت ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ فرض عملی و واجب عملی۔ لہذا جو حکم فرض عملی اور واجب عملی کا ہوگا وہی اس کا ہوگا۔

(۴) واجب عملی: اور یہ وہ واجب اعتقادی ہے کہ کیے بغیر گو بری الذمہ ہونے کا احتمال ہے لیکن مجتہد کا غلبہ ظن اس کو ضروری اور لازم قرار دیتا ہے کہ کسی عبادت میں اس کا کرنا درکار ہو تو اس کے ادا کیے بغیر عبادت ناقص ہوگی گو ادا ہو جائے گی۔ اور مجتہد شرعی دلیل سے واجب کا

انکار کر سکتا ہے یعنی اجتہادی واجب اور کسی واجب کا قصداً ایک بار چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ جیسا کہ مشہور ہے کہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ کا موجب ہے۔

**(۵) سنت موکدہ:** اور یہ وہ ہے جس کو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کر دیا ہو یا یوں کہو کہ جس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر ترک بالکل منع نہیں فرمایا اس کا ترک کرنا اساءت اور کرنا ثواب اور ترک کرنا نادراً عتاب اور ترک کی عادت ذریعہ استحقاق عذاب۔

**(۶) سنت غیر موکدہ:** اور یہ وہ ہے کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کا ترک ناپسند ہو مگر نہ بائن طور کہ ترک پر وعید عذاب فرمائے عام ازیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مداومت اور ہمیشگی فرمائی یا نہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادت ہو موجب عتاب نہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ سنت موکدہ ہو یا غیر موکدہ کے ترک سے کفر لازم نہیں آتا اور یہ بالکل ظاہر اور بدیہی بات ہے کیونکہ جب وجوب کے ترک سے کفر لازم نہیں آتا تو ترک سنت و استحباب و اباحت سے بطریق اولیٰ لازم نہیں آئے گا۔

**(۷) مستحب:** اور یہ وہ ہے جو کہ نظر شرع میں پسندیدہ ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو خواہ خود حضور پر نور ﷺ نے بنفس نفیس کیا یا اس کی ترغیب دی یا اس کو علماء کرام نے پسند فرمایا اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کوئی حرج نہیں۔

**(۸) مباح:** اور یہ وہ ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو اور اس پر نہ ثواب ہو نہ عذاب۔ ناظرین کرام! یہ کسی چیز کے کرنے کی صورت میں آٹھ شرعی دفعات ہیں جن کے کوائف حسب ذیل ہیں:

- ۱- ان آٹھوں میں ”کسی چیز کا کرنا“ بطور اشتراک موجود ہے۔
- ۲- کرنے کی نوعیت ان میں ایک جیسی نہیں کسی میں ضروری اور لازمی اور کسی میں غیر

ضروری اور غیر لازمی۔

- ۱۔ ان سے صرف فرض اعتقادی کا انکار کفر ہے باقی کا نہیں۔
- ۲۔ ان سے کسی کا ترک عمد یا سہواً موجب کفر نہیں گو بعض کا ترک فسق ہے۔
- ۵۔ سنت کا انکار گو کفر نہیں لیکن جو سنت بالتواتر ثابت ہو اس کی سنیت متواترہ بحیثیت متواترہ کا انکار کفر ہے۔ ایسے ہی سنت متواترہ کا بحیثیت سنیت بلکہ شرعی اباحت بحیثیت اباحت کا انکار یا اسکی تحقیر و استحقاف موجب کفر ہے۔

(۶) جہاں پر فرض ہوگا وہاں پر واجب سنت وغیرہ سب موجود ہوں گے (یعنی ان کا مفہوم کرنا) اور اس کا عکس نہیں یعنی جہاں اباحت ہو وہاں مستحب نہ ہوگا اور جہاں مستحب ہوگا وہاں سنت نہ ہوگی وعلیٰ ہذا القیاس۔

(۷) دوام و لزوم عمل کو وجوب و فرضیت عمل لازم نہیں یعنی ایک امر کے دائمی اور لازمی طور پر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فرض یا واجب یا سنت ہے جیسے نفل کہ اس پر دوام و لزوم اس بات کا مقتضی نہیں کہ اس کو فرض یا واجب سمجھ لیا جائے یعنی یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ یہ عمل چونکہ لازمی اور دائمی طور پر کیا جا رہا ہے اور یہ شان فرض و واجب کی ہے لہذا، فرض و واجب ہے کیونکہ نقل پر دوام لہذا دوام سے شرعی وجوب و فرض سمجھ لینا ناجائز اور شریعت مطہرہ پر افتراء ہوگا۔ بناء علیہ امور مستحسنہ و مباحہ پر دوام و لزوم وجوب و فرضیت عمل کی دلیل نہ ہو سکے گی۔

**(۹) وجوب و فرض اختیاری:** اور یہ وہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کسی کام کے

کرنے کا التزام کر لے اور اس کا کرنا ضروری اور لازمی تصور کرے گو اخلاقی طور پر اس کو کرنا ہی چاہئے مگر اگر اس التزام کے بعد اس نے نہ کیا تو شرعی طور پر یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

**(۱۰) غیر فرض کو فرض و واجب کہنا:** شرعی فرائض و واجبات کے علاوہ اپنے

معمولات اقوال و افعال سے کسی امر کو شرعی واجب اور فرض کی طرح سمجھنا ناجائز ہے اور

شریعت پر بہتان ہے گویا یہ نئی شریعت کی ایجاد ہے جو عقلاً و نقلاً باطل ہے۔

۱۔ حرام: یہ فرض کا مقابل ہے اور یہ وہ ہے کہ فرض کی طرح قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ اس کا ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کبیرہ و فسق ہے۔ اور اس سے پرہیز فرض و ثواب اس کی فرضیت قطعی ہونے کی وجہ سے اس کا منکر کافر ہے کہ جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر۔

۲۔ مکروہ تحریمی: یہ واجب کے مقابل ہے اور دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اس کے نہ کرنے سے عبادت ناقص اور کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہوتا ہے یعنی اس کا منکر کافر نہیں اگرچند بار کرے تو گناہ کبیرہ ہے جو کہ موجب فسق ہے۔

۳۔ اساءت: اور یہ وہ ہے کہ اس کا کرنا برا ہو اور نادراً کرنے والا مستحق عتاب اور التزام فعل پر استحقاق عذاب..... یہ سنت موکدہ کے مقابل ہے اور ثبوت و بقا میں مساوی۔

۴۔ مکروہ تنزیہی: اور یہ وہ ہے کہ اس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے یہ سنت غیر موکدہ کے مقابل ہے اور ثبوت و بقا میں مماثل۔

۵۔ خلاف اولیٰ: اور یہ وہ ہے کہ نہ کرنا بہتر تھا کیا تو کچھ مضائقہ و عتاب نہیں یہ مستحب کا مماثل و مقابل ہے ان عنوانات و مصطلحات کے بیان کرنے میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر حقیقت یہی ہے جو مذکور و مسطور ہوئی۔ ناظرین باتمکین! یہ کسی امر کے نہ کرنے کی صورت میں پانچ دفعات ہیں جن کے کوائف بفحوای الاشیاء تعرف باضدادہا مذکور الصدور کوائف کے پیش نظر سمجھے جاسکتے ہیں لیکن آسانی کے لیے صراحتہ بیان کر دیتے جاتے ہیں۔

- (۱) ان پانچوں میں کسی ”چیز کا نہ کرنا“ اشتراکی طور پر موجود ہے۔
- (۲) نہ کر نیکی صورت سب میں ایک جیسی نہیں کسی میں نہ کرنا ضروری ہے اور کسی میں

اس کے خلاف۔

(۳) ان میں صرف حرام قطعی کا انکار کفر ہے باقی کا نہیں۔

(۴) ان سے کسی کا ارتکاب عمد یا سهواً موجب کفر نہیں گو بعض کا کرنا فسق و فجور ہے۔

(۵) کسی کراہت کا انکار جب کہ اس کی کراہت کا ثبوت بالتواتر ہو گو کفر نہیں لیکن

کراہت متواترہ من حیث التواتر کا انکار موجب کفر ہے۔ ایسے ہی کراہت متواترہ

کا استخفاف بھی موجب کفر ہے۔

(۶) جہاں پر حرمت قطعی ہوگی یعنی کرنا قطعی طور پر حرام ہوگا وہاں پر باقی اقسام بھی ہوں

گے (یعنی ان کا مفہوم نہ کرنا) اور اس کا عکس نہیں یعنی جہاں خلاف اولیٰ ہوگا وہاں

مکروہ تنزیہی نہیں ہوگا اور جہاں مکروہ تنزیہی ہوگا وہاں مکروہ تحریمی نہ ہوگا۔ علیٰ ہذا

القیاس

(۷) کسی چیز کے بوجہ کراہت یا خلاف اولیٰ ہونے کے اتفاقاً یا دائمی طور پر نہ کرنے

سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز شرعاً حرام ہے جیسا کہ کسی چیز کے دائمی طور پر کرنے

سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فرض ہے یا واجب یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ وہ چیز نہیں

کہ گئی لہذا وہ حرام ہے کیونکہ نہ کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ حرام ہے بلکہ اس وجہ

سے ہے کہ سلیم الفطرت انسان شرعاً و عادتاً ایسی مکروہ چیزوں سے دائمی طور پر بیزار

و متنفر رہتا ہے۔ لہذا مکروہات سے ہنگامی اور دائمی متنفر و بیزاری اس اعتبار سے نہیں

کہ وہ حرام ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ طبعی و عادی طور پر غیر مانوس ہیں لہذا کسی

مکروہ کو از خود حرام کہنا کسی وجہ سے درست نہیں..... خلاصہ یہ کہ کسی شخص کو یہ حق

حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے حلال و حرام جائز و ناجائز فرض و واجب وغیرہ کہتا

رہے کہ یہ صریح طور پر افراط و تفریط ہوگی جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔

اوامر شرعیہ: وہ جملہ معمولات و مشروعات جن کے کرنے کا حکم ہے خواہ از قبیلہ وجوب

ہوں یا غیر یہ سب کے سب شریعت کے زیر حکم ہیں کسی کے کرنے کا از خود کوئی مجاز نہیں۔

نو، ہی شرعیہ: وہ جملہ ممنوعات جن سے زندگی میں علیحدگی اختیار کی جاتی ہے اور امر کی طرح یہ بھی بحکم شریعت مطہرہ ہیں..... خلاصہ یہ کہ انسان کا کرنا نہ کرنا دونوں شعری حکم ہیں اپنی طرف سے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینا شارع کے علاوہ اور کسی کو جائز نہیں۔

بدعت: شریعت میں بدعت سنت کے مقابل ہے اور اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر نئی ایجاد بدعت و ضلالت ہے بلکہ بدعت کا مفہوم شعری نقطہ نظر سے یہ ہے کہ وہ ادلہ شرعیہ کے مخالف ہو جیسا کہ سیرت حلبی وغیرہ میں اشام شافعی سے منقول ہے کہ بدعت ضلالت یہ ہے کہ کتاب سنت اجماع اثر کے برخلاف کسی امر کو جاری کیا جائے تو ثابت ہوا کہ ہر اچھی چیز جو مخالف نہ ہو اس کی ایجاد بدعت و ضلالت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر نو ایجاد کو بدعت و ضلالت کہنا درست نہیں بلکہ وہ جو ادلہ شریعت کے مخالف ہو۔ لہذا امت میں جو امور مستحسنہ جاری ہوئے یا ہوں گے ان کو بلا دلیل بدعت و ضلالت کہنا جائز نہ ہوگا۔

شُرک: لغت میں شرک یہ ہے کہ کسی کام میں دوسرے کو شریک کر لینا اور شریعت میں شرک یہ ہے کہ کسی ممتنع لذاتہ شی کے جواز کا اعتقاد کر لینا کیونکہ شرک توحید کا مقابل ہے اور مسئلہ توحید واجب عقلی ہے یعنی توحید ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو واجب بالذات تسلیم کیا جائے تو شرک لامحالہ یہی ہوا کہ وجوب ذاتی کے مقابل امر کے جواز کا اعتقاد رکھا جائے اور وہ ممتنع لذاتہ ہے جیسے مقابل کی الوہیت اور اس کے وجوب ذاتی اور غنا ذاتی جو کہ ممتنع لذاتہ امور ہیں کا اعتقاد کیا جائے تو شرک حقیقہ یہی ہو کہ کسی غیر اللہ کے لیے الوہیت وجوب ذاتی غنا ذاتی وغیرہ امور ثابت کیے جائیں اور جو چیز اس قسم کی حیثیت نہ رکھتی ہو اس کا اثبات ہرگز شرک نہ ہوگا جیسا کہ آج شرک کا اطلاق عموماً بلا وجہ صحیح زبان زد عوام ہے یا یوں کہئے کہ شرک حقیقہ یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی الوہیت و وجوب ذاتی اور اسکی صفات ذاتیہ میں غیر کو شریک کیا جائے یعنی غیر اللہ کے لیے الوہیت اور صفات ذاتیہ ازلیہ قدیمہ کو ثابت کیا جائے یا یوں کہئے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت قرار دیا جائے پس اگر کسی نے الوہیت اور استحقاق عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا تو وہ شرک نہیں لہذا اسباب کی طرف نسبت افعال بحیثیت اسباب شرک نہ ہوگا۔ اس کو شرک کہنا اور ایسا کرنے والے کو شرک کہنا شریعت پر بہتان عظیم ہے نیز امور مروجہ ختم درود میلاد وغیرہ شرک نہیں کہ حقیقت شرک ان میں ناپید ہے۔

**کفر بطریق سد باب:** بعض وقت بنا بر مصلحت یا سد باب کی طور پر ایک شے کے انکار سے روکا جاتا ہے جیسا کہ بدکاری کی روک تھام یک لیے بدکاری کے اسباب و وسائل کو شرعاً حرام کر دیا گیا ہے لیکن اگر کسی نے ایسے بعض وسائل کو کر لیا تو یہ فعل حرام ہوگا لیکن کرنیوالا کافر نہ ہوگا ورنہ دین میں افراط و تفریط اور غلو متصور ہوگا جو کہ شرعاً ممنوع ہے اور خارجیوں کی صریح علامت ہے۔

**عقیدہ:** شریعت میں عقیدہ کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ دلیل قطعی ہو ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہ ہوگا بلکہ ظن و گمان۔

**ثبوت مسئلہ:** مسئلہ اگر ظنی ہو تو دلیل ظنی سے ثابت ہو جائے گا اور مسئلہ اگر قطعی ہے جیسا کہ عقیدہ تو ثبوت کے لیے دلیل قطعی ہونا لازمی اور ضروری ہے یہ ظنی دلیل سے ثابت نہ ہوگا۔  
**مسئلہ کا انکار:** مسئلہ اگر قطعی ہے تو اس کا انکار موجب کفر ہے اور اگر ظنی ہے تو انکار سے کفر لازم نہ ہوگا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ ظنی کا انکار کر دیا جائے بلکہ دلائل ظنیہ سے جو مسائل ثابت ہوں گے ان پر عمل درآمد لازمی اور ضروری ہوگا جیسا کہ مسائل اجتہاد یہ ہیں۔

**ایمان:** ضروریات دین کی تصدیق کا نام ایمان ہے اور ضروریات دین ان متواترات شرعیہ

کا نام ہے جن کے حصول علم میں عوام و خواص سب برابر ہوں اور اس کثرت سے ان کی تبلیغ کی گئی ہو کہ گویا وہ بدیہی امور ہیں جیسے توحید و رسالت حدوٹ عالم حشر و نشر صوم و صلوة وغیرہ ایسے جملہ ضروریات کی تصدیق کا نام ایمان ہے گویا یہ تحقیق ایمان کے دفعات ہیں کہ سب کو تسلیم کرنا ایمان ہے اگر ایک کا بھی انکار کیا تو ایمان ختم ہو گیا۔

کفر: مذکورہ بالا ضروریات سے سب کا یا بعض کا انکار کرنا کفر ہے نیز احکام شرعیہ کی تحقیر اور حدود اسلامیہ کا استخفاف اور اسلامی تعلقات کا مذاق و استہزاء بھی موجب کفر ہے لہذا امور مستسنہ مباحہ مروجہ میلاد وغیرہ کفر نہیں۔ کیونکہ ان میں یہ انکار وغیرہ کچھ نہیں۔

ارتداد: اسلام کو چھوڑ کر بلا جبر و اکراہ بقائمی ہوش و حواس عدا و ارادۃ کسی اور دین کو اختیار کرنا شرعاً ارتداد ہے۔ ایمان کفر ارتداد کی یہ حقیقت ہے اور کسی کو کافر مومن مرتد کہنے کا یہ شرعی ضابطہ ہے جس کی روشنی میں کسی کو مومن وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ خواہ وہ امیر ہو یا غریب، سفید ہو یا کالا حسین ہو یا حقیر حاکم ہو یا محکوم کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب چاہے جس کو چاہے مومن و کافر مرتد کہتا پھرے اور اپنی دھونس جگاتا رہا۔

بہر صورت یہ چند شرعی مصطلحات ہیں اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے اور مسائل مختلفہ کا دیانت دارانہ انداز سے مطالعہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ بڑھتے ہوئے ملی اور ملکی تشمت و افتراق میں افراط و تفریط کی کمی محسوس ہونے لگے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رُسُلِهٖ الْکَرِیْمِ

## مقدمہ

### ایجاد کائنات عالم کا مقصد

ناظرین باتمکین! دنیائے کائنات کے کسی حصہ پر نظر ڈالئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جس ہیئت و شکل پر قدرت نے پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی موزوں صورت نہیں ہو سکتی۔ آسمانوں کو ملاحظہ فرمائیے تو ان کی وسعت و رفعت اور ان میں چھوٹے بڑے ستاروں کا خاص انداز پر متحرک و مستقر ہونا اور ان سے مفید تاثرات کا نمودار ہونا زمین ملاحظہ فرمائیے تو اس کی خشکی اور تری نشیب و فراز آبادی و ویرانی اس میں شجر و حجر کی کیفیت و کمیت نباتات کا جاذب نظر ہونا مناسب اختلاف انسانی و حیوانی فطرتی ترتیب معہ امتیاز شرافت وغیرہ بہر صورت ہر چیز کا نفس الامری اور فطرتی انداز پر موجود ہونا زبان حال سے اپنے خالق و مالک کی دعوت دیتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا: **وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ الْاٰیة** ”ہر چیز اپنے رب کی صفت و ثنا کرتی ہے تو ثابت ہوا کہ ہر چیز پر فطرتی طور پر ضرورت اور لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مربی کی یاد میں رہے اور اس کی عبادت کرے۔ بالخصوص حضرت انسان کہ اس کو کائنات پر شرافت بخشی ہے اس پر اور ضروری کہ یہ اپنے مولیٰ کریم کی عبادت میں پورے خلوص سے منہمک رہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا: **وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ**۔ ”ہم نے انسانوں اور حیوانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں اور شکر یہ بجالائیں۔“

## انسان کی بنیادی کمزوری

اس میں شبہ نہیں کہ خلقت انسان کی وجہ وجہہ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے اور اس کے نامتناہی احسانات کا شکریہ ادا کرتا رہے مگر حقیقی طور پر وہ اس سے قاصر ہے کیونکہ اس کے انعامات غیر محدود ہیں اور انسان ہر طرح سے محدود جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا۔ ترجمہ ”انسان فطرتی و طبعی طور پر کمزور واقع ہوا ہے۔“ تو پھر مکمل طور پر یہ کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا اِنْ تَعْلَمُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا تَرْجَمُ ”یعنی تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔“ تو پھر ہر نعمت کا شکریہ کیسے ادا ہو سکتا ہے اور اسی بنا پر حضور سرور کائنات فخر موجودات ارفع العرب والعجم نے فرمایا اللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا اُحْصِیْ ثَنَاءً عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِکَ تَرْجَمُ (اے اللہ میں تیری مکمل اور انتہائی صفت و ثناء نہیں کر سکتا) ثابت ہوا کہ انسان یا کوئی اور جبلی و فطرتی طور پر کمزور ہے کما حقہ اپنے مالک و خالق کی عبادت اور شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔

## انسانی افراط و تفریط

اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرما کر ان کے مقصد حیات کو واضح فرمایا اور عبادت کے طریقوں کی تشریح کی عبادت پر خوشخبری اور معقول قسم کی ترغیبیں سنائیں اور نافرمانی پر عذاب کی دھمکی اور متعدد وعیدیں بتا کر جادہ اعتدال پر لانے کی فضا پیدا کی اور ہر حکم کی حد بندی فرما کر مخالفت کرنے والے پر حدود سزائیں مقرر فرمائیں جس کی وجہ سے پوری پابندی کرنے کا بعض کو مناسب موقع میسر آ گیا تو انہوں نے اپنے مولیٰ کریم کو راضی کر لیا مگر پھر بھی انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور واقع ہوا ہے اس سے حدود مقررہ و متعینہ میں افراط و تفریط اور احکام خداوندی میں کمی و بیشی عین ممکن بلکہ واقعہ ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ شریعت

مطرہ میں بعض افراد کو مخالفت کی بنا پر سزائیں دی گئیں اور دی جاتی ہیں تاکہ امن امہ میں خلل نہ پڑے اور ہر شخص فرحت و سرور کی زندگی بسر کر سکے اور حضور و خلوص کے ساتھ اپنے مالک و مربی کے ساتھ رابطہ قائم رکھے۔

## شریعت میں گناہ کی معافی

شریعت مطہرہ میں اگر کوئی شخص کفر و شرک کو اختیار کرے اور اسی پر معاذ اللہ مر جائے تو اس کی معافی ہرگز نہ ہوگی اور یہ ابدی طور پر جہنم میں رہے گا کیونکہ کفر و شرک کا دائمی ارادہ و اعتقاد وہ انتہائی جرم ہے کہ جس کی سزا بھی دائمی اور ابدی ہونا ضروری ہے اور کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ تو بہ بلا تو بہ معافی کے قابل اور سزاوار ہے اور اس کو زور دیا بدیر بالواسطہ یا بلا واسطہ عذاب سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ شریعت میں ایسی معافی کے بیشمار واقعات موجود ہیں نیز اخلاقی طور پر بھی معاف کر دینے میں حرج نہیں ہے بلکہ اس کو عرف عام میں ایک قابل تعریف اور جو دو کرم تصور کیا جاتا ہے۔ عموماً ڈانٹ و ڈپٹ زجر و توبیخ کے طور پر جو سزائیں سنائی جاتی ہیں تدریجی یا فوری طور پر معمولی سزائیں کے بعد معاف کر دی جاتی ہیں اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی ذوجاہت یا عزت یا تعلق محبت وغیرہ کے کہنے اور سفارش کرنے سے بھی معافی دیدی جاتی ہے اور اس پر کبھی کسی کو کسی طرح کا ملال اور قلق و اضطراب نہیں ہوتا۔ بہر سچ شرعی اور اخلاقی طور پر کسی جرم کو معاف کر دینے میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔

## در بار الہی میں انسان کی عزت

بلا ریب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ سب کا خالق و مالک ہے اور رازق اس کی سب کی طرف نظر عنایت ہے وہ سب کے حال و قال سے واقف ہے ہر چیز کو جس کیفیت اور حالت پر رکھا ہے وہ انتہائی طور پر اس کے موافق ہے ہر پر مہربان ہے پھر بھی اس نے بعض افراد کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھئے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور مومن کو کافر پر رتبہ دیا اور رسولوں کو علی نبینا وعلیہم السلام غیر نبیوں پر بے پناہ کرامت بخشی اور رسولوں سے بھی بعض

کو افضل بنایا ایسے ہی غیر نبیوں سے اولیاء کرام اور صوفیائے عظام کہ ان میں باہمی اکثر و بیشتر تفاوت ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بعض کو وجیہہ فرمایا بعض کو صالح بعض کو کلمہ بعض سے کلام بلا واسطہ اور بعض سے بالواسطہ خصوصاً خواجہ دوسرا محمد مصطفیٰ ﷺ سید الاولین و الآخین مبدۂ نبوت ختم نبوۃ مفتوح ثبوت مقطع حدوث نائب اکبر خلیفہ اعظم صاحب لولاک شافع محشر ساقی کوثر کو وہ فضائل و فواصل عطا فرمائے کہ کسی کے لیے امکان نہیں ایسے ہی ہزاروں چیزیں ہیں جن کی دربار الہی میں انتہائی عزت ہے متعدد شعائر ہیں جو کہ بارگاہ صمدیت میں منظور ہیں بے تعداد امور و اقوال و افعال ایسے ہیں جو کہ دربار احدیت میں معزز و موقر ہیں۔ الغرض بے انداز ایسی چیزیں ہیں جو کہ رب العزت کی مقبول ہیں کہ ان کو شرف قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا۔

## امت کا تقاضا

ناظرین کرام! وقت کا تقاضا یہی تھا کہ امت سرکار ابد قرار علیہ السلام ﷺ ملک کے طول و عرض میں بفتحوائی و کنتم خیر امۃ اپنے قابل تقلید اصول و ضوابط کی وجہ سے ہر طرح پر بلند اور بالا رہتی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے ارتقائی منازل طے کرتی باہمی اتفاق و اتحاد کو اپنا معیاری نقطہ تصور کرتی اخلاق حسنہ امانت و دیانت زہد و تقویٰ سیادت و سخاوت شجاعت و جسارت وغیرہ میں نمونہ ہوتی اقوال و اعمال میں مجسمہ عدل و انصاف ہوتی اور ہر قسم کے افراط و تفریط سے الگ رہتی۔ قرآن و سنت کے محاسن بیان کرتی اسلامیات کو مثالی ظاہر کرتی توحید و رسالت کو معیار نجات بتاتی۔ سلف صالحین و بزرگان دین کے لائحہ عمل کو سراہتی۔ ان کے فہم و فراست کو قابل تعریف بتا کر ان کی خدمات کی تقلید و پیروی ضروری قرار دیتی۔ ان سے علیحدگی و تنہائی کو قابل نفرت و مذمت قرار دیتی بلکہ موجب سزا بتاتی مگر افسوس کہ آج یہی امت نفسیاتی تصورات کا شکار ہو گئی جاہدہ اعتدال سے بیگانہ ہو گئی اس کا زاویہ عمل اور لائحہ حیات قابل تعریف نہ رہا دوسروں کے اختلافات مٹانے کی بجائے خود اختلافات کا شکار ہو گئی۔ باہمی کاوشوں کو

نظریہ حیات بنا کر اپنے وجود کو خطرہ میں ڈال چکی کتاب و سنت کے مقابلہ میں مادی وسائل کو اپنانا اہم فریضہ سمجھ چکی ملکی اختلافات و مناقشات کے علاوہ ملی تنازعات میں الجھ گئی اغیار پر سبقت حاصل کرنے کی بجائے اپنے وقار بلکہ اپنی ہستی کو ٹھیس لگا چکی۔ فضول بحثوں اور لفظی جھگڑوں کو موقف کمال یقین کر چکی یقینیات کو مخیلات اور مباحات کو درجہ ثبات دو جوہ تک پہنچا چکی محض جواز و استحسان کو کفر و اسلام کا معیار بنا چکی۔ کہیں بشریت اور نور کا جھگڑا اور کہیں مساوات اور افضلیت کا کہیں ایصال ثواب اور فاتحہ و درود محل بحث بنا ہوا ہے اور کہیں صلاۃ و سلام کہیں علم غیب و اختیارات میں گفتگو ہو رہی ہے اور کہیں جبر و قدر میں کہیں شفاعت و امداد کا مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے اور کہیں ندا و دعا کا۔ کہیں اسلام کو نجات کے لیے معیاری حیثیت دی جا رہی ہے اور کہیں سوشلزم وغیرہ کو کہیں مخلوقات کو قدرت الہیہ کا تاثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہیں بخت و اتفاق وغیرہ کو..... مختصر یہ کہ ہچموں قسم کی و بیشی سے صحیح معیار زندگی ختم ہو گیا اور مطلق العنان ہو کر تعدد ملت میں گر گئی۔ اللہ کرے کہ اس کو کتاب و سنت پر عمل کرنیکی توفیق ہو اور اپنے اسلاف کی زندگی کو پیش نظر رکھے تاکہ دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی ہو اور دربار الہی میں سرخروشی کامل نصیب ہو آمین ثم آمین۔

## اختلاف کی بنیاد و ابتداء

ناظرین حضرات! یوں تو اختلاف امت کا سلسلہ قرون اولیٰ اور متقدمین میں سے چلا آ رہا ہے لیکن ہم صرف اور صرف وہ اختلاف بیان کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان و ہندوستان کے علماء احناف میں پایا جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں جیسا کہ تاریخ اس پر شاہد عدل ہے کہ اکابر علماء پنجاب کے ہوں یا سرحد کے دہلی کے ہوں یا غیر تیرہویں صدی کے آخر تک ان میں کوئی ایسا اختلاف جو کہ باہمی نفرت و کدورت تک نوبت پہنچائے ہرگز نہ تھا۔ ان دنوں مقتدائے عصر پیشوائے علم و عمل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محدث مرجع عوام و خواص تھے۔ شریعت و طریقت کے مثالی امام تھے اور علمائے ہند مثلاً مولوی محمد حسین صاحب الہ آبادی،

مولوی احمد حسین صاحب کانپوری، مولوی لطف اللہ صاحب علی گڑھی، مولیٰ عبدالسمیع صاحب رامپوری، مولوی محمد قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی خلیل احمد انیسٹروی وغیرہ کے پیرومرشد تھے کہ نجد سے محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید ہندوستان پہنچی اور مولوی اسمعیل دہلوی نے اس خاص مشن پر تقویت الایمان لکھ کر پھاپی جو کہ درحقیقت کتاب التوحید کا ترجمہ ہی ہے۔ مندرجہ با علماء حضرات پہلے سب کے سب مسائل فاتحہ و میلاد وغیرہ میں نہ صرف یہ کہ متفق و متحد تھے بلکہ مولیٰ اشرف علی تھانوی تو اپنے قیام جامع العلوم کانپور میں خود قیام و میلاد کرتے اور منکر کے خلاف شرعی فتاویٰ شائع فرماتے۔ کتاب تحقیق الحق ص ۲۶ میں میلاد رسول کو جنم کنہیا کہنے والے کے پیچھے نماز نادرست لکھی ہے اور دیگر تصانیف قدیمہ و جدیدہ میں علماء دیوبند نے جائز لکھا ہے۔ دیکھو التصدیقات وغیرہ اور صراط مستقیم مطبوعہ ضیائی برقی پریس میں خود مولوی اسماعیل دہلوی نے پہلے عرس فاتحہ گیارہویں وغیرہ کو جائز لکھا ہے۔ ص ۶۲ تا ۱۲۲ تک ملاحظہ فرمائیے لیکن برطانوی سیاست اور نفسیاتی کمزوریاں اور فرائض اور ذمہ داریوں میں احساس کی کمی اور بیشتر مولوی اسمعیل کی کتاب تقویت الایمان اس نفاق و شقاق و اختلاف کا موجب اور سبب بنی اور تاثرات یوں بڑھے کہ حاجی امداد اللہ صاحب کے شاگردوں اور مریدوں کے دو گروہ ہو گئے۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی ایک طرف منکر میلاد و فاتحہ وغیرہ۔ اور مولوی لطف اللہ، مولوی محمد حسین، مولوی احمد حسین، مولوی عبدالسمیع صاحب قائل میلاد فاتحہ درود وغیرہ جیسا کہ اور اکابر علماء مثلاً مولانا عبدالرحیم صاحب مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب، مولانا شاہ رفیع الدین صاحب وغیرہ محدثین میلاد فاتحہ درود وغیرہ کے قائل تھے۔

اور یہ ظاہر کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے شاگردوں اور مریدوں میں یہ اختلاف حاجی صاحب کے لیے سخت قلق و اضطراب کا موجب تھا جس کی وجہ سے حاجی صاحب نے رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ تحریر فرمایا تاکہ یہ باہمی اختلاف و نزاع دور ہو جائے۔ یہ

رسالہ فیصلہ مفت مسئلہ گو جمہور اہل اسلام اور علماء حق نے بکمال محبت قبول کیا اور اس پر عملدرآمد کرنا رفع اختلاف کا موجب سمجھا مگر فضلاء علماء دیوبند نے اس کو رد کر دیا اور یہ کہہ کر کہ ہم نے حاجی صاحب کی بیعت طریقت میں کی ہے شریعت میں نہیں کہ ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ شریعت اور طریقت میں درحقیقت کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ مشہور و معروف ہے، کہ قول رسول شریعت اور فعل رسول طریقت اور حال رسول حقیقت اور سر رسول معرفت ہے ﷺ تو یہ چاروں اسوہ حسنہ رسول مقبول ﷺ سے عبارت ہوئے تو پھر ایک کا اقرار اور دوسرے کا انکار بے معنی بات ہے اور اس کے مصداق میں مبانیت و جدائی کہ اجتماع باہمی نہ ہو سکے کسی طرح بھی درست نہیں۔ بہر صورت اس رد و کد کا نتیجہ یہ نکلا کہ میلاد فاتحہ درود وغیرہ کے جواز و استحسان پر مولیٰ عبدالمسیح نے انوار ساطعہ کتاب لکھی جس کو محققین اسلام نے قبول کیا۔ آپ حاجی صاحب کے الفاظ میں اس کتاب کا تعارف خیال فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آتش فتنہ انوار ساطعہ کی تردید سے مشتعل ہوئی کہ تمام عالم اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ تمام ممالک کے علماء حقانی نے ساری کتاب کو تہہ دل سے پسند فرما کر اس پر اتفاق کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمام علمائے حرمین شریفین و بلاد اسلام اس کے مسائل میں متفق ہیں اور خود کتاب کو پسند بھی کرتے ہیں..... پھر فرماتے ہیں انوار ساطعہ از اول تا آخر شنیدم و بغور نظر کردم ہمہ تحقیق را موافق مذہب و مشرب خود و بزرگان خود یافتم (ترجمہ) میں نے کتاب انوار ساطعہ اول تا آخر سنی اور بغور ملاحظہ کیا اس کی تمام تحقیق کو اپنے اور اپنے بزرگوں کے مذہب و مشرب کے عین مطابق پایا (انوار ساطعہ) دیکھئے کس قدر وضاحت و حقیقت ہے کہ انوار ساطعہ کے جملہ مسائل میلاد درود فاتحہ وغیرہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے عین موافق ہیں اور ان کی صحت پر علماء حرمین شریفین اور دیگر علماء اسلام کا پورا پورا اتفاق ہے اور علماء اسلام نے کتاب اور اس کے مسائل کو دل سے قبول کیا ہے..... تو جب یہ مسائل اتفاق ہوئے تو ان کی تردید اور ان کو خلاف شرع کہنا اور نازیبا الفاظ استعمال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ اس کی اکثریت اور سواد اعظم و جمہوریت اہل اسلام کے ساتھ انتہائی

ضرورت ہے کہ بجائے شقاق و خلاف کھل اتفاق کیا جائے مگر ہوا کیا کہ علماء دیوبند کی تائید سے مولوی خلیل احمد انبٹھوی دیوبندی نے میلاد فاتحہ درود وغیرہ کے رد میں ایک کتاب براہین قاطعہ درود مولود فاتحہ لکھ دی جس میں نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے جس سے آپس میں اختلاف بڑھ گیا اور عرب و عجم بلکہ دنیا بھر کے علماء بگڑ گئے حتیٰ کہ کفر کے فتوے بھی صادر ہو گئے ہم اس سلسلہ میں حاجی امداد اللہ صاحب نے جو مولانا محمد عبد السمیع مصنف انوار ساطعہ اور مولوی خلیل احمد انبٹھوی کے نام خطوط لکھے ہیں مناسب سمجھتے ہیں کہ نقل کریں تاکہ مسئلہ زیر بحث میں زیادتی اطمینان کا باعث ہو سکیں۔

حضرت مولانا مولوی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر کی دیوبندی علماء کے پیرو مرشد کا خط حضرت مولانا محمد عبد السمیع کے نام حسب ذیل ہے۔

”انوار ساطعہ کے اکثر مسائل میں فقیروں سے متفق ہوا تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت التجا اور دعا کی کہ اللہ میں ان مسائل میں صراط مستقیم پر ہوں اور حق بجانب ہوں تو اس کتاب کو مقبول علماء دیار و اقصاء اور اہل اسلام کر چنانچہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا ہے کہ تمام علماء حرمین شریفین و بلاد اسلام اس کے مسائل میں متفق ہیں اور خود کتاب کو پسند کرتے ہیں۔“

اور وہ خط جو حاجی صاحب موصوف نے مولوی خلیل احمد انبٹھوی کو لکھا ہے وہ بھی حسب ذیل ہے۔ فرمایا۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! تمام بلاد ممالک ہند مثلاً بنگال، بہار، مدراس، دکن، گجرات، بمبئی، پنجاب، راجپوتانہ، رام پور، بہاولپور وغیرہ سے متواتر اخبار حیرت انگیز و حسرت خیز اس قدر آئی ہیں کہ جن کو سکر فقیر کی طبیعت نہایت ملول ہوئی ہے۔ اس کی علت یہی براہین قاطعہ اور دیگر ایسی تحریریں ہیں یہ آتش فتنہ انوار ساطعہ کی تردید سے مشتعل ہوئی کہ تمام عالم اسلام اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ تمام ممالک کے علماء حقانی نے ساری کتاب کو دل سے پسند فرما کر اس پر اتفاق کیا ہے۔



ناظرین کرام! ان ہر دو خطوں سے حسب ذیل امور نکالے جاسکتے ہیں (۱) انوار ساطعہ ایسے خلوص قلب اور نیک نیتی سے لکھی گئی ہے کہ دربار الہی میں اس کو شرف قبولیت عطا ہوا۔ (۲) علماء حرین شریفین اور تمام ممالک عرب و عجم کے علماء حقانی سب نے کتاب کو پسند کیا۔ (۳) اس کے درست و صحیح و قابل عمل ہونے پر اتفاق کیا۔ (۴) اس کے جملہ مسائل صراط مستقیم کا مصداق ہیں۔ (۵) براہین قاطعہ نیک نیتی سے نہیں لکھی گئی۔ (۶) اس کو قبولیت عامہ کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ (۷) علماء حرین اور علماء حقانی اہل اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور نہ ہی اس پر اتفاق کیا ہے۔ (۸) مولف براہین اور اس کے معاونین نے انے پیرو مرشد کو راضی نہیں کیا۔ (۹) اس کے مسائل تسلی بخش نہیں ہیں۔

### کتاب انوار ساطعہ میں کیا ہے

انوار ساطعہ میں یہی اختلافی مسائل کا ذکر ہے یعنی عید میلاد، ختم و درود، گیارہویں اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کے حیات و ممات قبر و قیامت میں اشغال و تصرفات اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ انوار ساطعہ کے جملہ مسائل صراط مستقیم صحیح اہل حرین شریفین اور بلاد اسلامیہ کے علماء و حقانی کے پسندیدہ اور اتفاقی و معمول بہا ہیں تو روز روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ سفارش اور شفاعت اور استعانت بالغیر اور جسمانی و روحانی تصرفات ملت اسلامیہ اور جمہور اسلام کا صحیح مسلک ہے اور اس پر عمل درآمد عین نظریہ اسلام ہے ہذا ہوا الحق و الصواب۔

### کتاب تقویت الایمان ہند میں

ناظرین کرام! محمد ابن عبدالوہاب خارجی نے سرزمین نجد میں مسلمانوں کو کافر و مشرک کہہ کر ان کے مال و جان کو مباح کر دیا اور توحید کی آڑ میں شان رسالت اور نبوت و ولایت میں دل کھول کر موشگافہیں کیں اور اپنے عقائد و مال کی ترویج کے لیے کتاب التوحید

تصنیف کی جس پر اس زمانہ کے علماء اہلسنت نے سخت مواخذہ کیا اور اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی کوشش کی حتیٰ کہ محمد بن عبدالوہاب کے حقیقی بھائی سلیمان بن عبدالوہاب نے اپنے بھائی پر سخت رد کیا اور اس کی تردید میں ایک شاندار تصنیف کی جس کا نام الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ ہے اور اس میں پوری طرح وہابیت کے خط و خال کو بے نقاب کرتے ہوئے مسلک اہلسنت والجماعت کی زبردست تائید و حمایت کی۔

علامہ شامی حنفی، امام احمد صاوی مالکی وغیرہ ہما جلیل القدر علماء امت نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو باغی اور خارجی قرار دیا اور اہل اسلام کو اس فتنہ سے بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ ملاحظہ فرمائیے شامی جلد ۳ باب البغاة ص ۳۳۹ اور تفسیر صادی جلد ۳ ص ۲۵۵ مطبوعہ مصر۔ پھر اس کتاب التوحید کا خلاصہ تقویت الایمان کی صورت میں سر زمین ہند میں مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے پیشوا محمد ابن عبد الوہاب کی حصول خوشنودی کے لیے بڑی آب و تاب سے شائع کیا جس کی توثیق و تائید علماء دیوبند نے کی جیسا کہ فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۲۰ پر مرقوم ہے۔ پھر جس طرح محمد ابن عبد الوہاب کے خلاف اس وقت کے علماء و فقہا اہلسنت والجماعت نے آواز بلند کی اور اس کا رد بلیغ کیا۔ اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان کے خلاف بھی اس وقت کے علما محققین نے انتہائی رد کیا اور تقویت الایمان کے رد میں متعدد کتابیں لکھیں۔ تقریریں کیں اور مسلمانوں کو اس فتنہ تقویت سے بچانے کی سر توڑ سعی کی۔ چنانچہ مولانا فضل امام، حضرت شاہ احمد سعید دہلوی شادگر رشید مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عنایت احمد کوروی، مصنف علم الصیغہ مولانا شاہ رؤف احمد نقشبندی، مجددی تلمیذ رشید، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وغیرہم نے مولوی اسماعیل اور مسائل تقویت الایمان کا مختلف انداز پر اور متعدد طریقوں سے رد بلیغ کیا۔ اس کے حسن و قبح کو واشگاف کیا اہل اسلام کے ایمان کو بچانے کی صحیح نمائندگی کی۔ مثلاً شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ مترجم قرآن نے اپنے فتاویٰ میں بھی کتاب التوحید اور اس کے مسائل کے خلاف واضح مسائل بیان فرمائے اور شدید

احتجاج کیا مگر علماء دیوبند اور مفتیان دیوبند نہ صرف یہ کہ تقویت الایمان اور اس کے مؤلف اسماعیل دہلوی کی تصدیق و توثیق پر اکتفا کی بلکہ خود محمد ابن عبدالوہاب کی زبردست تائید و حمایت کی جیسا کہ فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱۱۱ مصنفہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی پر مذکور مسطور ہے اور اس کے قول و فعل کو سراہا اس پر اس کو مبارک باد پیش کی اور اس کے حجاز مقدس میں گھناؤنے کردار کو نیک فال کہا اور ہر قسم کے مشورے دیتے ہوئے مراعات نجدیہ سے بہرہ ور ہونے کی التجائیں کیں جو منظور ہوئیں اور تقویت الایمان کی نشر و اشاعت سے مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے فتنہ کا دروازہ کھول دیا اور اس میں مذکورہ عقائد و اعمال کی تشہیر کے لیے پاک و ہند میں متعدد مراکز قائم کر دیئے جو ان کی ترویج و توسیع میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب وغیرہ لاہور میں، مولوی حسین علی واں پھراں ضلع میانوالی میں اور مولوی سرفراز گلکھڑ ضلع گوجرانوالہ میں وغیرہم۔ لیکن اطراف و اکناف عالم کے احناف اور اہلسنت والجماعت چونکہ محمد بن عبدالوہاب کے خارجی اور باغی سرکش بے لگام متعصب حریص ہونے پر متفق اور متحد تھے اس وجہ سے فتاویٰ رشیدیہ وغیرہ کی وہ عبارتیں جن میں محمد بن عبدالوہاب کی توثیق اور حمایت کی گئی تھی چونکہ علماء دیوبند کے انداز مسئلہ کو علماء اہلسنت کی نظروں میں مشکوک قرار دیتے ہیں اور علماء اہلسنت والجماعت ان کو پڑھ کر یہ امر سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ علماء دیوبند اور محمد بن عبدالوہاب اور اس کے پیروکاروں کا مذہب و مسلک نظر و فکر ایک سا ہے بلکہ متحد ہے تو بنا بر مصلحت اور حفظ ما تقدم کے طور پر علماء متاخرین دیوبند نے اپنے کو چھپا کر محمد بن عبدالوہاب سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا حتیٰ کہ اس کو خارجی اور باغی بھی کہہ دیا ملاحظہ ہو المہند ص ۱۳ و ص ۱۹-۲۰ یعنی محمد بن عبدالوہاب در حقیقت تو وہ بہت اچھا ہے اس کے پیروکار بہتر ہیں ان کے عقائد عمدہ ہیں (فتاویٰ رشیدیہ) مگر حیلہ سازی سے اپنا مذہب چھپا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد بن عبدالوہاب کو خارجی اور باغی سمجھتے ہیں بہر صورت متاخرین علماء دیوبند نے مولوی اسماعیل دہلوی کی تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت میں پوری پوری نیابت اور خلافت کی اور شب و روز ایک کر کے اس کا حق ادا کر دیا اور اس سلسلہ

میں دو طریق اختیار کیے۔ ایک یہ کہ جہاں زور و قوت میسر آ جائے وہاں پر ڈنکے کی چوٹ اپنے حقیقی عقاید اعمال کی نشر و اشاعت کی جائے اور جہاں پر ایسا موقع میسر نہ آئے وہاں پر بنا بر مصلحت وقت مذہنت اور اخفا اور تقیہ سے کام لیا جائے گو بعض نے اس طریق کار کو پسند نہیں کیا اور اپنے عقیدہ کو ہر قیمت پر ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ مولوی حسین علی واں پھر اں دیوبندی شاگرد رشید مولوی رشید احمد دیوبندی کہ اپنے ارادے کے پکے اور گوچھ بھی ہو لیکن اپنے نجدی عقیدہ کے اظہار میں بڑے بہادر تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ میدان میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ سند الاتقیاء زبدۃ الفقہاء حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ اسی مولوی حسین علی مذکور نے مناظرہ کی ٹھان لی جب گفتگو شروع ہوئی تو ایک ہی سوال کے جواب میں مبہوت ہو گیا اور جواب تو کیا بنتا بلکہ مارے ڈر کے پیشاب..... بہر نوح مولوی صاحب میدانی آدمی تھے اور نڈر تھے اور یہی وجہ غالباً ہوئی کہ علماء دیوبند کے یہ زیادہ منظور نظر اور جاذب التفات نہ رہے اور ان کی جگہ مولوی سرفراز گلکھڑوی پر علماء دیوبند کی نظریں جم گئیں۔ چنانچہ اب مولوی سرفراز صاحب دیوبندی مقاصد کے حامل اور نجدی مطالب کے عامل بن کر میدان تقریر و تحریر میں دندناز رہے ہیں اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔

مختصر یہ کہ متاخرین علماء دیوبند نے بھی انہی عقاید و ہابیہ نجدیہ کی ہر مناسب طریق پر اور ہر محل اور موقع کے پیش نظر نشر و اشاعت کی ضمانت و کفالت لے رکھی ہے اور اصالت نیابت ظاہر و باطناً تحریراً و تقریراً صراحت و کنایت لطافت کسافت شب و روز اسی میں مشغول اور مصروف عمل ہیں جس کے رد کے لیے علماء حقانی اہلسنت والجماعت برسر میدان ہیں اور عقاید نجدیہ و ہابیہ سے بچانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ علماء بریلی اور ان کے ہموا مثلاً اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ، مولانا غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ، حافظ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ،

میاں شیر محمد صاحب رحمہ اللہ، مولوی حشمت علی صاحب رحمہ اللہ، مولوی حفیظ اللہ صاحب، وغیرہم رحمہم اللہ نے تقریراً و تحریراً روز روشن سے زیادہ تر واضح اور مدلل کر دیا ہے کہ اہلسنت و الجماعت کے عقاید و اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں سب صحیح اور قابل تقلید ہیں اور بفضلہ تعالیٰ ذریعہ نجات ہیں۔

ناظرین باہمکین! آپ خوب سمجھ گئے کہ مسائل مروجہ میلاد فاتحہ وغیرہ میں اختلاف کب پیدا ہوا اور کن حضرات نے اس میں حصہ لیا اور وہ کون بزرگ ہیں جو کہ اس اختلاف کو آج تک ہوا دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم ناظرین پر یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں اور بعض اور مسائل پر مثلاً مسئلہ شفاعت جو کہ موجب نزاع بنے ہوئے ہیں روشنی ڈالتے ہیں تاکہ آپ پر حقیقت واضح ہو جائے اور آپ کو یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر اور جمہور اہل اسلام کا شیرازہ منتشر کرنے والا کون ہے اور جمہور و سواد اعظم کی مخالفت اور اس میں پھوٹ ڈالنی خدمت اسلام کا کونسا حصہ ہے۔

### مسئلہ شفاعت کا سبب تالیف

ناظرین کرام! آج اس دور انحطاط میں جہاں عالم اسباب و علل میں مسلمانوں کا اکتسابی اور ارتقائی سلسلہ بالعموم غیروں کا منتظر ہے وہاں ذہنی طور پر بھی ان کو ترقی و بلندی کے تصورات و ادراکات کا طریق کار ماؤف اور پچھلی صف میں نظر آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کونسی بات ہے جس میں نزاع کی آمیزش نہ ہو۔ کونسا کام ہے جو کہ مجسمہ خلوص و ایثار ہو مشاہدات و محسوسات تک زیر بحث بنے ہوئے ہیں۔ متواترات و قطعیات دست و گریبان کی آویزش سے نالاں ہے۔ ہر شخص بزعم خود اپنی ہی صداقت و دیانت کا الارم دے رہا ہے انتہائی بیباکی سے اپنی افتاد طبع کو منوانے کی سعی بلیغ کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر مسئلہ شاعت ہی کو دیکھئے کہ شفاعت کی حقیقت کتاب و سنت میں بالکل واضح ہے عقلی اور نقلی طور پر اس پر کوئی اشکال لازم نہیں آتا مگر پھر بھی حقیقت شفاعت شرعی حیثیت سے محل بحث بنی ہوئی ہے کوئی

افراط میں مبتلا ہے کہ مجرم کو بذریعہ شفاعت چھڑایا جاسکتا ہے۔ جبر و اکراه وغیرہ ہر طریقہ استعمال کیا جاسکتا ہے اور کوئی تفریط کا شکار ہے کہ شفاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نبی یا ولی کو شفاعت کا کوئی حق نہیں علیہ السلام اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت بطریق اذن میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کوئی اعتقاد و شفاعت کا کفر کہہ رہا ہے اور کوئی جواز کا معتقد ہے۔ مختصر یہ کہ مسئلہ شفاعت کو شرعی اور عقلی طور پر واضح اور مبین ہے مگر پھر بھی محل بحث اور پریشانی اور ملال کا موجب بنا ہوا ہے لہذا بعض احباب کے کہنے پر ان سطور میں شفاعت کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو اس مسئلہ سے متعلق نزاع کی حقیقت معلوم ہو سکے نیز ان میں ان حضرات کی مدلل نشاندہی کی گئی ہے جو کہ اس مسئلہ شفاعت میں کسی نوعیت کا اختلاف رکھتے ہیں اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ شفاعت میں اہلسنت والجماعت ہی کا مسلک رفیق صحیح اور ہر افراط و تفریط سے پاک ہے اور قابل عمل اور ذریعہ نجات۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

## ضروری نوٹ

ناظرین حضرات! شفاعت کی شرعی حیثیت سے تشریح کے سلسلہ میں بعض ایسے فرقوں کا ذکر ہو گیا ہے جو کہ اس مسئلہ شفاعت کے ساتھ کسی نوعیت کا تعلق رکھتے تھے مگر یہ ذکر کسی غرض فاسد سے نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے حسن و قبح اور اچھا و برا ہونے پر گفتگو کی گئی ہے کہ قارئین یہ خود اندازہ لگائیں گے کہ واقعیت کیا ہے۔ بلکہ ایک حقیقت اور تاریخی انکشاف ہے اور ان فرقوں کے ہاں مسلم ہے جس کو دیکھ کر طبیعت پریشان ہو جاتی ہے اور آہ نکلتی ہے کہ اے العالمین یہ کیا ہو گیا ہے؟ مولیٰ کریم اہل اسلام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اور دشمنان اسلام سے بال بال بچا۔ آمین ثم آمین نیز نقل حوالجات و عبارات و بیانات میں حتی الوسع صحت کا خیال رکھا گیا ہے مگر پھر بھی غلطی کا احتمال موجود رہتا ہے کسی فرد گذشتہ پر اطلاع پانے پر اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔

## شفاعت کا لغوی مفہوم

لسان العرب میں ہے: استشفيت الى فلان اي سالتہ ان يشفع لي ترجمہ اس سے میں نے کہا کہ میرے لیے وہ سفارش اور التجا کرے۔ مجمع البحار میں ہے۔ الشفاعة هي السؤال في التجاوز من الذنوب والجرائم. شفاعت کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے تجاوز کرنا وفي الكنز مصدر شفع يشفع اذا ضم وغيره اليه من الشفع الذي هو ضد الوتر كان الشفيع ضم سواله الى المشفوع له ترجمہ یہ شفع يشفع کا مصدر ہے اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ وہ غیر کو اپنے ساتھ ملا لے گو شفيع نے اپنے سوال کو مشفوع کے ساتھ ملا دیا۔

## شفاعت کی حقیقت شرعی طور پر

شریعت مطہرہ میں شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ مجرم کے ایسے جرم کو جو کہ معافی کے قابل ہو محبت کی وجہ سے یا خدائی عطا شدہ احترام و اعزاز کے باعث یا اللہ رب العزت کے اذن اور وعدہ کی بنا پر یا کسی عمل مقبول کے صدقے معاف کرنے کی یا کسی اور چیز کے حصول کے لیے التجا کی جائے اور شفاعت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ زبردستی اور کسی طرح کی دھونس دے کر مجرم کو چھڑایا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور نہ ہی شفاعت کے جواز سے یہ مقصد ہے کہ شفاعت کے سہارے پر جو چاہے کرتا پھرے بلکہ مطلوب یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونے کے بعد ممکن ہے کہ کسی طرح کی شفاعت سے مستفید ہو کر جلد از جلد رحمت الہی سے فیضاب ہو سکے اور بس۔ اور ظاہر ہے کہ اب شفاعت کا سہارا اس کو بے عمل ہونے کی بجائے پورا مطیع اور فرمانبردار بنائے گا کیونکہ اول تو خاتمہ بالخیر کا تصور اس کو غافل نہیں ہونے دے گا اور پھر خاتمہ بالخیر کے بعد سفارش میں بجز بعض مخصوص افراد کے کسی شخص کے لیے انفرادی طور پر تعیین مذکور نہیں بلکہ مجموعی طور پر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے شفاعتی لاهل الكبائر من امتی

”میری شفاعت میری امت کے مسلمان اہل کبار کے لئے ہے“ تو اس سے کسی ایک شخص کا شفاعت پر بھروسہ کر کے غفلت شعاری کو اپنا شیوہ بنا لینا ایک بے معنی بات ہے۔

## شفاعت کیقسام

شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کبریٰ اور دوسری صغریٰ۔ کبریٰ یہ ہے کہ بروز قیامت مخلوق کے حساب کے لیے ہوگی اور یہ صرف حضور سرور کائنات فخر موجودات ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ بروز قیامت حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے اہل حشر کی خاطر دربار الہی میں حاضر ہو کر التجا کریں گے اور یہ شفاعت نبی و غیر نبی وغیرہ سب کے حق میں ہوگی جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اَعْسَىٰ اَنْ يَّعْتَبَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ”اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بروز محشر ایسا مقام عطاء فرمائے گا۔“ جسے سب محمود کہیں گے اور جس کی تعریف کریں گے اور جملہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے کہ خواجہ دو عالم ﷺ اہل محشر کے حساب کے لیے سفارش کریں گے جو کہ قبول ہوگی اور حساب شروع ہو جائے گا۔

شفاعت صغریٰ یہ ہے کہ انبیاء علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ علماء صلحاء، شہداء، مشائخ قرآن مجید نماز و روزہ خانہ کعبہ رمضان ننھی اولاد موزن، امام، نا تمام بچے فقراء مساکین وغیرہ کے لیے بھی ثابت ہے اور یہ شفاعت دنیا قبر قیامت میں جائز بلکہ واقع ہے۔

شفاعت صغریٰ کے چند مراتب ہیں۔ ایک یہ کہ میدان محشر میں سے نجات دلانے کے لیے ہوگی اور یہ سب گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ دوسری یہ کہ عذاب کم کروانے کے لیے اور یہ کفار کے حق میں بھی درست ہے مثلاً ابوطالب وغیرہ کے حق میں تیسری یہ کہ گناہ معاف کرنے اور جہنم سے نجات دلانے کے واسطے ہوگی اور یہ مومن گنہگاروں کے لیے ہوگی چوتھی یہ کہ درجات بڑھانے کے لئے اور یہ نیکوں کے لیے ہوگی۔

المعتمد المعتقد ص ۱۳۵ پر ہے: وله اقسام من الشفاعة منها الشفاعة لراحة



الخلايق من هول الموقف وهي ثابتة باتفاق المسلمين حتى المعتزلة وهي من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ومنها ادخال الناس الجنة بغير حساب و منها عدم دخول النار بعد الحساب و ثبوت الاستحقاق لدخول النار و منها اخراج بعض الموحدين من النار و منها لزيادة الدرجات و منها للتجاوز عن التقصير في الطاعات و تخفيف العذاب لمن استحق خلود النار في بعض الاماكن والاوراق كما بي طالب و منها دخول اطفال المشركين الجنة و منها لمن مات بالمدينة ولمن صبر على لاوائها لمن زاره بعد موته و لمن اجاب المؤذن ودعى له صلى الله عليه وآله وسلم بالوسيلة و لمن يصلي الجمعة ويومها و لمن حفظ اربعين حديثنا في الدين و عمل بها و لمن صام شعبان لحبه صلى الله عليه وآله وسلم صيامه و لمن مدح اهل البيت و اتنى عليهم الى غير ذلك مما ورد في السنة و يحب الايمان بانه يشفع غيره من الانبياء والملائكة والعلماء والشهداء والصلحين و كثير من المومنين وغيرهم من القرآن و الصيام و الكعبة غيرها مما ورد في السنة.

ترجمہ: اور حضور عليه الصلوة والسلام کے لیے متعدد طریقوں سے شفاعت ثابت ہے مثلاً ہول محشر سے مخلوق کو نجات دلانے اور حساب کے بعد مستحق جہنم کو بغیر عذاب بچانے کے لیے اور بعض موحدين کو دوزخ سے نکالنے کے لیے اور زیادتی درجات کے لیے اور کمی عبادت کی تقصير معاف کرانے کے لیے اور دائمی جہنمیوں کے لیے بعض اوقات میں کسی ایک مقام پر تخفيف عذاب کے لیے جیسے ابو طالب اور مشرکین کی نابالغ اولاد کو جنت میں دخل کرانے کے لیے اور مدینہ طیبہ میں مرنے والے کے لیے (بشرطیکہ کوئی امر منافی نہ ہو) اور مدینہ شریف کے مصائب برداشت کرنے والے کے لیے اور جو آپ ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت کرے اور جو مؤذن کو آذان کا جواب دے اور حضور عليه السلام کے لیے دعا وسیلہ کرے اور وہ جو جمعہ کی رات اور دن میں آپ ﷺ پر صلوة و سلام پڑھے اور وہ جو کہ آپ ﷺ کی دین سے متعلق

چالیس حدیثیں یاد کرنے کے بعد ان پر عمل کرے اور وہ جو شعبان کے روزے اس وجہ سے رکھے کہ آپ ﷺ کو شعبان کے روزے محبوب تھے اور جو کہ اہل بیت کی صفت و ثناء کرے وغیرہ جیسا کہ سنت میں وارد ہے بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ اوروں کے لیے بھی یہ شفاعت ثابت ہے جیسے انبیائے کرام علیہم السلام ملائکہ کرام علیہم السلام اور علماء و شہداء صالحین وغیرہم بلکہ قرآن صوم کعبہ وغیرہ کے لیے بھی کہ یہ شفاعت کریں گے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے..... کتاب ہدیۃ المہدی مؤلف مولوی وحید الزمان مشتمل بر عقائد اہل حدیث مترجم صحاح ستہ ج ۱ ص ۱۷۷ پر ہے۔ الشفاعة حق ثابتة للرسول والاخبار كالعلماء والشهداء سيما شفاعة سيدنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لاهل الكبار من امته ومن امم الانبياء عليهم الصلوة والسلام المرسلين والماضيين فهو صلى الله عليه وآله وسلم اول شافع و اول مشفع..... (ترجمہ) شریعت میں شفاعت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دیگر اختیارات کے لیے جیسے علماء و شہداء کے لیے حق اور درست ہے بالخصوص سرور عالم ﷺ کے لیے کہ آپ کی شفاعت اپنی امت کے اہل کبار کے لیے اور دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کے گنہگاروں کے لیے ثابت اور صحیح ہے پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اول شافع یعنی شفاعت کرنے والے اور اول مشفع یعنی اول شفاعت قبول کیے گئے ہیں۔

اور اسی میں ہے والشفاعة على ستة انواع احدها بفضل القضايا و اذا حة الناس من طول الوقوف و هي مختصة بنينا صلى الله عليه وسلم وثانيها لادخال الجنة بلا حساب وهي مختصة به صلى الله عليه وآله وسلم و ثالثها لعدم ادخال النار ممن استحق النار و رابعها لاجرا ج بعض اهل النار من النار و خامسها لرفع الدرجات و هذا الثلث لا تختص به صلى الله عليه وسلم و سادسها لتخفيف العذاب عن بعض الكفار كما ورد في حق ابي طالب و هذا منخصص لعموم القرآن فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

رجمہ: شفاعت کی چھ اقسام ہیں ایک وہ جو کہ حساب اور اہل محشر کو زیادہ کھڑا ہونے سے نجات دلانے کے لیے ہوگی اور دوسری یہ کہ بغیر حساب جنت میں داخل کرانے کے لیے ہوگی اور یہ دونوں قسمیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور کوئی یہ شفاعت ہر دو قسم کی ہمت نہ کر سکے گا اور تیسری یہ کہ مستحق نار کی شفاعت کو وہ جہنم سے نجات پانے کے لیے ہوگی اور چوتھی یہ کہ جہنم سے بعض کو نکالنے کے لیے ہوگی اور پانچویں درجات جنت میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگی اور یہ تینوں قسم کی شفاعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں اور چھٹی بعض کافروں کے عذاب میں تخفیف کرانے کے لیے جیسا کہ ابو طالب کے حق میں تخفیف کے لیے آپ ﷺ نے شفاعت کی اور اس حدیث نے یعنی جیسے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کرانے کا ذکر ہے آیہ ”فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون“ کے عموم میں تخصیص پیدا کر دی ہے اور ظاہر کر دیا ہے کہ بعض کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔

ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ شفاعت حق اور ثابت ہے اور اس کے چند مراتب ہیں جن میں سے بعض مراتب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مخصوص ہیں اور ان میں کوئی آپ ﷺ کا شریک نہیں نیز یہ بھی کہ شفاعت صغریٰ کا ظہور قیامت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا اور قبر و قیامت میں ثابت و واقع ہے جیسا کہ آئندہ اوراق میں ظاہر ہوگا۔

اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شفاعت صغریٰ کے چونکہ مختلف مراتب ہیں۔ اس سے یہ اشتباہ دور ہو گیا کہ قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ تارک سنت اور کافر ہر دو شفاعت سے محروم ہوں گے تو پھر ان کے حق میں شفاعت کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے کیونکہ تارک سنت کا شفاعت سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفاعت صغریٰ کے مرتبہ چہارم سے محروم ہے نہ کہ اور مراتب سے بھی ایسے ہی کافر کے شفاعت سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت صغریٰ کے مرتبہ سوم و چہارم سے محروم ہے نہ کہ ہر طرح کی شفاعت سے محروم ہے۔

(از تفسیر نعیمی وغیرہ)

## قرآن مجید سے شفاعت کا ثبوت

(۱) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (ترجمہ) ”اور البتہ آپ کو (ﷺ) اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔“ مفسرین کران نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اپنی امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ داخل کرالوں گا اس وقت تک میں راضی نہ ہوں گا اور ظاہر ہے کہ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ گنہگاروں کی آپ شفاعت فرما کر جنت میں داخل کرائیں گے کیونکہ جرم کی سزا بھگت کر جنت میں داخلہ اس بشارت کا قطعی طور پر موجب و سبب نہیں ہو سکتا۔

(۲) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُاكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. ترجمہ ”اور اگر وہ لوگ جنہوں نے افراط و تفریط کرتے ہوئے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے آپ کے پاس آئیں اور آپ کی طرف متوجہ ہوں پس اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول (ﷺ) ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پائیں گے۔“ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ حکم آپ کی حیات دینی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے حیات دینی ہو یا برزخی ہو یا اخروی ہر جگہ آپ کی شفاعت قبول ہے۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب ”آب حیات“ کے ص ۴۰ پر اس آیت کے متعلق یوں فرمایا ہے ”کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں آپ کے ہمصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں اور تخصیص ہو تو کیونکر ہو آپ کا وجود ترتیب تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہو سکتا ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں۔“ الخ اس

طرح در منظم میں ابن حجر نے اور شفا شریف میں قاضی عیاض نے اس آیت سے آیت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحت شفاعت پر استدلال قائم کیا ہے۔

(۳) وَاسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةِ (ترجمہ) ”اپنوں کے

گناہوں اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت

طلب کیجئے۔“ ظاہر ہے کہ کسی کے لیے معافی کا مطالبہ یہی سفارش و شفاعت

ہے۔

(۴) وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (ترجمہ) ”اور حاملان عرش معلیٰ ملائکہ کرام

ایمانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں۔

(۵) وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ (ترجمہ) ”اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اس

کے لیے ملائکہ کرام سفارش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔“ ظاہر ہے کہ

ایمانداروں سے ان کے ایمان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ایمانداروں

کے حق میں شفاعت ثابت ہوئی۔

(۶) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنِ اتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (ترجمہ) ”بروز

قیامت مال و اولاد نفع نہ دے گی مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔“

یعنی اس کی اولاد اور مال مفید ہوگا اور واضح ہے کہ مفید ہونا یہی ہے کہ دخول جنت

کے لیے شفاعت کی جاوے ثابت ہوا کہ شفاعت حق ہے۔

(۷) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ

وَالْمُؤْمِنِينَ. (ترجمہ) ”میرے مولا مجھے نماز پر قائم رکھ اور میری دعا قبول فرما اور

میرے اور میرے والدین اور تمام ایمانداروں کے لیے مغفرت فرما۔“ بالکل

صاف ہے کہ جب والدین وغیرہ کے لیے دعا قبول ہوگی تو اسی کو شفاعت کہتے

ہیں۔

(۸) اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ (ترجمہ) ”مجھ سے دعا

کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں ہر دعا کرنے والے کو دعا قبول کرتا ہوں جس وقت وہ دعا کرے اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ شفاعت و دعا التجا ہی تو ہے۔

(۹) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ. (ترجمہ) ”یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو کہا جس کی نجات متوقع تھی کہ اپنے بادشاہ سے یہ کہو کہ ایک بے گناہ جیل خانہ میں مقید ہے۔ اس کی طرف خیال رکھیو۔ اور یہ خیال یہی تھا کہ جا کر میری رہائی کے لیے سفارش کرنا ثابت ہوا کہ شفاعت صحیح ہے۔

(۱۰) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ (ترجمہ) ”اے ہمارے مولیٰ اگر ہم سے خطا و نسیان ہو جائے تو ہم پر مواخذہ نہ کر اور نہ کسی مصیبت میں ہمیں مبتلا کر۔ الخ۔ سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات کریمہ ہیں جو کہ ان سفارشی کلمات پر مشتمل ہیں جو کہ شب معراج میں امت مرحومہ کی سہولت کے پیش نظر بارگاہ رب العزت میں آپ نے عرض کیے جن کو اللہ سبحانہ نے قبول فرما کر آپ کے دائمی اعزاز و اکرام کا قرآن مجید میں ابدی اعلان فرمایا اور سفارش شفاعت ہے تو شفاعت درست و صحیح ہوئی۔

(۱۱) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاٰخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. (ترجمہ) ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور اپنی جوار رحمت میں داخل کر کہ تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ یہ بھائی کے حق میں صریح سفارش ہے۔

سامعین کرام ان آیات کریمہ کے علاوہ بھی اور متعدد آیات مبارک گنائی جاسکتی ہیں جن سے شفاعت شرعی کے جواز اور وقوع کا ثبوت عام ازیں کہ دنیا میں ہو یا قبر و قیامت میں روز روشن سے زیادہ واضح ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

نیز یہ شفاعت عام ہے کہ بطریق اعزاز ہو یا بطور محبت یا بصورت اذن اور

شفاعت کا یہ معنی نہیں کہ زبردستی اور دھونس دے کر منوالیا جائے بلکہ اِ شفاعت بایں معنی کہ بطور نیاز مندی یا عزت و محبت کی بنا پر یا اذن حاصل کرنے کے بعد بارگاہ بے نیاز میں کسی کے فائدہ کے لیے التجا کی جائے۔

## شفاعت کا ثبوت از تفاسیر معتبرہ

تفسیر عزیزی سورۃ بقرہ ص ۵۳ پر ہے۔ ”گویا آیات و احادیث بسیار دلالت بر وقوع شفاعت می کنند۔ و احادیث متواترہ بیان کردند کہ غیر از کافر در حق ہمہ اہل معاصی حکم شفاعت خواہد شہد“ (ترجمہ) میں کہتا ہوں کہ متعدد آیات و احادیث سے شفاعت کا صحیح امد ہونا ثابت ہوتا ہے، اور احادیث متواترہ میں یوں وارد ہوا ہے کہ کافر کے علاوہ تمام گنہگاروں کے حق میں جواز شفاعت کا حکم دیا جائے گا۔

اسی تفسیر عزیزی میں ص ۵۴ پر ہے ”و شفاعت در حق کافر با جماع مقبول نیست (ترجمہ) اس پر اجماع امت ہے کہ کافر کے حق میں شفاعت درست نہیں۔ کافر کی تخصیص سے ثابت ہوا کہ مومن کے حق میں شفاعت جائز ہے۔“

تفسیر جامع البیان حاشیہ جلالین ص ۳۷ زیر آیت مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ الْاِبَادِنَةُ فرماتے ہیں بیان لعظمتہ و جلالہ و نفی لزوم الکفار ان الاصلنام شفعاء۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کا اظہار ہے اور کفار کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ وہ زعم کرتے تھے کہ ہمارے بت شفیع ہیں۔ ثابت ہوا کہ مومنین کے حق شفاعت درست و صحیح ہے۔

اسی طرح جلالین میں ہے۔ مطلب یہ کہ کفار کا یہ مزعوم باطل ہے کیونکہ یہ معبودات باطلہ خود سب کے سب جہنم رسید کر دیئے جائیں گے تو اوروں کو یہ کیا نجات دلائیں گے چنانچہ

---

۱ جیسا کہ غیر مسلموں بت پرستوں کا یہ زعم ہے کہ ان کے دیوتے اور معبود دھونس یا جبر و اکراہ سے شفاعت کریں گے۔ (معاذ اللہ)

قرآن مجید میں واقع ہے۔ اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (ترجمہ) تم اور تمہارے معبودان باطلہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

تفسیر جلالین سورہ طہ ص ۲۶۵ پر ہے: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ (أَحَدًا) إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ یعنی بروز قیامت شفاعت فائدہ نہ دے گی کسی کو مگر جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور چونکہ کافروں نے کلمہ نہ پڑھا لہذا ان کے حق میں شفاعت نہیں اور مومنین کے حق میں ہے۔

تفسیر قادری ص ۶۳۲ ج ۲ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (ترجمہ) اور قریب ہے کہ تجھے گنہگاروں کے باب میں شفاعت کا رتبہ اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس جگہ تفسیر عزیز ص ۲۱۸ اور تفسیر جامع البیان میں بھی اسی طرح ہے۔

تفسیر جلالین ص ۲۳۵ پر ہے عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ الْاٰیةِ كِی تَفْسِيْر مِیْن لَكِهْتِ هِیْن بِحَمْدِكَ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ الْاٰخَرُوْنَ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ يَعْنِيْ مَقَامُ مَحْمُوْدٍ سِیْ مَرَادُ مَقَامِ شَفَاعَتِ هِیْ جِس مِیْن الْاَوَّلِيْنَ وَآخِرِيْنَ اَپ كِی طَرْفِ مَحْتَاَجِ هُوْنَ كِهْ اُوْر تَفْسِيْر جَامِعِ الْبِيَانِ مِیْن هِیْ اِس جِگہ یُوْنَهیْ مَرْقُوْمِ هِیْ۔

تفسیر بیضاوی ص ۷۲ زیر آیت وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ... وَالشَّفَاعَةُ مِنَ الشَّفَعِ كَمَا الشَّفْعُ لَهْ كَمَا فَرْدًا فَجَعَلَهُ الشَّفَعِ بَضْمَ نَفْسِهِ اِلَيْهِ شَفْعًا... وَقَدْ تَمَسَّكَ الْمَعْتَزِلَةُ بِهَذَا لَايَةِ عَلِيٍّ نَفِي الشَّفَاعَةِ لِاهْلِ الْكِبَارِ وَأَجِيبْ بَانِهْلَا مَخْصُوصَةً بِالْكَفَارِ لِلَايَاتِ وَالْاِحَادِيْثِ الْوَرْدَةِ فِي الشَّفَاعَةِ... (ترجمہ) الشَّفَاعَةُ شَفْعٍ سِیْ بِنَا هِیْ كُوِيَا مَشْفُوْعٌ لَهْ پِهْلَ اَكِيْلَا تَهَا پَهْرِ شَفْعِ نِیْ اِپْنِ كُو سَاتَهْ مَلَا كِرَا سِ كُو ذَبْلِ اُوْر دِگْنَا كِر دِيَا اُوْر بَلَا شَبَهْ مَعْتَزِلَهْ نِیْ اِس اَيْتِ سِیْ اِهْلِ كِبَارِ كِی عَدَمِ شَفَاعَتِ پَر اِسْتِدْلَالِ قَائِمٌ كِيَا هِیْ جِس كَا جَوَابِ يِیْ هِیْ كِهْ يِیْ اَيْتِ دِيْگِرَا اِن اَيْتِ وَ اِحَادِيْثِ كِهْ پِشِ نَظَرِ جُو كِهْ شَفَاعَتِ كُو ثَابِتِ كِرْتِيْ هِيْ كِفَارِ كِهْ سَاتَهْ مَخْصُوصِ هِیْ يَعْنِيْ كِفَارِ كِی شَفَاعَتِ مَرْدُوْدِ هِیْ نَهْ كِهْ مَوْمِنِيْنَ كِی۔



ناظرین حضرات! اسی طرح اکثر و بیشتر تفاسیر معتبرہ متداولہ مستعملہ میں شفاعت بمعنی مذکور کو صحیح اور درست تسلیم کیا ہے اور اس میں کسی عقلمند کو گنجائش انکار نہیں تو روز روشن کی طرح قرآن مجید اور تفاسیر معتبرہ سے واضح ہو گیا کہ شفاعت صغریٰ ہو یا کبریٰ شرعی اور اخلاقی نہ یہ کہ صرف جائز ہے بلکہ نافع و نافذ ہے بالخصوص شفاعت کبریٰ کہ یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی خاصہ اور کمال ہے جس میں کائنات عالم سے کوئی چیز آپ کی شریک نہیں۔ الحمد للہ علی ذالک

### شفاعت از احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المقام المحمود فقال هو الشفاعة (ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سید یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے یعنی مرتبہ شفاعت عطا ہوگا۔

امام احمد اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے جواب میں یہی کہا فقال هو الشفاعة (ترجمہ) پس فرمایا کہ یہ مقام شفاعت کا مرتبہ ہے۔

دلائل النبوة میں ابو نعیم نے انس بن مالک اور بیہقی میں بروایت ابو ہریرہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وخبائث شفاعتک ولم اخبائ لنبی غیرک (ترجمہ) میں نے تیری شفاعت ذخیرہ کر رکھی ہے اور تیرے سوا کسی اور نبی کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی۔

مسلم اور ابوداؤد میں بروایت ابو ہریرہ مروی ہے۔ انا اول شافع و اول مشفع (ترجمہ) میں بروز قیامت سب سے اول شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا ہوں۔

ابو نعیم عبداللہ بن عباس سے راوی..... وبی تفتح الشفاعة ولا فخر (ترجمہ)

”اور مجھ سے ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور یہ بات فخریہ نہیں بلکہ بیان واقع ہے۔“

امام احمد ابو یعلیٰ ابن حبان نے حضرت صدیق اکبر سے یہی حدیث وہی تفتح الشفاعة نقل کی ہے۔ ترجمہ اوپر ہو چکا ہے۔

دارمی، ترمذی، ابو نعیم بسند حسن عبد اللہ بن عباس سے ناقل۔ وانا اول شافع و اول مشفع یوم القيامة میں بروز قیامت سب سے پہلا شافع اور مشفع ہوں گا۔

دارمی، ترمذی باقادہ تحسین اور ابو یعلیٰ بیہقی، ابو نعیم، حضرت انس سے راوی..... وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُجِسُوا وَإِنَّا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَنْسُوا (ترجمہ) میں بروز قیامت میں ہی ان کی سفارش کروں گا جب کہ وہ روکے جائیں گے اور میں ہی ان کو خوشخبری دینے والا ہوں جب کہ وہ مایوس ہوں گے۔

امام احمد ابن ماجہ، ابوداؤد ظیلی ابو یعلیٰ، حضرت عبد اللہ بن عباس سے راوی..... وانی اختبات دعوتی شفاعة لامتی (ترجمہ) اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی مغفرت کے لیے چھپا رکھی ہے۔

مسلم میں بروایت ابی بن کعب مروی ہے..... وَاخَوَاتِ الثَّالِثِ يَوْمَ يَرْغَبُ الَّتِي فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّىٰ اِبْرَاهِيمَ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال دیئے۔ میں نے دوبار یہ کہا: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَامَّتِي (اے اللہ میری امت کو معاف کر) اور تیسرا ایسے روز کے لیے روک لیا جس میں میری طرف عام خلقت کا حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی رجوع ہوگا یعنی روز قیامت۔

مناہج النبوة شرح مدارج النبوة میں ہے کہ حضرت انس سے آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں تیری سفارش کروں گا اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد چہارم وراہی طرح منہاج النبوت میں ہے کہ آپ نے فرمایا..... کنت امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعتہم (ترجمہ) میں بروز قیامت عام نبیوں کا امام اور خطیب ہوں اور ان کی شفاعت کا مالک ہوں گا۔

مشکوٰۃ باب البرکاء علی المیت میں ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے دو چھوٹے بچے مر جائیں وہ اس کو (بطریق سفارش) جنت میں پہنچائیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر ایک بچہ مر جائے تو فرمایا ایک بھی لے جائے گا۔ کہا جس کا ایک بھی نہ ہو فرمایا اس کو میں خود جنت میں لے جاؤں گا۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ جس کا ایک بچہ بھی نہ ہو جیسا کہ میں ہوں تو آپ ﷺ نے اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ مشکوٰۃ باب الشفاعۃ میں ہے کہ تین جماعتیں بروز قیامت شفاعت کریں گی۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پھر علماء، پھر شہداء۔

مشکوٰۃ میں ہے کہ کچا بچہ یعنی ناتمام بچہ اپنے رب سے اپنے والدین کے متعلق جھگڑا کرے گا حکم ہوگا اے جھگڑالو بچے جا اپنے والدین کو جنت میں لے جا پس وہ اپنی نال سے دونوں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔

مسلم شریف میں ہے..... ترجمہ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا ملتی ہے اور ہر نبی نے وہ اپنی دعا استعمال کر لی مگر میں نے محفوظ رکھی ہے بروز قیامت میں اس سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

بخاری و مسلم میں ہے قیامت کی گرمی سے گھبرا کر سب لوگ کسی شفیع کی تلاش میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت سے متعلق گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی طور پر اکرام و اعزاز سے مالا مال کیا ہے آپ ہم سب کے باپ ہیں اور ہم انتہائی تکلیف میں مبتلا ہیں گرمی شدت حرارت تپش پیاس جس وغیرہ سے مرے جاتے ہیں اور حساب ہوتا نہیں کہ ٹھکانے لگیں حیران و پریشان ہیں کوئی پرسان حال نہیں لہذا آپ ہماری درباری خداوندی میں سفارش کیجئے۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے کہ آج دربار توحید اور بارگاہ احدیت ایسے جلال و غضب میں ہے کہ اس کی مثال نہیں اور خود مجھ سے بظاہر ایک خطا بھی ہوگئی ہے۔ لہذا مجھ میں یہ ہمت نہیں معذور ہوں تم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ وہ تمہاری سفارش کریں گے وہاں پر جا کر بھی وہی پہلا قہہ ہوا حتیٰ کہ

آخر الامر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف رہنمائی کی گئی جب آپ کے ہاں مخلوقات جائے گی تو آپ فرمائیں گے اور بصیغہ افسوس کہیں گے کہ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ آج کا روز انتہائی طور پر سخت ہے۔ ہر نبی و رسول تک علیہ الصلوٰۃ والسلام نفسی نفسی پکار رہا ہے آج! بجز جناب محمد مصطفیٰ ﷺ اور کوئی بھی سفارش سے متعلق بات نہیں کر سکتا لہذا تم سب مل کر ان کے پاس جاؤ وہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے لہذا سب مخلوق سرور عالم فخر بنی آدم ﷺ کے دربار میں پہنچے گی اور عرض کرے گی جس پر سنتے ہی آپ سرکار ابد قرار ارشاد فرمائیں گے انالہا انالہا انا صاحبکم الیوم بیشک میں ہی آج تمہاری سفارش کروں گا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مخلوق جا کر یہ کہے گی۔

محمد یا نبی اللہ انت الذی فتح اللہ بک و جنت فی ہذا الیوم آما

انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء اشفع لنا الی ربک فلیقض بیننا الاتری الی مانحن فیہ الاتری الی ما بلغنا (ترجمہ) اے محمد اے اللہ کے نبی آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا ہے اور آج آپ با امن اور مطمئن تشریف لائے ہیں۔ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں آپ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرمادے حضور نگاہ تو کریں کہ ہم کس درد و مصیبت میں ہیں۔ حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس حال کو پہنچے ہیں۔ حضور پُر نور ﷺ سن کر ارشاد فرمائیں گے انالہا وانا صاحبکم الیوم (ترجمہ) میں شفاعت کے لیے تمہارا وہ مطلوب ہوں جسے تم تمام موقف میں ڈھونڈے پھرے ہو پس بعدہ حضور اکرم ﷺ دربار الہی میں سربہ سجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے پیشتر کبھی نہ کی تھی جس پر دربار صمدیت سے ان الفاظ میں تسلی دی جائے گی۔ یا محمد ارفع راسک قل تسمع سل تعط و اشفع تشفع (ترجمہ) اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور فرمائیے آپ کی ہر بات سنی جائے لی۔ آپ مانگئے جو مانگو سب دیا جائے گا۔ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ سر مبارک اٹھائیں گے اور مخلوق کا حساب ہونے کی سفارش کریں گے۔ پس حساب شروع ہو جائے گا۔ از تجلی الیقین ص ۷۲ د

تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۲۴۱ وغیرہ بقدر ضرورت۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے جس کا ظہور بروز قیامت ہوگا اور قرآن و حدیث صحیح سے ثابت ہے۔

جنازہ کی تکبیرات میں جن دعاؤں کو پڑھنے کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے باوجودیکہ نماز جنازہ بذات خود ایک سفارش ہے۔ دعاؤں کے الفاظ مفہوم شفاعت پر مشتمل ہیں۔ دیکھئے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا لِح (ترجمہ) اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں، حاضر و غائب چھوٹے و بڑے مرد، عورت سب کے گناہ معاف کر دے۔ اگر میت نابالغ ہو تو الفاظ ملاحظہ ہوں..... وَاجْعَلْهُ (اگر بچہ ہے) واجعلها (اگر بچی) شافعاً و مشفعاً (بصورت بچہ) شافعة و مشفعة (بصورت بچی) (ترجمہ) اے اللہ اس بچے یا بچی کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والے یا شفاعت قبول کیے گئے بنا دے..... صاف تصریح ہے جس کو ہر ایک مسلمان جنازہ میں پڑھتا ہے کہ اے اللہ ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اسی طرح جنازہ پڑھنے والے تمام کے تمام دربار الہی میں گویا میت کو حیات مستعار کی کمی و بیشی اور افراط و تفریط کے معاف کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ اب اگر شفاعت ناجائز اور بے معنی سی چیز ہے تو کیا شریعت نے ایک ناجائز اور بے معنی بات پر عمل درآمد کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور بطور لزوم و وجوب میت کا ایک حق قرار دیا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ شفاعت ایک جائز امر ہے اور دنیا و آخرت میں مفید۔

ترمذی شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک نابینا کو یہ دعا سکھلائی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَاتُوْجِہُ اِلَیْکَ بِنَبِیْکَ مُحَمَّدِ نَبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تُوْجِہْتْ بَکَ اِلِیْ رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هَذِهِ لِتَقْضِیْ لِیْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْ لِیْ (ترجمہ) اے اللہ تیرے پیارے محبوب محمد ﷺ کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں اس حاجت کے پورا کرنے میں تاکہ میری مشکل کشائی ہو۔ اے اللہ تو میری حاجت روائی سے متعلق میرے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لے۔

اسی دعا کی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں استعمال کیا اور اپنی حاجت روائی کر لی۔ ظاہر ہوا کہ شفاعت کی صحت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بعد میں بھی جائز ہے نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کی حیات و ممات دونوں برابر ہیں اور یہ بھی روشن ہو گیا کہ بصرہ خطاب ہر زمانہ میں ہر جگہ سے آپ کو عرض کیا جاسکتا ہے اور یہ کہ آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو بیک وقت پکارا جاسکتا ہے اور یہ بھی کہ عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو پکارا جاسکتا ہے۔

مسلم میں ہے حضرت اویس قرنی سے جو ملاقات کرے ان سے دعا منگوائے فمن لقيه منكم فليستغفر لكم (ترجمہ) پس جو اس سے تم میں سے ملے پس چاہئے کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کے لیے دعا مانگے۔“

دوسری روایت میں یوں ہے۔ فمروہ فليستغفر لكم (ترجمہ) ”اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا مغفرت کرے۔“ دیکھئے صاف اور صریح طور پر آپ سفارش کا حکم دے رہے ہیں تو اگر یہ شفاعت ناجائز ہوتی تو یہ حکم کیسے دیتے۔ نیز اس میں صحت شفاعت کے علاوہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے سے کم رتبہ والے کو سفارش کے لیے کہا جاسکتا ہے جب کہ اس کو کوئی خاص نسبت حاصل ہو۔

بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا اشفعوا توجروا ويقضى الله على لسان بنيه ما شاء (ترجمہ) یعنی شفاعت کرو تم کو اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے پورا کرتا ہے اور اس کی تائید بھی دوسری حدیث سے ہوتی ہے الدال على الخير كفاعله جو کسی اچھی بات پر کسی کو آمادہ کرتا ہے اس کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے۔

مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین ﷺ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم ہے۔ اعطيت الشفاعة (ترجمہ) مجھ کو شفاعت عطا کر دی گئی۔

ابن ماجہ میں ہے افضل الشفاعة ان تشفع بين اثنين في النكاح (ترجمہ)

بہترین شفاعت یہ ہے کہ نکاح کے سلسلہ میں دو کے درمیان شفاعت کی جائے۔

علامہ بیہقی شعب الایمان میں نقل فرماتے ہیں افضل صدقة اللسان الشفاعة

(ترجمہ) بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کی زبان سے شفاعت کرے۔“

صحیح مسلم میں ہے ما من میت تصلى عليه امة من المسلمين يبلغون مائة

كلهم يستشفعون الاشفعو (ترجمہ) کوئی میت ایسی نہیں جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت جو سوتک پہنچے نماز جنازہ پڑھے اور اس کی شفاعت کرے مگر اس کی شفاعت قبول نہ

ہو۔

صحیح مسلم میں ایک دوسری روایت میں ہے ما من رجل مسلم يموت فيقوم

على خبازته اربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً يشفعهم الله فيه (ترجمہ) مسلمان

فوت ہونے پر اس پر چالیس ایسے آدمی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں نماز

جنازہ پڑھیں تو ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ بحوالہ مشکوٰۃ باب المشی

بالجنازہ۔

تنبیہ الغافلین میں ہے یوتی بالمساجد یوم القيامة.....فتشفع لاهلها

(ترجمہ) ”بروز قیامت مساجد کو لایا جائے گا.....پس وہ مساجد سے متعلق لوگوں کی شفاعت

کریں گی۔“

تنبیہ الغافلین وغیرہ میں ہے۔ القران شافع و مشفع ومان جن مصدق

(ترجمہ) قرآن مجید صاحب قرآن کے لیے شفاعت کرے گا یعنی اس سے محبت کی اور اس کو

پڑھا عمل کیا جو کہ قبول کی جائے گی۔ اور بد عمل کی شکایت کرے گا جس میں اس کی تصدیق کی

جائے گی۔

علیٰ ہذا القیاس احادیث صحیحہ معتبرہ میں دیگر اور اعمال صحیحہ و صدقات نافلہ اور خانہ

کعبہ خمر الاسود اور اذان سننے والی چیزوں کا اور اذان کی دعا پڑھنے پر اور روضہ نبوی علیٰ صاحبہا

الصلوة والسلام کی زیارت کرنے والے کی اور بعض اور شعائر اللہ اور فقراء و مساکین وغیرہ کا

شفیع ہونا ثابت ہے۔

تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ محترمہ زابعہ بھریہ کی سفارش سے ستر ہزار گنہگار جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت اویس قرنی کی سفارش پر سے ایک خاص تعداد جنت میں جانے کے متعلق تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں مذکور ہے۔

ناظرین حضرات! اسی طرح اور بھی متعدد احادیث صحیحہ گنائی جاسکتی ہیں جن سے شفاعت صغریٰ کا ثبوت و تحقیق بڑی وسعت سے ظاہر ہوتا ہے لہذا طوالت کے خوف سے صرف ایک حدیث اور ذکر کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ واقعہ معراج دیکھئے کہ یہ ایک ایسا امر واقع ہے جس کا ذکر صاف صاف قرآن و حدیث میں وارد ہے کہ اس واقعہ میں یہ ایک امر ملاحظہ فرمائیے کہ جب واپسی پر حضور ﷺ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے یہ عرض کی کہ دربار الہی سے کیا حکم ہوا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض قرار دیں ہیں جس کو سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بخدا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے آپ واپس جائیں تاکہ اس میں کچھ تخفیف فرمائی جائے جس پر پانچ معاف کر دیں گئیں پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دریافت کیا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں معاف کر دی گئیں ہیں۔ عرض کیا گیا اب بھی بہت ہیں واپس آکر پھر تخفیف کرائیے القصہ مختصر یہ کہ آپ نو دفعہ اسی طرح آئے گئے جس پر پینتالیس نمازیں معاف کر دی گئیں۔ آپ واپس آئے عرض کیا گیا کہ کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ اب صرف پانچ رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بخدا میں نے سخت تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کو بڑا آزمایا ہے آپ کی امت پانچ بھی نہ پڑھ سکے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے مولیٰ کریم سے بہت سوالات کیے۔ اب مجھے شرم آتی ہے میں اس پر راضی ہوں اور اپنا اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب آپ آگے چلے تو غیب سے ندا آئی کہ میں نے اپنے مقرر کیے ہوئے حکم کو پورا کر لیا اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کر دی۔ (بخاری و مسلم)

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>



حضرات! دیکھئے اس حدیث میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور عملدرآمد ہونے سے پیشتر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت سے پانچ رہ گئیں اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی کے بعد برزخی زندگی میں یہ سفارش کی ہے۔ اب فرمائیے کہ سفارش اور شفاعت بے معنی بات ہے تو پچاس کی پانچ کیسے رہ گئیں۔ کم از کم منکر حضرات کو تو پچاس ہی پڑھنی چاہئیں۔ اور اگر وہ بھی پانچ پر ہی بھند ہوں تو سفارش و شفاعت صحیح و درست ثابت ہوئی۔ پھر اس کو ناجائز کہنا بے معنی بات ہے۔ نیز اگر شفاعت ناجائز ہوتی تو تخفیف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ جب یہ ناجائز ہے تو اس پر وقتی تک و دو محض بے سود ہے اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ امر غیر متوقع کہ وہ ایک ناجائز پر ایسا اقدام کریں۔ بہر صورت اس واقعہ سے بھی ثابت ہوا کہ سفارش و شفاعت ایک جائز امر اور صحیح ہے اور اس میں حیات و ممات کی کوئی قید نہیں۔

ناظرین کرام! آپ نے احادیث صحیحہ معتبرہ سے بھی ملاحظہ فرمالیا کہ شفاعت شرعی طور پر ایک جائز اور امر واقع ہے۔

اب علماء کرام اور صوفیائے عظام کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں شفاعت اور سفارش کا حکم سماع فرمائیے۔

سبیل الجہان ترجمہ تکمیل الایمان مولفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ میں ص ۲۰ پر ہے۔ وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ شَفَاعَتُ حَقٌّ ہے جو حضرت رسول کریم ﷺ قیامت کے روز اپنی امت کی فرمائیں گے۔ اسی طرح مناجات النبوة شرح مدارج النبوة میں ہے۔

تفسیر عزیزی ص ۲۱۸ پر آپ کے خصوصیات ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ و مقام محمود مشرف سازند و در دست ایشاں لواء حمد و ہند کہ حضرت آدم و تمام ذریت ایشاں زیر آں نشان باشد..... و شفاعت عظمیٰ ایشاں را مخصوص سازند (ترجمہ) اور آپ کو مقام محمود سے مشرف کیا جائے گا اور لواء حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے آدم اور آپ کی تمام اولاد ہوگی اور شفاعت عظمیٰ و کبریٰ کے ساتھ آپ کو مخصوص فرمائیں گے۔

کتاب ہدیۃ المہدی ص ۷۷ ج ۱ مؤلفہ مولوی وحید الزمان الہمدیث پر ہے  
الشفاعة حق ثابتة للرسول والاخبار کا لعلماء والشهداء (ترجمہ) شفاعت حق اور سچ  
ہے اور انبیاء کرام و علماء عظام و شہداء حضرات کے لیے ثابت ہے۔

النضید فی اخلاص کلمۃ التوحید مؤلفہ قاضی بن علی الشوکانی کے ترجمہ مولوی محمد علی ایم  
اے بمبئی ص ۸۲ پر ہے۔ شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”اور یہ جائز ہے  
کیونکہ یہ طلب شفاعت اور دعا ہے ان لوگوں سے جن کو خدا کی طرف سے ان دونوں چیزوں  
کی اجازت ملی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ عادت مستمرہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات  
میں دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اور اسی کتاب کے ص ۸۳ پر ہے اور علیٰ ہذا القیاس  
آپ ﷺ کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کو یہ ارشاد کہ اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ سے  
ملو تو ان سے اپنے لیے دعا منگوانا۔ اور اسی کے ص ۸۴ پر ہے اور اسی طرح طلب شفاعت اس  
سے جس کی نسبت شریعت مطہرہ نے بتا دیا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے مثلاً انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ  
والسلام سے بالکل مطابق شریعت ہے اور اسی لیے خدا تعالیٰ اپنے رسول (ﷺ) سے قیامت  
کے دن فرمائے گا کہ تو مانگ تجھ کو دیا جائے گا اور شفاعت کر تو وہ قبول ہوگی اور یہی وہ مقام  
محمود ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ يَّتَّعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  
مَّحْمُودًا۔ اور اسی ص ۸۵ پر ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسی کی شفاعت  
ہو سکے گی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ (ترجمہ) اللہ  
تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔

نواب صدیق حسن بھوپالوی اپنے قصیدہ عنبریہ میں لکھتے ہیں۔

مالی و راک مستغاث فارحمن یارحمة اللعالمین بکائی

(ترجمہ) میرے لیے حضور کے سوا کوئی فریاد درس نہیں پس اے رحمۃ اللعالمین میرے رونے  
پر رحم فرمائیے۔

حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی اپنے قصیدہ میں یوں التجا کرتے ہیں۔

شفیع عاصیاں ہو تم وسیلہ بکیاں ہو تم  
لگے گا جوش کھانے خود بخود دریائے بخشائش  
اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں  
جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں  
مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند اپنے قصیدہ قاسمیہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی  
شان میں لکھتے ہیں۔

تو اس سے کہو اگر اللہ سے ہے درکار  
زمین پہ جلوہ نما ہیں محمد مختار  
تجھے شفیع کہے کون اگر نہ ہوں بدکار  
بشرگناہ کریں اور ملائک استغفار  
تو کوئی اتنا نہیں جو کرے کچھ استغفار  
بنے گا کون ہمارا ترے سوا غمخوار  
نہیں قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی مولوی رشید احمد صاحب کے مرثیہ ص ۱۰ پر لکھتے ہیں۔  
گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی  
عبید سود کا انکے لقب ہے یوسف ثانی  
وہ شہباز طریقت تھے محی الدین جیلانی  
وہ نیسان کرم اب بھی ہے سرگرم درافشانی  
حیات شیخ کا منکر سو جو ہے اس کی نادانی  
اٹھے اف دیویراں سے محی الدین جیلانی  
بلکہ زندہ ہی رکھا سب کو علی وجہ اتم

بہشتی زیور مولفہ مولوی اشرف علی تھانوی حصہ اول ص ۳۳ عقیدہ ص ۴۰ پر ہے۔ اور

قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے ترازو کھڑی ہو جائے گی بھلے برے عمل تو لے جائیں گے۔ اسی کتاب میں عقیدہ ص ۴۱ ص ۴۳ پر ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں۔

دلائل الخیرات وغیرہ میں ہے اللهم اجعل محمداً اصدق قائلٍ وانحج سائلٍ و اول شافعٍ و افضل مشفعٍ وشفعه فی امتہ بشفاعتہ یغبطہ بہا الاولون والآخرون۔ (ترجمہ) اے اللہ آپ کی اپنی امت کے حق میں ایسی شفاعت قبول کر جس پر اگلے اور پچھلوں سب کو رشک پیدا ہو۔

مولوی احمد علی صاحب لاہوری اپنے رسالہ موسومہ ”وظیفے“ کے ص ۵ پر لکھتے ہیں۔ اسی پاک و مبارک مقصد کی تکمیل کے لیے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین (ﷺ) کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا چنانچہ آنحضور سر ایا نور فداہ ابی و امی نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا۔ الخ

مولوی اشرف علی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب کے ص ۷ پر لکھتے ہیں۔ اما بعد! یہ گرسنہ رحمت غفار و تشنہ شفاعت سید الابرار (ﷺ) الخ

اسی کتاب کے ص ۳۰۶ پر شفاعت بالاذن بحوالہ بخاری و مسلم مذکور ہے اور ص ۳۰۷ پر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر مسطور ہے۔ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْاَهْوَالِ مَفْتَحُ جَنَابِ مُصْطَفَى ﷺ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالَى كَيْ يَرْجُوَ مَحْبُوبٌ هِيَ جَنُّ كِي هَرْدِشَوَارِ امْرِئِي شَفَاعَتِ مَتَوَقَّعٍ اُوْر قَبُولِ هِيَ اُوْر اِسى كِتَابِ كِى ص ۹۶ پر ہے واقعہ معراج شریف مرقوم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سفارش سے پچاس نمازوں سے پانچ باقی رہنا مذکور ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے قصیدہ اطیب النغم میں لکھتے ہیں۔

یا من برجی لکشف رزیه و من جوه قد فاق جود السحاب  
(ترجمہ) اے وہ ذات جس سے ازالہ مصائب میں پوری امید ہے اور جس کی سخاوت بادلوں  
کی سخاوت پر فوقیت رکھتی ہے۔

حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ زینحاً میں فرماتے ہیں۔ شب اندوہ مارا  
روز گرداں زرویت روز نافرین گرداں (ترجمہ) آپ ہماری شب تار یک کو روز روشن بنا دیں  
اور اپنے چہرہ منور سے ہمارے دن کو کامیاب بنا دیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کتاب الاخیار میں لکھتے ہیں۔

بہر صورت کہ باشد یا رسول اللہ کرم فرما بلطف خود سرو ساماں جمع بے سرو پاکن  
محب ابی اصحاب توام کارمن حیراں بلطف خویش ہم امروز ہم در روز فرداکن  
(ترجمہ) ”یا رسول اللہ ہر حالت میں ہم پر کرم فرمائیے اور بے سرو سامان کا اپنے لطف کرم  
سے سامان بنا دیجئے۔“

میں آپ کی آل پاک اور اصحاب کرام کا محبت رکھنے والا ہوں اپنی مہربانی سے دنیا  
و آخرت میں مجھے کامیاب بنا دیجئے۔

حضرت شاہ ابوالمعالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

گرنہ بودے یا رسول اللہ ذات پاک تو ہیچ پیغمبر نہ بردے دولت پیغمبری  
(ترجمہ) ”یا رسول اللہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو کوئی پیغمبر دولت پیغمبری سے مستفید نہ  
ہوتا۔“

معزز ناظرین! ان دیوبندی اور اہلحدیث وغیرہ حضرات کی عبارات سے بھی روز  
روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہر شخص شفاعت کر سکتا ہے۔ دنیا و  
آخرت میں اس کی کوئی تخصیص نہیں اور نہ ہی کسی چیز کی تخصیص ہے۔ اسی طرح رسول  
کریم ﷺ جس کو اجازت مرحمت فرمائیں کیونکہ وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔

نیز یہ ثابت ہوا کہ کسی کے لیے دعا کرنا جائز ہے اور یہ کہ کسی کے لیے دعا کرنا اور

سفارش و شفاعت کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کیونکہ کسی کے لیے دعا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ کسی سے کسی کے لیے سفارش کرنا ہے لہذا استعانت اور استعاذہ و استمداد کے جتنے واقعات غیر اللہ سے معلوم و منسوب ہوں گے وہ درحقیقت سفارش اور شفاعت ہی ہے کیونکہ غیر اللہ سے استعانت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کے لیے دعا کریں اور جائز تدبیر فرمائیں۔

یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ معروف و مشہور عبارت ختمیہ مثلاً امداد کن امداد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی ہیما اللہ وغیرہ بالکل جائز ہیں کیونکہ جیسے قصائد قاسمیہ قصیدہ عنبریہ۔ قصیدہ بردہ شریف۔ قصیدہ ہمزیہ وغیرہ میں غیر اللہ کی طرف نسبتیں مجازی طور پر ہیں نہ کہ حقیقی طور پر کیونکہ ہر چیز کا فاعل اللہ ہے اسی طرح عبارات ختمیہ میں بھی یہ نسبت مجازی طور پر بطریقہ اسباب و وسائل ہے زیادہ اطمینان کے لیے ہمارا کتابچہ النداء بحرف الیاء ملاحظہ فرمائیے جس میں ان عبارتوں کی صرفی نحوی لغوی طور پر صحت بیان کی گئی ہے۔

بہر حال اسی طرح سینکڑوں اور علماء کرام کے حوالہ جات دیئے جاسکتے ہیں جن سے جواز شفاعت کا شرعی نقطہ نظر سے صحیح اور درست ہونے کا وجود موجود ہے لیکن طوالت کے ڈر سے اور اس وجہ سے کہ سلیم الفطرت کے لیے اس قدر کافی ہے اس سے اطمینان ہو سکتا ہے۔

آخر میں ہم حضرت امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض وہ اشعار جو کہ جواز شفاعت پر مشتمل ہیں۔ قصیدہ نعمان سے نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں۔

انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الوری لولاک  
ترجمہ: ”آپ وہ ہیں کہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی کوئی شخص بلکہ کائنات پیدا نہ ہوتی۔“

انت الذی فینا سالت شفاعۃ لباک ربک لم تکن لسواک  
ترجمہ: ”آپ کی ذات ہے کہ آپ نے جب ہمارے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ کے پروردگار نے پکار کر کہہ دیا۔ یہ مرتبہ سوائے آپ کے کسی کا نہیں ہے۔“

یا مالکی کن شافی فی فاقسی انی فقیر فی الوری لغناک

ترجمہ: ”اے مرے مالک بحالت فقر میرے شفیع ہو جائیے۔ کیونکہ ساری خلق میں آپ کی غنا کا سب سے زیادہ میں ہی محتاج ہوں۔“

انا طامع بالوجود منك و لم يكن لابي حنيفه في الانام سواك  
ترجمہ: ”میں آپ کی بخشش کا حریص ہوں اور بجز آپ کے دنیا میں مجھ غریب کا (ابوحنیفہ کا) کوئی یار و نمگسار نہیں۔“

فلانت اكرم شافع و مشفع ومن التجى بحماك نال رضاك  
ترجمہ: ”بلاشبہ آپ عند اللہ بزرگ تر ہیں شفیع اور مقبول الشفاعت ہیں اور جو آپ کی پناہ میں آ گیا اس نے آپ کی خوشنودی کو پایا۔“

## بحث تصرفات

قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بر تقدیر صحت شفاعت و سفارش کیا انبیاء کرام اور اولیاء کرام میں ایسے تصرفات اور مشکل کشائی کی قوت ہے کہ کسی کو جسمانی و روحانی طور پر فائدہ پہنچا سکیں۔ آڑے وقت کسی کے کام آئیں کیا ایسا کہیں ہوا بھی ہے بظاہر غیر ممکن اور مستبعد سا معلوم ہوتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد اسباب و وسائل تعاون ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کیا ہو سکتا ہے وہی ہوتا ہے جو کہ منظور خدا ہوتا ہے۔ لہذا

تصرف کی حقیقت اور اس کا تاثر شرعی نقطہ نظر سے بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسئلہ زیر بحث کی تکمیل ہو جائے۔ تصرف کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو کسی وجہ سے سرانجام دیا جائے اور یہ عقلی اور شرعی طور پر جائز ہے کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے کسی کام کی تکمیل کرنا اور یہ امر بلا قباحت جائز ہے۔

سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے تصرفات

دیکھئے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان اقدس میں یوں وارد

ہوا ہے۔

الدِّينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ  
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

ترجمہ: ”وہ لوگ کہ پیروی کریں گے اس بھیجے ہوئے غیب کی باتیں بتانے والے اُمی کی جسے  
لکھا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ انہیں حکم دے گا بھلائی کا اور روکے گا برائی  
سے اور حلال کرے گا ان کے لیے ستھری چیزیں اور حرام کرے گا ان پر گندی چیزیں اور  
اتارے گا ان سے ان کا بھاری بوجھ اور سخت تکلیفوں کے بھاری طوق جو ان پر تھے۔“

اس کلام پاک میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو تصرف امور شرعیہ میں عطا ہوا ہے  
اس کا بیان ہے کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر ستھری چیزوں کے حلال کرنے والے اور  
گندی چیزوں کو حرام کرنے والے اور باقی ناقابل برداشت بوجھ اتارنے والے سخت تکلیف  
کے طوق دور کرنے والے ہیں..... کیا صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امور شرعیہ میں  
قدرت و تصرف عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان تصرفات کا جاری کرنے والا کہہ سکتے  
ہیں اسی طرح قرآن مجید نے آپ ﷺ کو مزکی مطہر معطی منعم تمام کائنات کا ہادی وغیرہ  
اوصاف سے نوازا ہے..... اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرف  
امور شرعیہ میں تصرف کرنے والے اور ان کو اپنی طرف منسوب کرنے والے مذکور ہے بلکہ  
ملائکہ کرام کی طرف یہ تصرفات منسوب ہیں جیسا کہ لَاهِبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا (ترجمہ)  
”میں تجھے ستھرا بچہ دوں یہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کو کہا تھا۔ اسی طرح  
قابض الارواح نازعات ارواح مدبرات امور و دیگر امور تکوینیہ میں ان کو متصرف اور کرنے  
والے بتایا ہے۔

ناظرین! قرآن مجید میں امور تکوینیہ و شرعیہ کو مجازی طور پر غیر کی طرف منسوب کرنا  
کس قدر صاف اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر کس قدر بے سمجھی ہے کہ مجازی طور پر کسی  
فعل کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے پر جھگڑا شروع کر دیا جائے۔ صحیح مسلم اور ابوداؤد میں



حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا کہ ایک رات آپ نے جب کہ میں نے وضو کے لیے پانی اور دیگر ضروریات بہم پہنچائیں تو آپ نے فرمایا یعنی مانگ کیا مانگتا ہے جس پر میں نے عرض کیا کہ مجھ کو جنت میں آپ کی رفاقت عطا ہو فرمایا بھلا اور کچھ عرض کی بس! مراد تو یہی ہے۔ فرمایا میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجد سے اس میں آپ نے بلا تقلید و تخصیص کے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں ”از اطلاق سوال کہ فرمود سل بخواہ تخصیص نکر و بمطلوبے خاص معلوم می شود کہ کار ہمہ بدست ہمہ و کرامت اوست، و اوصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہرچہ خواہد ہر کہ خواہد باذن پروردگار خود دہد۔“ (ترجمہ) آپ فرماتے ہیں کہ سوال کے اطلاق سے کہ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے کسی خاص مطلوب کو معین نہیں فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کام آپ کی ہمت اور قدرت کے ماتحت کیے گئے ہیں کہ آپ جو چاہیں جس کو چاہیں مولا کریم کی اجازت سے عطا فرمائیں۔

اسی حدیث کے تحت علامہ علی القاری الحنفی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں۔ یوخذ عن اطلاقہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الامر بالسوال ان اللہ مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق. (ترجمہ) یعنی رسول کریم ﷺ نے جو مطلقاً کسی چیز کے مانگنے کا حکم دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جس کو چاہیں جو چاہیں دیں۔

علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس قصیدہ بردہ میں جو کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں روبرو سنایا اور آپ نے اس کی انتہائی تحسین فرمائی۔ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وان من جودک الدنیا و ضرقہا و من علومک علم اللوح و القلم (ترجمہ) دنیا و آخرت آپ کی بخشش کا نتیجہ ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم بے پایاں کا ایک قطرہ ہے۔

مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والنسۃ ص ۹ میں ہے عن العرباض بن ساریہ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابِحَسْبِ أَحَدِكُمْ مَتَكْنَا عَلِيَّ  
أَرِيكْتَهُ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَحْرَمِ شَيْئًا إِلَّا مَا قَالَى هَذَا الْقُرْآنُ الْإِوَانِي وَاللَّهُ قَدْ أَمَرَ  
وَوَعَّظْتَ وَنَهَيْتَ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ..... اور دوسری حدیثوں میں  
یوں آیا ہے وَاِنَّمَا مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ (ابوداؤد، دارمی، ابن ماجہ)  
(ترجمہ) ”عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ کیا  
کوئی تمہارا اپنی چھپرکٹ پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ شریعت میں وہی چیزیں  
حرام ہیں جن کی حرمت قرآن مجید نے بیان کی اور بس! خبردار بخدا میں نے اتنی چیزوں کے  
کرنے اور اتنی سے منع کیا ہے غالباً وہ قرآن کی حلال اور حرام کردہ کے برابر یا زائد ہوں گی۔  
اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میری حلال و حرام کردہ چیزیں ایسی ہی ہیں جیسا کہ قرآن کے  
حلال و حرام کردہ۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میری حلال و حرام کردہ چیزیں ایسی ہی ہیں  
جیسا کہ قرآن کی حلال و حرام کردہ۔ اور تیسری حدیث میں اس کو سختی سے بیان فرمایا لَا الْفَيْنِ  
أَحَدِكُمْ مَتَكْنَا عَلِيَّ أَرِيكْتَهُ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ  
لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْبَعْنَاهُ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دلائل النبوة)  
(ترجمہ) خبردار میں تم میں سے کسی کو اپنی چھپرکٹ پر تکیہ لگائے ہوئے کو یہ کہتا ہوا نہ پاؤں کہ  
جب اس کے پاس میرا امر یا نہی سے کوئی امر آئے تو وہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے ہم کو جو  
قرآن میں ملا ہم اسکی اتباع کریں گے۔“

دیکھئے آپ نے شرعی تصرف سے انکار کرنے والے کو کس قدر ڈانٹا ہے اور یہ کہ  
آپ کے امر و نہی کی حیثیت قرآن کی سی ہے اور اس کا ماننا عقلاً و شرعاً نہایت ضروری ہے۔  
آپ کے امر و نہی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے بلکہ اس سے مراد  
یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو میں نے امر و نہی کیا ہے جیسا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ كَا  
بدیہی تقاضا ہے۔

امام احمد و ابوبکر بن ابی شیبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور

انور علیہ السلام نے فرمایا کہ أُعْطِيْتُ مَالِمَ يَعْطَى أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نَصْرًا بِالرَّعْبِ  
وَاعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ الْحَدِيثِ (ترجمہ) مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا  
نہ ہوا۔ رعب سے میری مدد کی گئی کہ مہینہ بھر کی راہ پر دشمن میرا نام پاک سکر کا اپنے لگتا ہے اور  
مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئیں یعنی بالآخر میری امت زمین پر قابض ہو جائے گی۔

امام احمد اپنی مسند میں، ابن حبان اپنی صحیح میں، ابو نعیم اپنی دلائل النبوة میں، حضرت  
جابر بن عبد اللہ سے راوی کہ فرماتے ہیں اوتيت بمقاليد الدنيا على فرس ابلق جاءني  
بد جبرائيل عليه قطيفة من سندس (ترجمہ) حضرت جبرائیل علیہ السلام ابلق گھوڑے پر  
بہترین ریشمی لباس زیب تن کیے ہوئے دنیا بھر کی کنجیاں لیکر مری خدمت میں حاضر  
ہوئے..... یہاں پر بھی تصرف مراد ہے۔

ابن عبد ربه كتاب بهجة المحاسن میں راوی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: من  
عوفني فقل عرفني ومن لم يعرفني فانا رضوان خازن الجنان ان الله امرنيان اذ دفع  
مفاتيح الجنة الى محمد وان محمدا امرني ان دافعها الى ابي بكرها اشهدواها.  
اشهدوا. الخ

ترجمہ: ”جس نے مجھے جانا اس نے جانا اور جس نے نہ جانا تو میں رضوان داروغہ جنت  
ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کی کنجیاں محمد علیہ السلام کو دے دوں اور محمد علیہ السلام کا حکم ہے کہ  
کنجیاں ابو بکر کو سپرد کر دوں ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔“

مواہب لدنیہ میں امام احمد قسطنطینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من خصائصه صلی  
الله عليه وآله وسلم ان كان يحض من يشاء بما شاء من الاحكام. (ترجمہ) سید  
عالم علیہ السلام کے خصائص کریمہ سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ شریعت مطہرہ کے عام احکام سے  
جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرمادیتے ہیں۔

اسی طرح خصائص کبریٰ میں امام جلیل حضرت جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے اور  
ارشاد الساری صحیح بخاری میں بھی اسی طرح ہے۔ چنانہ ایک صحابی کو جس نے ماہ رمضان میں

بحالت روزہ اپنی بیوی سے مجامعت کا ارتکاب کر لیا تھا اس کو آپ نے کفارہ سے معافی دے دی اور دامن ۱۰ سیر کھجوریں بطور انعام مرحمت فرمائی۔

حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دو مردوں کے برابر کر دی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے خاوند کے شہید ہونے پر صرف تین روز سوگ جائز قرار دے دیا۔ پھر نکاح کی رخصت عنایت فرمادی۔

ابو بردہ بن نیار کے لیے ششماہی بکری کا بچہ قربانی کے لیے جائز فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خارش کے دفعیہ کے لیے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ اپنی مسجد میں اپنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت کے لیے جنایت کی حالت میں آنا و جانا حلال کر دیا..... سراقہ بن مالک کو سونے کے ننگن پہننے کی پیشگوئی فرمادی جو کہ عہد فاروقؓ میں پوری کر دی گئی..... قصیدہ بردہ شریف میں ہے: نبینا الامرر الناهی فلا احد ابرنی قول لامنه ولانعم. علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح شفا شریف نسیم الریاض میں اس شعر کی شرح میں لکھتے ہیں معنی بیننا الامر انه لاحاکم سواہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فهو حاکم غیر محکوم (ترجمہ) یعنی حضور علیہ السلام کے سوا اور کوئی حاکم نہیں پس وہ محکوم نہیں بلکہ محض حاکم ہیں..... آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دس ہزار اشرفی پر جنتی مکان فروخت کر دیا اور ضمانت اور ذمہ داری لے لی..... اسی طرح آپ نے ایک چشمہ بیر رومہ پینتیس ہزار روپیہ سے خرید کر حضور علیہ السلام سے ایک جنتی چشمہ کے بدلہ فروخت کیا اور آپ نے بچکر ذمہ داری لے لی۔ (ماخوذ از الامن والعلاء)

امام عصر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انبیاہ الاذکیاء فی حیات الانبیاء میں فرماتے ہیں۔ النظر فی اعمال امته والا ستغفار لم من السینات والدعا بکشف البلاعنہم والتردد فی اقطار الارض لحصول البرکت فیہا و حضور

جنازة من مات من صالحى امته فان هذه الامور من اشغاله كما ورد بذلك الاحاديث والاثار. ترجمہ: ”یعنی یہ احادیث اور آثار سے ثابت ہے کہ آپ اعمال امت میں نظر فرماتے ہیں۔ ان کے گناہوں کو معاف کرانے اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اور حدود زمین افادہ برکت کے لیے طواف فرماتے ہیں اور جب امت سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور عالم بزرخ میں آپ کے اسی طرح کے اشغال ہیں جیسا کہ احادیث اور آثار میں مذکور ہے۔

تفسیر روح البیان سورہ ملک کے آخر میں لکھتے ہیں قال الامام الغزالی والرسول عليه السلام له الخيار في طواف العالم مع ارواح الصحابة رضى الله عنهم لقد راه كثير من الاولياء. (ترجمہ) امام غزالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمام عالم میں مع ارواح صحابہ کے سیر کریں اور بہت سے اولیاء کرام نے حضور علیہ السلام کو (یعنی سیر کرتے ہوئے) بیداری میں دیکھا ہے۔

## علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے تصرفات

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں آیت اِياكَ نَسْتَعِيْنُ کے ماتحت لکھتے ہیں۔ (ترجمہ) غیر اللہ سے مدد مانگنا اس طریق پر جس میں غیر پر کلی اعتماد کیا جائے اور مظہر عون الہی نہ سمجھا جائے حرام ہے اور اگر اس کا خیال محض جانب حق ہے اور اس کو مظہر عون الہی سمجھ کر خدا کے کارخانہ اسباب و حکمت پر خیال کر کے استمداد کرے تو یہ عرفان سے بعید نہیں اور شرع شریف میں اس قسم کی مدد طلب کرنا جائز اور روا ہے۔ اور انبیاء و اولیاء نے بھی اس قسم کی مدد (غیر اللہ) کی ہے حقیقت میں یہ استعانت بالغیر نہیں بلکہ استعانت باللہ ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مدد چاہنا کہ آپ ہماری مشکل کشائی بلحاظ عالم اسباب خود فرمائیں یا ہمارے لیے دعا کریں سفارش کریں یہ امر قطعاً جائز ہے اور یہ

استعانت بالغیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہے۔

مدارج شریف میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور پر نور ﷺ کی خصوصیات میں لکھتے ہیں۔ ”وازاں جملہ آنت کہ دادہ شد آنحضرت را صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفاع خزان رزق و سپردہ شد بولے۔ مراد از خزان اجناس عالم اس کی رزق ہمہ بولے داد مفاع خزان رزق و قسمت آں در دست این سید کریم نہادند۔ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انما انا قاسم و المعطی هو اللہ (ترجمہ) دینے والا اللہ تعالیٰ ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں..... یعنی آپ کی خصوصیات میں سے بھی ہے کہ اجناس عالم کے رزق کے خزانوں کی کنجیاں اور اس کی تقسیم آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں دے دی گئی۔

امام محقق ابن حجر کی اپنی کتاب الجواہر المنظم میں تحریر فرماتے ہیں۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الاعظم الذی جعل خزائن کو مہ و موائد نعمہ طوع یدہ و تحت ارادہ یعطی منها من یشاء و یمنع من یشاء. (ترجمہ) یعنی بلاشبہ آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ اعظم ہیں کہ اپنی جو دد کرم کے تمام خزانے اور اپنی نعمتوں کے تمام دسترخوان آپ کے زیر حکم و اختیار کر دیئے ہیں جو چاہیں جس کو چاہیں دیں اور جو چاہیں جس کو چاہیں منع کر دیں۔

مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی پہلے یہی عقیدہ اپنی کتاب صراط مستقیم ص ۱۰۱ پر لکھا ہے کہ ہمچنین اصحاب این مراتب عالیہ و ارباب این مناصب رفیعہ مازون مطلق در تصرف عالم مثال و شہادت می باشد و این کبار اولی الایدی و الابصار را میرسد کہ تمامی کلیات را سوائے خود نسبت نمایند مثلاً ایسا نرا میرسد کہ بگویند از عرش تا فرش سلطنت ماست: (ترجمہ) اسی طرح مراتب علیہ و مناصب رفیعہ کے ارباب و اصحاب عالم مثال و شہادت میں مازون مطلق ہوتے ہیں اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ تمام کلیات کو اپنی طرف منسوب کریں مثلاً یہ کہیں کہ عرش سے فرش تک ہماری حکومت ہے۔ (خط کشیدہ الفاظ کو مکرر پڑھیے)

آیہ کریمہ لا لودفع اللہ الناس بعضهم ببعض کے ماتحت علماء محققین نے

بہت سی روایات نقل کی ہیں جن میں سے ایک نقل کی جاتی ہے..... عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الابدال في امتي ثلثون رجلاً بهم تقوم الارض و بهم تمطرون و بهم ينصرون ثم قال عبادة رضى الله تعالى عنه انى ارجوا نيكون الحسن منهم. (ترجمہ) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں تیس ابدال ہیں انہی کے سبب سے زمین قائم ہے اور انہی کی برکت سے لوگ بارش برسائے جاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے مدد اور فتح پاتے ہیں پھر حضرت عبادة رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ مری امید ہے کہ (حضرت) حسن بصری انہی سے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں۔ حضرت امیر و ذریعہ طاہرہ اور اتمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرستند و امور تکوینیہ را با ایشاں وابستہ می دانند و فاتحہ درود و صدقات و نذر بنام ایشان رانج و معمول گردید چنانچہ جمیع اولیاء اللہ را ہمیں معاملہ است ص ۳۹۶ (ترجمہ) حضرت امیر اور آپ کی اولاد پاک کو تمام امت پیروں کی طرح مانتی ہے اور امور تکوینیہ میں ان کو متصرف مانتی ہے اور ان کے نام پر نذر و نیاز وغیرہ دینا ایک عام رواج ہو گیا ہے جیسا کہ تمام اولیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ (خط کشیدہ الفاظ کو ذرا ملاحظہ ہو) اسی طرح تفسیر عزیزى ملفوظات مرزا مظہر تذکرۃ الموتی ہمعات صراط مستقیم جواہر نسمہ وغیرہ میں ہے۔ نواب صدیق خاں سے دیوان نضح الطیب میں یوں منقول ہے۔ زمرہ راے در افتاد بار باب سنن شیخ سنت مدد لے قاضی شوکانی مددے۔ (ترجمہ) ارباب سنن حیران ہیں اے شیخ سنت قاضی شوکانی مدد کرو۔

مولانا مولوی غلام حسین ہوشیاری پوری نے اپنی مسدس میں کیا خوب کہا ہے۔

ابنیاں اولیاء سب ہیں وسائل بالیقین	ہے تصرف ان کا عالم میں زرب العالمین
امر حق سے یہ کریں ہیں مقصد دنیاؤ دیں	بن خدا ان کو خود مختار جانے ہے العین
مت سن انکی مذہب سنت جماعت کو سمجھال	بدعتی مشرک لہالی سب کے سر پر ڈال
خود کہا مشکوٰۃ میں آں رحمۃ اللعالمین	شام میں ابدال ہیں چالیس بروئے زمیں

مظہر عون الہی ہیں بلاشک اولیاء جو کہے شرک اس مدد کو اس کو جانو یحیا  
انبیاء اولیاء سب ہیں جو مقبول خدا  
مانگتی ان سے مدد حسن حصین میں ہے روا

مولوی محمود حسن صاحب مولوی رشید احمد صاحب کے مرثیہ ص ۱۰ پر فرماتے ہیں۔

قاسم حضرت امداد کو مرنے نہ دیا۔ بلکہ زندہ ہی رکھ سب کو علی وجہ اتم  
علیٰ ہذا القیاس مولوی محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند حاجی امداد اللہ صاحب۔ مولوی  
اشرف علی صاحب وغیرہ علماء دیوبند وغیرہ کے اقوال پہلے گزر چکے ہیں جن سے یہ تصرف روز  
روشن سے زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ کہ مولوی رشید احمد صاحب کو کیا کچھ بنا دیا ہے اور مادی  
دردحانی تصرف حتیٰ کہ موت و حیات کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے  
کہ یہ اشغال و تصرفات تاحال بلکہ تا قیامت باقی رہیں گے اور ان تصرفات کا درست ہونا  
مولوی محمود حسن صاحب اور ان کے ہم خیال دیوبندی حضرات سب کو مسلم ہے۔ ہذا ہوا المراد۔  
مکتوبات امام ربانی ہشتاد و دوم و دویست جلد اول میں فرماتے ہیں: ”امروز در حلقہ  
بامدادی بینم کہ حضرت الیاس و حضرت خضر علیہما السلام بصورت روحانیاں حاضر شدند و بہ تلقی  
روحانی حضرت خضر فرزند کہ ما از عالم ارواح حضرت سبحانہ و تعالیٰ ارواح مارا قدرت کاملہ عطا  
فرمودہ است کہ بصورت اجسام متمثل شدہ کارہائے کہ از اجسام بوقوع می آیند از ارواح  
ما صدوری یا بند۔“

(ترجمہ) آج حلقہ میں صبح کے وقت میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیٰ نبینا  
وعلیہم السلام صورت روحانیوں میں حاضر ہوئے اور روحانی القا سے حضرت خضر علیہ السلام نے  
فرمایا کہ ہم عالم ارواح سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارواح کو قدرت کاملہ عطا فرمائی ہوئی  
ہے کہ اجسام کی صورت میں متمثل ہو کر دنیا کے ان کاموں کو سرانجام دیں جو کہ ظاہری اجسام  
سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہدیۃ المہدی ص ۶۱ پر ہے۔

معزز ناظرین! ان مذکورہ بالا حوالجات سے ثابت ہوا کہ حضور پر نور سید یوم النشور



صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات عالم میں مختار ہونا خزانے پر قبضہ ہونا اور عالم کے کلیات و جزئیات کا زرقدرت ہونا وغیرہ محققین اعلام اور علماء فہام نے اس کثرت سے بیان فرما دیا ہے کہ وہ حد تو اترا کو پہنچ چکا ہے۔ آپ یہ مٹتے نمونہ از خردوار پر کفایت فرما لیجئے۔ یہ سچ ایماندار کے لیے از بس کافی ہے۔

نیز اسی طرح اولیاء اقطاب، اغواث، اوتاد، مجددین وغیرہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمرہ خواص میں سے ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارادے کے موافق ہر طرح دینے لینے میں مختار ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات کا تذکرہ تفصیلی طور پر ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہاں صرف ایک بزرگ مستند و مسلم کا ارشاد تحریر کرتے ہیں جس کی کرامتیں اتفاقی طور پر مسلم ہیں۔ یعنی حضرت قطب ربانی غوث صمدانی شہباز لامکانی سیدنا سنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ..... آپ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

وولانی علی الاقطاب جمعاً  
مجھے تمام قطبوں پر فضیلت بخشی گئی ہے  
فحکمی نافذ فی کل حالی  
نہیں میرا ہر وقت و ہر حالت حکم جاری ہے  
بلاذ اللہ ملکی تحت حکمی  
اللہ کے تمام ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں  
اور میرا دل و جان صفا و مصفا فرما دیا ہے  
نظرت الی بلاد اللہ جمعاً  
میں اللہ کے تمام ممالک اسطور ملاحظہ کرتا ہوں  
جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ

ناظرین کرام! کتاب و سنت وغیرہ کی روشنی میں شرعی نقطہ نظر سے شفاعت کا مفہوم اور اس کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے جو کہ ایسے شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ حد تک اطمینان قلب کا موجب ہو سکتی ہے جو کہ کتاب و سنت وغیرہ کو بدل و جان تسلیم کرتا ہے جیسا کہ روئے سخن ایسے حضرات سے ہی ہے۔ رہا ضد اور کج فہمی کا معاملہ سو اس کے لیے ہزاروں دفتر بھی مفید نہیں ہو سکتے۔ لہذا اب ہم اولہ عقلیہ سے بھی شفاعت کی حقیقت اور اس کے جواز پر روشنی ڈالی جاتی ہے تاکہ عقلی اور نقلی طور پر یہ مسئلہ شفاعت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ واللہ الموفق

## اولہ عقلیہ سے شفاعت کا ثبوت

(۱) عالم آخرت دنیا کا نمونہ ہے اور عالم دنیا آخرت کا اور دنیا میں عرف عام یہ ہے کہ بادشاہوں اور اصحاب اقتدار کے مقرب بارگاہ حضرات مجرموں کی سفارش کر کے انہیں چھوڑا لیتے ہیں اور اس کو برا محسوس نہیں کیا جاتا بلکہ ان کا یہ فعل قابل تعریف سمجھا جاتا ہے لہذا قیامت میں مقبولان بارگاہ رب العزت اگر کسی مجرم کی شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی شفاعت قبول فرما کر مجرم کو معاف کر دے تو کونسی بری بات ہے؟ بلکہ یہ اسکی رحمت کے شایان شان ہے۔ ہاں کافر اور مشرک جو کہ کفر و شرک پر دنیا میں مر گیا اسکی قطعاً شفاعت نہ ہوگی اور نہ ہی اسکی شفاعت کی کوئی جرأت کرے گا کیونکہ وہ حکومت الہیہ کا منکر اور باغی ہے اور بغاوت کو معاف نہیں کیا جاسکتا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** مشرک کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔

(۲) کبھی بادشاہ اپنے پیاروں اور عزیزوں کو عزت افزائی کے لیے ان کے واسطے سے کسی کو کچھ دلواتا ہے تاکہ انکی لوگوں میں عزت ہو اور ان کے دلوں میں ان کا احترام و اعزاز ہو۔ اسی طرح مولیٰ کریم اپنے محبوبوں اور پیاروں کی خاطر لوگوں پر رحم و کرم فرمائے گا تاکہ ان کی عزت و وقار ظاہر ہو جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ **بِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ تُمَطَّرُونَ** ان کی وجہ سے تم رزق دیئے جاتے ہو اور انہی کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جاتی ہے۔

(۳) اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق شافی خالق محی ممیت غفار و ہاب ہے مگر احسانات و انعامات میں وسائل اور اسباب کا طریقہ اختیار فرماتا ہے۔ مالداروں کے ذریعہ رزق طیبیوں کے واسطے سے شفاعت فرماتا ہے اسی طرح بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفار و ہاب ہے لیکن اپنے

محبوبوں کے صدقہ اور مقربین بارگاہ کے ذریعہ مجرموں کے بروز قیامت گناہ معاف کرے گا۔ چنانچہ مشکوٰۃ باب ذکر الیمن میں حدیث ہے کہ شام میں چالیس ابدال رہتے ہیں جن کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور اعداء دین پر فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور اہل شام سے عذاب کے ٹل جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

(۳) اگر شفاعت بے معنی ہے تو نماز جنازہ نہ ہونی چاہئے کیونکہ وہ بھی شفاعت ہی ہے

کہ سامنے رکھ کر مسلمان اس کی سفارش کرتے ہیں اور بچے کو اپنا شفیع بناتے ہیں نیز شفاعت بلا اذن بھی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ اس سے بقول منکرین گناہوں پر جرأت پیدا ہوتی ہے اور دینی جذبات کمزور پڑتے ہیں اور صدق و خلوص اور ایثار وغیرہ اوصاف عالیہ اور اخلاق حسنہ کے ناپید ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

(۵) نیز جب کہ وہ مولائے کائنات انتہائی طور پر مہربان ہے اور اس کی رحمت بے

پایاں ہر چیز پر غالب ہے پھر اس نے جب کہ افراط و تفریط کی وجہ سے اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے منع بھی فرمایا ہو اور بے انداز مجرموں کو کسی نہ کسی بہانہ سے معافی بھی دیدی ہو۔ مشہور ہے کہ رحمت حق بہانہ میجوید، اور آئندہ مغفرت اور احسانات کرنے کی امید بھی دلائی ہو تو پھر کسی مجرم کا جب کہ وہ دولت ایمان کے ساتھ دنیا سے مسافر ہوا ہو گو کتنا ہی اس کا جرم ہو اس کی بے انتہا رحمت کے بالمقابل وہ محض لاشی اور عدم کے برابر ہے اگر وہ بحسب وعدہ معاف کر دے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی غیر محدود رحمت کے پیش نظر گناہ کی کچھ حقیقت نہیں بلکہ یہ کرم بخشی اس کی شایان شان ہے۔ حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ جب شفاعت کرنے والے سب کے سب شفاعت کر چکیں گے تو رب تعالیٰ فرمائے گا لو اب ہماری باری آئی تو ایک لپ جو اس کی شان کے لائق ہے بھر کر جہنم سے مجرموں کو نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے ہاں مومن تھے مگر شریعت میں کافر تھے کہ انہوں نے کسی کے روبرو

اپنے مسلمان ہونے کا اقرار ہی نہیں کیا جیسا کہ زمانہ فترت کے لوگ موحدین اور وہ لوگ جن کے دل میں ایمان تھا مگر زبان سے اقرار کا موقع نہ ملا اور ہو سکتا ہے کہ ابوطالب بھی اسی لپ میں داخل ہوں کیونکہ وہ دل سے رسالت کے قائل تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خاطر بظاہر ایمان نہ لائے تاکہ میری اعانت سے کفار آپ کو زیادہ دکھ و ایذا نہ پہنچا سکیں۔

### شفاعت اور خوارج و معتزلہ

ناظرین کرام! شفاعت کا جواز بلکہ اس کا واقع ہونا گذشتہ اوراق میں آیات و احادیث صحیحہ وغیرہ کی روشنی میں روز روشن سے بھی زیادہ ثابت ہو گیا اور یہی اہلسنت والجماعت کثر ہم اللہ سواد ہم کا مذہب صحیح ہے اور عقل و فکر سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے لیکن اسلامی فرقوں سے فرقہ خارجیہ اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

فرقہ خارجیہ وہ گروہ ہے جنہوں نے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق کی خلاف کارکردیاں اور آپ کی سخت مخالفت کی حتیٰ کہ آپ کو دشمن اسلام سمجھ کر آپ سے جنگ کی جس میں کئی ہزار خارجی مارے گئے اور باقیماندہ نے توبہ کی۔

فرقہ معتزلہ وہ گروہ ہے جو اہلسنت سے بعض عقائد و اعمال کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا مثلاً ان کا عقیدہ ہے کہ جو فعل بندہ کرتا ہے اس کا وہ خود خالق ہے جو حکم عقل کے خلاف ہو گو شریعت اس کا حکم دے وہ ناقابل عمل ہے مثلاً قبر کا حساب کتاب۔ وزن اعمال۔ پلصراط۔ کتاب اعمال شفاعت جنت و دوزخ کا اب موجود ہونا وغیرہ ان کے ہاں سب ناقابل تسلیم حقائق ہیں۔

### خوارج اور معتزلہ کے دلائل

(۱) مجرم کی شفاعت اور اس کی عفو ناجائز ہے اور آیات و احادیث و عید یعنی وہ آیات و احادیث جن میں نافرمانوں اور مجرموں کو بدکرداری کا خمیازہ بھگتنے پر زبرد تنبیہ کی گئی ہے مثلاً

جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے پر اسی جحقمے تک دوزخ میں ڈالا جائے گا اور جو کسی کو بلا وجہ قتل کرے تو قاتل ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا وغیرہ مجرموں کو سزا و عذاب دینے پر دلالت کرتی ہیں پیش کرتے ہیں اور عقلی طور پر بھی جرم کی سزا دینا واجب اور ضروری ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً دُوسرے آیت میں مال للظلمين من حميم ولا شفيع يطاع (ترجمہ) اُس دن سے ڈرو جس میں کوئی نفس کسی نفس سے کفایت نہیں کرے گا..... اور ظالموں کے لیے کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ مگر یہ دلیل درست نہیں اور اس سے شفاعت کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔**

اول اس وجہ سے یہ دلیل غلط ہے کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آیت کا مطلب یہ ہو کہ ہر مجرم کو مومن ہو یا کافر سزا دی جائے گی مگر یہ غلط ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے صرف کافر مراد ہونہ مومن اور اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ مراد سب مجرم علی العموم ہیں، مومن ہوں یا کافر تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہو کہ مجرموں کو ہر زمانہ میں عذاب ہوگا مگر یہ درست نہیں ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ ایک خاص زمانہ میں شفاعت کے کسی حق میں قبول نہ ہوگی جیسا کہ وہ زمانہ جس میں کسی کو شفاعت کی اجازت نہ دی جائے گی جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ** اور اگر یہ مان لیں کہ نفی شفاعت کا حکم ہر زمانہ کے لحاظ سے ہے تو یہ تب ہو سکتا ہے جب کہ مراد یہ ہو کہ کسی حالت میں شفاعت قبول نہ ہوگی مگر یہ غلط ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ ایک خاص حالت میں کسی کی شفاعت قبول نہ ہوگی جیسا کہ دربار الہی سے دخول نار کا حکم مجرموں کے لیے قطعی طور پر صادر ہو جائے اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ مراد آیت سے یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ آیات و احادیث جو کہ وعید پر دلالت کرتی ہیں ان سے مراد صرف کفار ہیں اور مومن مجرم ان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان کی تخصیص کفار کے ساتھ اگر نہ کی جائے تو ان میں اور آیات و احادیث میں جو کہ مجرموں کی شفاعت کے درست اور صحیح ہونے کو بیان کرتی

ہیں تعارض اور اختلاف پیدا ہوگا جو کہ قرآن میں ناجائز اور ممنوع ہے۔  
نیز اس طور پر آیات و احادیث کا اختلاف دور کرنا درست نہیں جیسا کہ معتزلہ نے  
کہا ہے کہ آیات و احادیث و اجماع جو کہ مجرم کی شفاعت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں  
ان سے مراد یہ ہے کہ مجرم کے صغیرہ توبہ اور بلا توبہ اور کبائر توبہ کے بعد معاف ہو سکتے ہیں اور  
کبیرہ بلا توبہ معاف نہیں ہوگا اور شفاعت معافی کے لیے نہیں بلکہ زیادتی ثواب کے لیے ہوگی  
اور وجہ نادرست ہونے کی یہ ہے۔ اول یوں کہ توبہ کرنے والا اور صغیرہ جب کہ وہ کبیرہ سے  
پختار ہے قطعی طور پر عذاب کے مستحق نہیں تو عفو اور معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آیات و  
احادیث سے جو شفاعت ثابت ہوتی ہے وہ عذاب سے درگزر کرنے کے لیے ہے نہ کہ زیادتی  
ثواب کے لیے کما-نظہر بالتامل..... اور دوم یوں بھی درست نہیں کہ اگر معتزلہ وغیرہ کی نفی  
شفاعت پر دلیلیں صحیح مان لی جائیں تو شفاعت کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا تو شفاعت کو زیادتی  
ثواب کے لیے تسلیم کرنا محض بے فائدہ اور باطل ہے اور اگر ان میں کسی طرح کی تخصیص کریں  
تو وہ بلا دلیل اور خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں سوم یوں بھی کہ معتزلہ کی دلیلیں عام  
ہیں جو کہ ہر طرح سے شفاعت کی نفی کرتی ہیں اور ہماری دلیلیں خاص ہیں کہ بعض کے لیے  
شفاعت ثابت کرتی ہیں اور بدیہی بات ہے کہ خاص کو عام پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔

## شفاعت اور مولوی اسمعیل صاحب تقویۃ الایمان

تقویت الایمان مؤلفہ مولوی اسمعیل صاحب سے جو کہ درحقیقت کتاب التوحید  
مؤلفہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا ترجمہ ہی ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شفاعت کے قائل نہ  
تھے یعنی پہلے گو قائل تھے لیکن آخر کار شفاعت کے منکر ہو گئے اور نہ ہی کسی طرح کے تصرف  
کے معتقد رہے۔ تقویۃ الایمان کی حسب ذیل عبارات سے یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

(۱) تقویت الایمان ص ۲۲ پر ہے۔ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار  
نہیں (حالانکہ اللہ کا دیا ہوا اختیار تصرف دلائل سے ثابت ہے جیسا کہ گذر چکا ہے)

(۲) اور اسی کے ص ۱۰ پر ہے۔ ”ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہ اپنے تمام کاموں پر اسی کو پکاریں اور کسی سے کیا کام جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہوں سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کو کسی بات میں دین کی ہو یا دنیا کی کسی اور شخص کی ضرورت نہیں گو وہ نبی ہو یا غیر امام ہو یا ولی اور یہ بھی مفہوم ہوا کہ اللہ کے دربار میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا احترام و اعزاز کچھ بھی نہیں۔ (معاذ اللہ) حالانکہ کتاب و سنت میں یہ حکم ہے کہ تم کو اللہ والوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

(۳) اسی کے ص ۱۶ پر ہے۔ ”اس کے دربار میں تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے تو وہ سب رعب میں آ کر بے حواس ہو جاتے ہیں (یہ صراحتہً سخت بے باکی ہے کہ نبی ہو یا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے حکم پاتے وقت وہ بے حواس ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا کیونکہ وہ پھر جب سمجھے ہی نہیں تو تبلیغ کسی بات کی کریں گے۔“

(۴) اور اسی کے صفحہ ۲۲ پر یوں لکھا ہے کہ ”رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔“ (یہ بالکل غلط ہے کیونکہ محبوبان الہی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے)

(۵) اسی کے ص ۱۵ اور ۱۶ پر ہے اور جیسے زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کے لیے ثابت رکھے۔“ (یہ عنوان سراسر بے ادبی اور بیباکی ہے)

(۶) اسی کے ص ۸ پر ہے۔ ”اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے“ (یہ سخت گستاخی ہے کیونکہ بڑی مخلوق

انبیاء کرام علیہم السلام اولیاء کرام ملائکہ عظام ہی ہیں جن کی اللہ نے بڑی شان بنائی  
(ہے)

(۷) اسی کے ص ۳۱ پر ہے ”سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ ﷺ کی تو اس کے  
دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گنوار کے منہ سے اتنی بات کے سنتے ہی مارے  
دہشت کے بے حواس ہو گئے۔“ (یہ کس قدر بے جا جرأت ہے کیونکہ انبیاء کرام  
علیہم السلام سب مخلوق سے قوی و اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ ایک گنوار کی بات سن  
کر بے حواس ہو گئے بڑی سخت گستاخی ہے جو کہ حرام ہے)

بہر حال تقویت الایمان کی ان عبارتوں سے صاف طور پر مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے  
نزدیک انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام و دیگر مقربان خداوندی کی دربار الہی میں کوئی  
عزت نہیں وقار نہیں اختیار اور تصرف نہیں انبیاء قبر و قیامت میں محض عاجز اور بے طاقت ہیں۔  
ان سے ہمارا کوئی مقصود حاصل نہیں ہوتا اور ان کے ذریعہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی اور اللہ کے  
دربار میں وہ سفارش کیا کریں گے۔ وہ تو خود ہی مرعوب اور بے حواس ہو جاتے ہیں۔ ہم کو ان  
سے کوئی واسطہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔

ناظرین کرام! آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ ان خیالات کے ماتحت شفاعت کے جواز  
کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ ثابت ہو گیا کہ مولوی اسماعیل صاحب اور ان کے پیروکار  
شفاعت کے قائل نہیں اور یہ ان کا عقیدہ جمہور اہل اسلام کے بالکل برخلاف ہے بعض کے  
نزدیک یہ تاویل ہے کہ غالباً مولوی اسماعیل نے تشدد اور زبردستی کے طور پر ایسا لکھا ہے اور  
غلطی یہ کی کہ عبارات ایسی تیز اختیار کیں جن سے خلاف ادب کوائف پیدا ہوئے حتیٰ کہ  
مقربان الہی کے اعزاز و احترام میں غیر مہذبانہ الفاظ صادر ہوئے جو کہ ایماندار کی شان سے  
بعید ہے اور طرہ یہ کہ اس پر وہ آیات و احادیث بھی چسپاں کر دیں جو کہ نفی شفاعت پر دلالت  
کرتی تھیں اور انتہائی غلو اور بے جا جسارت سے معنوں میں کیا سے کیا کر دیا حالانکہ آیات و  
احادیث میں اس شفاعت کی نفی ہے جو کہ قہر و جبر اور بطریق دھونس و اضطرار ہونہ کہ اس



شفاعت کی نفی جس کی اجازت ہو یا محبت یا وجاہت کی بنا پر دربار الہی میں التجا کی جائے۔ اسی لیے ہدیۃ المہدی میں ص ۱۹ پر یوں لکھا ہے۔

قال الشوکانی من اصحابنا لاخلاف فی جواز الاستعانة والا ستغائة بالمخلوق فیما یقدر علیہ اماما لا یقدر علیہ الا اللہ فلا یستعان والایستعان فیہ الابہ وهو المراد فی قولہ ایاک نعبد و ایک نستعین و بہذا ظہوان من اصحابنا من زعم ان مطلق الاستعانة والا ستغائة لغير اللہ شرک فقد غلاوتجاوز الحدنعوذ باللہ من الغلووالافراط الخ

ترجمہ: ”علامہ شوکانی جو کہ ہمارے اصحاب سے ہیں نے کہا ہے مخلوق سے مقدمات میں استعانت و استغاثہ جائز ہے ہاں غیر مقدمات میں صرف اللہ ہی سے جائز ہے لہذا غیر مقدمات میں اللہ ہی سے استغاثہ کیا جائے گا اور یہی ایک نستعین سے مراد ہے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے احباب سے جس نے غیر اللہ سے مطلقاً استغاثہ مقدمات ہوں یا غیر مقدمات نا جائز قرار دیا ہے قطعاً اس نے غلو کیا ہے اور حدود شرعیہ سے تجاوز کی ہے اللہ تعالیٰ ایسے غلو اور افراط و تفریط سے پناہ میں رکھے۔“

ہدیۃ المہدی ص ۷۷ پر ہے۔ غیران هذا الشفاعة شفاعة عبدالی مولاه باذانه و رضانه و امره وایمانه لاشفاعة و جاہة وقوة بحيث یكون المشفوع عنده مرعوبا من الشافع او مجبوراً علی قبولها كشفاعة عمائد السلطنة وامراء الملک الی ملوک الدنيا و الكتاب ناطق نبی الشفاعة واثباتها فالمنفیة هی الشفاعة الثانية والمثبتة هی الاولى. (ترجمہ) اور یہ شفاعت مقبولہ وہ ہے جو کہ مولیٰ کی اجازت ضا ارادہ سے مولیٰ سے التجا کی جائے وہ شفاعت نہیں جو کہ مولیٰ سے بزور منوائی جائے اور شفاعت سے مجبور یا مرعوب ہو کر مشفوع مان لے جیسے دنیا میں ارکان دولت منوالیتے ہیں۔ پس کتاب میں دوسری کی نفی ہے اور پہلی کا اثبات۔

اسی کے ص ۴۳ پر ہے: الشفاعة التي ثبت من الشرع هی شفاعة عبد

ضعيف متضرع الى ربه باذنه و رضائه و اشارته و ايمانه و التي نفاها الله تعالى  
في مواضع من كتابه هي الشفاعة الاولى بحيث يصير المشفوع عنده مجبوراً  
على التشفع و مشركوا العرب كانوا يعتقدون هذه الشفاعة لالهتهم حيث قالوا  
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى (ترجمہ) اور وہ  
شفاعت جو کہ شریعت میں جائز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے روبرو اس کی اجازت وغیرہ  
سے التجا کرے اور وہ شفاعت جس میں مشفوع ماننے پر مجبور ہو جائے وہ ناجائز ہے اور مشرکین  
عرب بھی دوسری شفاعت کا یقین رکھتے تھے کہ ہمارے معبودزبردستی چھڑالیں گے۔ جیسے ان کا  
یہ قول کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے دربار میں ہمارے شفیع ہیں اور ہم ان کی محض اس لیے  
عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا دربار خداوندی میں قرب ہو اس پر واضح دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح  
اسی کتاب کے ص ۲۶ پر لکھا ہے۔ شدد بعض اخواننا من المتاخرين في امر الشرك  
وضيق دائرة الاسلام و جعل الامور المكروهة او المحرمة شرکافان کان  
غرضه من هذا الشرك العملي اعني الشرك الاصغرا وسدالد رافع فالله  
يففرله ويعفوعنه والافهو غال و مشدد في الدين وقال الله تعالى "لاتفلوا في  
دينكم" والتشديد في الدين سيماء الخوارج المارقين الناكثين. الخ (ترجمہ)  
ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے معاملہ شرک میں بڑا تشدد اختیار کر رکھا ہے اور دائرہ اسلام کو  
تنگ کر دیا ہے کہ امور مکروہہ یا محرّمہ کو شرک قرار دیا ہے اگر اس کی غرض اس تشدد سے شرک  
اصغریا سدباب کے لیے ہے تو اللہ ان کو معاف کرے ورنہ وہ دین میں سخت غالی اور تشدد فی  
الدين ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین میں غلومت کرو اور تشدد فی الدین ان  
خارجیوں کی علامت ہے جو کہ دین سے خارج اور عہد شکن ہیں۔

خلاصہ یہ کہ متاخرین اہل حدیث سے بعض نے شرک کے مفہوم سمجھنے میں تشدد کیا اور  
دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا یعنی ان کے اس تشدد سے بے تعداد مسلمان مشرک سمجھے گئے اگر ان کی  
غرض اسی تشدد سے سدباب ہے کہ مبادا ایسے اشخاص حقیقی مشرک نہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے

غیر شرک کو شرک کہہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغاف فرما دے ورنہ غلو فی الدین ہے جو کہ ممنوع ہے اور خارجیوں کی علامت ہے۔

اس جگہ حاشیہ پر مرقوم ہے جیسا کہ ابن الوہاب کی کتابوں اور اس کے بیٹے محمد اور اس کے پوتے عبد اللہ بن محمد کی ان کتابوں سے ظاہر ہے جو کہ مکہ معظمہ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں اور ان کتابوں کے اکثر امور میں مولوی اسماعیل نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں تہلیل کی ہے۔ اور اس کتاب میں لکھ کر ان کو ضروری العمل قرار دیا ہے اور فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۱۱۱ پر ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں اور ان کے عقائد عمدہ تھے (اور تقویت الایمان کتاب التوحید کی مظہر اور ایک عکس ہے تو ثابت ہوا کہ تقویت الایمان کے جملہ مسائل وہابیت کے ہیں)

ہدیۃ المہدی ص ۳۷ پر ہے۔ ”وَ اَخْطَا مِنْ اَصْحَابِنَا الشَّيْخُ اِسْمَاعِيْلُ الدَّهْلَوِي حَيْثُ جَعَلَ اَقْسَامَ الشَّرْكَ كَلَهَا غَيْرَ مَغْفُورَةٍ وَاَدْخَلَ فِيهِ الشَّرْكَ فِي الْعَادَةِ اَيْضًا..... وَاَمَّا التَّسْمِيَةُ بِغَلَامٍ عَلِيٍّ وَّ بِغَلَامٍ حَسِيْنٍ وَّ غَلَامٍ مَحْيِ الدِّيْنِ غَلَامٍ مُحَمَّدٍ غَلَامٍ غُوْثٍ وَّ اَمْثَالَهَا فَجَائِزَةٌ بِاَلَا كِرَاهَةٍ وَّمِنْ كَوْمَهَا مِنْ اَصْحَابِنَا اَوْ جَعَلَ هَذَا التَّسْمِيَةَ شَرْكًَا اَكْبَرَ فَقَطْ اَخْطَا.

(ترجمہ) اور ہمارے احباب سے اسماعیل دہلوی نے سخت غلطی اور خطا کی ہے کہ شرک کی جملہ اقسام اکبر ہوں یا اصغر سب کو شرک ناقابل عفو (یعنی شرک اکبر قرار دیا ہے اور شرک فی العادة کو بھی شرک اکبر میں داخل کر دیا ہے۔ بہر صورت کسی کا نام غلام علی، غلام حسین، غلام محی الدین، غلام محمد، غلام غوث اور ان کی امثال سو بلا کراہت جائز ہیں اور ہمارے جن دوستوں نے ان کو مکروہ سمجھا اور اس قسم کے ناموں کو شرک اکبر قرار دیا ہے اس نے سخت خطا کی ہے۔

## ان عبارات سے کیا ثابت ہوا؟

- (۱) اہل حدیث غیر مقلدین سے بعض افراد مثلاً مولوی اسماعیل وغیرہ نے مطلقاً استعانت کو منع کرنے میں غلو اور تجاوز سے کام لیا ہے۔
- (۲) شریعت میں شفاعت بطریق دھونس و رعب ممنوع ہے نہ کہ ہر طرح سے جس نے مطلقاً شفاعت کو منع کیا ہے اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا ہے۔
- (۳) جس شفاعت کے کافر قائل تھے وہ بطریقہ قہر و جبر تھی جو ناجائز ہے۔
- (۴) بعض اہل حدیث نے مثلاً مولوی اسماعیل، عبد الوہاب، عبد اللہ بن محمد وغیرہ بعض مکروہ و حرام چیزوں کو شرک اکبر میں داخل کرتے ہوئے دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا ہے اور بی شمار مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنا دیا ہے اور جس نے تمام اقسام شرک کو شرک اکبر کہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے میں داخل کر دیا ہے۔
- (۵) اور اسلام کو کفر اور حلال کو حرام بنایا ہے اور جائز کو ناجائز کیا ہے اور شریعت پر بہتان باندھا ہے۔
- (۶) شرک اصغر اور امور مکروہ و محرّمہ کو شرک اکبر میں داخل کرنا غلو فی الدین اور سخت خطا اور تجاوز حدود شرعیہ ہے۔
- (۷) غالی و تشدد فی الدین ہونا خارجیوں کی علامت ہے اور خارجی وہ ہوتے.....

## شرک اصغر کو شرک اکبر میں داخل کرنے کا اقرار

ارواحِ ثلاثہ ص ۸۱ پر مصنف ارواحِ ثلاثہ لکھتے ہیں کہ علماء کے اجتماع میں مولوی اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان کے متعلق فرمایا۔ ”کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز لفظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی (یعنی اسلام سے خارج کرنے والا شرک) لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی اگر میں یہاں

رہتا تو ان مضامین کو آٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتا لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے وقت عزم جہاد ہے اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا..... اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔

### مولوی اسماعیل صاحب سے متعلق تحریر سے کیا ثابت ہوا

(۱) تقویۃ الایمان میں تیز لفظ استعمال کیے گئے ہیں (غالباً مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں بے ادبی اور گستاخی ظاہر ہوئی ہے)

(۲) اس میں تشدد اور غلو کا طریقہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ شرک اصغر کو شرک اکبر بنا دیا گیا۔ یعنی شرک اصغر کو بھی کفر اور بے دینی کہا گیا اور بے شمار مسلمانوں کو کافر بنا دیا گیا۔

(۳) تقویت کے مسائل سے ایک مذہبی ہنگامہ اور شورش پیدا ہوگی (جس سے ایک دوسرے کے خلاف کفر شرک کے فتوے صادر ہوں گے)

(۴) تقویت کے مندرجات جمہور اہلسنت والجماعت بلکہ اسلامی اکثریت کے بالکل برخلاف ہیں۔

(۵) تقویت کے مضامین کچھ ایسے پیچیدہ اور مجمل ہیں کہ خود مصنف کو ان کی صفائی میں آٹھ دس سال لگ جاتے۔

(۶) تقویت لکھ کر ایک شورش کا سامان مہیا کرنے کے بعد فوراً چل دیئے۔

(۷) امت مصطفیٰ ﷺ کو مبتلا اور پریشان کرنے کے بعد حج کا اراد کیا گیا۔ سبحان اللہ کتنے ثواب کا کام ہے اور کیسی اچھی تمہید کے بعد ہوا۔

(۸) مواد شورش پیدا کرنے کے بعد حج کا ارادہ اور اس کے بعد عزم جہاد غالباً اس سے یہی جہاد معلوم ہوتا ہے جو کہ اس شورش کو دبانے کے لیے کیا جانا تھا مگر قدرت کو یہ

عزم جہاد کسی وجہ سے منظور نہ ہوا۔

(۹) اس سے معلوم ہوا کہ جو حضرات تقویت الایمان کے موید اور اس کو اصل ایمان و عین اسلام کہتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کا عکس کہتے ہیں۔ یہ بھی سب کے سب غالی اور تشدد فی الدین ہیں۔

(۱۰) اور اوپر معلوم ہوا کہ دین میں غلو و تجاوز کرنا خارجیوں کی علامت ہے۔

### تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

ناظرین حضرات! بہر حال ان عبارات منقولہ سے روز روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ

(۱) مولوی اسماعیل نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں ابن سعود اور اس کے خاندان کی کتابوں کتاب التوحید وغیرہ سے کسی خاص مطلب کے لیے اکثر مسائل لیے اور ان کی اتباع کی ہے۔

(۲) یہ کہ ان کی یہ تقلید جمہور اسلام اور اپنے اسلام بلکہ خود اپنے خلاف کی ہے کہ پہلے یہ عقاید و اعمال مولوی اسماعیل کے نہ تھے۔

(۳) آیات و احادیث نفی شفاعت سے علی الاطلاق شفاعت مراد لے لی حالانکہ مراد یہ بھی کہ بلا اذن و جبر و اکراہ سے شفاعت نہ ہوگی۔

(۴) یہ کہ مولوی صاحب نے انتہائی تشدد آمیز اور تیز عبارات استعمال کی ہیں جس سے بے ادبی اور گستاخی و بیباکی نکلتی ہے اور مقربان بارگاہ صمدیت کی عزت و احترام میں فرق آتا ہے۔

(۵) یہ کہ مولوی صاحب نے اس کتاب میں غلو اور بے راہ روی سے کام لیا ہے جو کہ عقلاً و شرعاً ناجائز ہے۔

(۶) یہ کہ شرک فی العادة تک شرک اکبر میں داخل کر دیا ہے جو کہ شریعت پر بے جا اقدام ہے۔

(۷) روایات و احادیث جن سے شفاعت شرعی کا ثبوت و جواز ملتا ہے ان کو عمداً و ارادۃً ترک کر دیا ہے تاکہ عوام پر راز نہ کھل جائے۔

نتیجہ یہ کہ ثابت ہوا کہ مولوی اسماعیل اور ان کے پیروہم خیال حضرات شفاعت کے قائل نہیں اور ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والے یا تو سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے جب کہ کبیرہ شرک نہ ہو یا ابدی اور دائمی طور پر جہنم میں جائیں گے جب کہ کبیرہ شرک و کفر بلا توبہ ہو۔

### شفاعت اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی

مولوی رشید احمد صاحب اکثر دیوبندیوں کے پیرومرشد اور صاحب القاب کثیرہ ہیں۔ مولوی رشید احمد صاحب کے خیال میں بھی شفاعت درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے کتاب تقویت الایمان مؤلفہ مولوی اسماعیل صاحب کی بڑے شد و مد سے تعریف فرمائی ہے اور اس کے مضامین کو از حد مفید اور ضروری العمل موجب اجر و ثواب اور عین اسلام فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱ حصہ اول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ اور سچی اور موجب قوت و صلاح ایمان کی ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے اس کا مولف ایک مقبول بندہ تھا اور مولانا محمد اسحاق دہلی ولی کامل محدث فقیہ عمدہ مقبولین حق تعالیٰ تھے جو کوئی ان دونوں کو کافر یا بد جانتا ہے وہ خود شیطان ملعون حق تعالیٰ کا ہے۔

فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۲۱ پر یوں رقمطراز ہیں مولوی اسماعیل صاحب عالم متقی اور بدعت کو اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے۔

کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا عین اسلام

ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو برا سمجھتا ہے وہ فاسق اور بدعتی ہے۔

فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۱۲۲ پر یوں ہے۔ بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح میں اگرچہ بعض مسائل میں بظاہر تشدد ہے اور توبہ کرنا بعض مسائل سے محض افتراء اہل بدعت کا ہے اگر کتاب کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مبتدع فاسق ہے۔

ناظرین باتمکین! خط کشیدہ الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندی خیال میں مولوی اسماعیل صاحب بڑے بزرگ عالم متقی مقبول الہی قرآن و سنت کے جاننے والے اعلیٰ درجہ کے مبلغ شرک و بدعت مٹانے والے اور ان کو برا کہنے والا مبتدع فاسق شیطان ملعون اور ان کی کتاب تقویت الایمان ایک عمدہ کتاب ہے۔ قرآن و سنت کا صحیح نقشہ ہے۔ سب کی سب موجب ہدایت اور..... واجب العمل ہے اس کا پڑھنا پڑھانا عین اسلام ہے اور ذریعہ حصول ایمان و ثواب اور اس کا انکار فسق و بدعت ہے اور مصنف نے اس کے کسی مسئلہ سے رجوع نہیں کیا وغیرہ وغیرہ لہذا اب ضروری کہ تقویت الایمان کے جس کے اوصاف ابھی آپ نے سنے ہیں چند اور مندرجات پیش خدمت کیے جاتے ہیں تاکہ تقویت الایمان کی حقیقت زیادہ سے زیادہ واضح ہو جائے ملاحظہ فرمائیے۔

تقویت الایمان کے ص ۶ پر ہے جو شخص نبی کریم ﷺ کو کسی مشکل میں پکارے اور آپ کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھے وہ شخص اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔

اسی میں ص ۸ و ۷ صفحہ پر ہے مدینہ منورہ کو سفر کرتے وقت راستہ میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اسی میں ص ۴۴ پر ہے سب انبیاء اس کے روبرو ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔

اسی میں ص ۳۲ پر ہے۔ انبیاء امام، امام زادہ پیر شہید سب انسان ہیں اور عاجز بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں سوان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنی چاہئے۔ انبیاء اولیاء کی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔

اسی میں ص ۴۶ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔



اسی میں ص ۵ ہے۔ ان باتوں میں سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں اور بے خبر ہیں اور نادان۔

اسی میں ص ۳۵ پر ہے جیسے ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار سوان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔

اسی میں ص ۱۶ پر ہے۔ اس کھشہ شاہ کی تو یہ شان ہے کہ آن میں چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی جن اور فرشتے جبرائیل اور محمد ﷺ کے برابر پیدا کر ڈالے۔

بلغۃ الجبراں مولفہ حسین علی واں پھراں ص ۶ پر ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا خواجہ شمس الدین پانی پتی چنانچہ غلام میگویند شرک و کفر است فتویٰ مولوی مرتضیٰ حسن صاحب ناظم التعليم دیوبند بحوالہ پرچہ اخبار امرتسر ۱۱۴ اکتوبر ۱۹۲۷ء میں ہے۔ ان عقائد باطلہ پر مطلع ہو کر انہیں کافر و مرتد ملعون جہنمی نہ کہنے والا بھی ایسا ہی مرتد و کافر ہے۔

تقویت الایمان ص ۴ پر ہے کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اس کی مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نذر نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفر اور شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سوا بوجہل اور وہ شرک میں برابر ہیں۔

فتاویٰ رشیدیہ حصہ سوم ص ۹۴ پر ہے کسی عرس اور مولود شریف میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی ساعرس اور مولود درست نہیں۔ فقط

فتاویٰ رشیدیہ حصہ دوم ص ۱۳۰ پر ہے۔ جگہ دوزخ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کو کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ۔ ثواب ہوگا نہ عذاب۔ الجواب ثواب ہوگا۔

فقط رشید احمد

ناظرین حضرات! یہ اسی تقویت الایمان سے مسائل ہیں جس کی ابھی مولوی رشید

احمد صاحب کے الفاظ میں صراحہ اور دوسرے علماء دیوبند سے دلالتاً آپ نے تعریف اور صفت و ثنائی ہے۔ آپ پیش کردہ مندرجات اور حوالجات کو بار بار پڑھیں اور غور کریں اور خود ہی ایسی تصنیف اور مصنف کے متعلق رائے قائم کریں کہ آیا یہ اسلام ہے اور صراطِ مستقیم؟ کیا اس وقت ایسے نازک دور میں ایسے مسائل ہی کی ضرورت ہے؟ کیا ایسے خیالات اور اعتقادات سے اپنے اسلاف کو یاد کیا جاتا ہے۔ بہر صورت یہ مشتے نمونہ از خروار کے طور پر ہے جو کہ دیوبندی اکابر کے نظریات و عملیات کا عکس ہے۔ باقی رہے ان کے تتبع اور پیروکار سوان کو ان پر قیاس کیا جاسکتا ہے اور تمام سے مسئلہ شفاعت پر روشنی پڑ سکتی ہے۔

### مسئلہ شفاعت اور جناب ابوالاعلیٰ مودودی

مولوی مودودی صاحب کی صرف ایک دو عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جن سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ شفاعت میں ان کا مسلک کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب تجدید احیاء دین کے ص ۱۱ پر لکھتے ہیں ”انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحد قہار کے خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئیں مگر ابیناء اولیاء شہداء، صالحین، مجاذیب، اقطاب ابدال، علماء۔ مشائخ اور ظلل اللہیوں کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقاید میں اپنی جگہ نکالتی ہی رہیں۔ جاہل دماغوں نے مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف مشرکانہ پوجا پاٹ کی جگہ فاتحہ زیارت نیاز نذر عرس چڑھادے نشان علم تعزیئے اور اسی قسم کے دوسرے مذہبی افعال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی۔ دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولادت و وفات ظہور و غیاب کرامات خوارق اختیار تصرفات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقربات کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھالوجی تیار ہو گئی جو بت پرست مشرکین کو میتھالوجی سے ہر طرح لگاؤ رکھا سکتی ہے۔ تیسری طرف تو سل اور استمداد روحانی اور اکتساب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو گئے۔ فرق

صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں اہلکار علانیہ الہ دیوتا اور تاریا ابن اللہ کہلاتے ہیں۔ یہ انہیں غوث قطب ابدال اولیاء اہل اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں۔ مولوی موددی صاحب نے ان عبارات میں حسب ذیل امور پیش فرمائے ہیں۔

(۱) جاہل دماغوں نے انبیاء اولیاء شہدا مجازیب اقطاب ابدال علماء مشائخ ظل اللہیوں کو خدا بنا رکھا ہے یعنی ان کے ارشادات کی تعمیل اور ان کی فرمانبرداری گویا ان کو خدا بنانا ہے۔

(۲) ان اللہ کے بندوں کو ماننے والے اور اپنا پیشوا سمجھنے والے جاہلانہ دماغ رکھتے ہیں یعنی ان کو جاہل تو تسلیم کر سکتا ہے مگر عقلمند آدمی ان کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔

(۳) مشرکانہ پوجا پاٹ کی صورت اور فاتحہ مروجہ زیارات نذرو نیاز عرس اور بزرگان وغیرہ کی ایک ہی صورت ہے دونوں میں فرق نہیں یعنی جیسے مشرکانہ پوجا پاٹ اور اس کی صورت قبیح اور گناہ ہے اسی طرح فاتحہ مروجہ عرس بزرگان دین زیارت وغیرہ بھی کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور شرعاً حرام ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں خیال فرمائیے کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ اور صورت لگ الگ۔

(۴) فاتحہ زیارات وغیرہ ایک نئی شریعت ہے جس کو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔

(۵) بزرگوں کی ولادت و وفات ظہور و عیاب خوارق و کرامات اختیارات تصورات وغیرہ کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں صرف ایجاد بندہ ہے بلکہ یہ ایک میتھالوجی ہے جو کہ مشرکین کی میتھالوجی سے ہم شکل اور برابر ہے۔

(۶) توسل و استمداد روحانی اور اکتساب فیض کے خوشنما پردوں میں وہ تعلق اور رابطہ جو کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہئے تھا وہ بندوں کے ساتھ قائم کر دیا گیا یعنی بندوں کے توسل و استمداد و اکتساب فیض وغیرہ ناجائز اور غیر صحیح ہے۔

(۷) بت پرست مشرکین جس چیز کو الہ دیوتا اوتاد ابن اللہ کہتے ہیں یہ مسلمان اس چیز کا نام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اہل اللہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں یعنی حقیقت میں ایک ہی چیز ہے نام دو ہیں جو دیوتا ہے وہی غوث ہے جو الہ ہے وہی قطب وغیرہ ہے۔ ناظرین حضرات! آپ ان عبارات مذکورہ صدر کے مضمون سے مطلع ہو کر اس نتیجہ پر حتمی طور پر پہنچ گئے ہوں گے کہ جب مودودی صاحب کے خیال میں بزرگان دین اور مقربان بارگاہِ صمدیت کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر اور معبودات باطلہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں تو دربار الہی میں انکی شاعت و سفارش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ بقول مودودی صاحب بتوں کی طرح ان کی ذات تو خود خطرہ میں ہے۔

اسی کتاب کے صفحہ ۷۹ پر ہے مغربی جاہلیت کے مقابل میں اسلامی تجدید کی اس تحریک کو جو ناکامی ہوئی ہے اس سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تجدید دین کے لیے صرف علومِ دینیہ کا حیا اور اتباعِ شریعت کی روح کو تازہ کر دینا ہی کافی نہیں بلکہ ایک جامع اور ہمہ گیر اسلامی تحریک کی ضرورت ہے جو تمام علوم و افکار تمام فنون و صناعات اور تمام شعبہ ہائے زندگی پر اپنا اثر پھیلا دے اور تمام روحانی فرقوں سے اسلام کی خدمت لے اور دوسرا سبق جو اسی سے قریب المآخذ ہے یہ ہے کہ اب تجدید کا کام نئی اجتہادی قوت کا طالب ہے۔ محض وہ اجتہادی بصیرت جو شاہ ولی اللہ صاب یا ان سے پہلے مجتہدین و مجددین کے کارناموں میں پائی جاتی ہے اس وقت کے کام سے عہدہ برا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جاہلیتِ جدیدہ بی شمار نئے وسائل کے ساتھ آئی ہے اور اس کے بے حساب نئے مسائل زندگی پیدا کر دیئے ہیں جن کا وہم تک شاہ صاحب اور دوسرے قداماء کے ذہن میں نہ گذرا تھا۔ لہذا کتاب اللہ و سنت رسول ہی وہ تنہا مآخذ ہے جس سے اس دور میں تجدید ملت کام کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے اور اس رہنمائی کو اخذ کر کے اس وقت کے حالات میں شاہراہ عمل تعمیر کرنے کے لیے ایسی مستقل قوت اجتہاد یہ درکار ہے جسے مجتہدین سلف میں سے کسی ایک کے علوم اور مہناج کی پابندی نہ ہو مگر استفادہ ہر ایک سے کرے اور پرہیز کسی سے بھی نہ کرے۔

قارئین حضرات! اس عبارت مندرجہ بالا سے حسب ذیل امور ظاہر ہوئے ہیں۔

(۱) مغربی جاہلیت یا مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے اور غلبہ اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ علوم دینیہ کا احیاء و ترویج اور اتباع شریعت کی روح کو تازہ کر دیا جائے بلکہ ایک جامع و کلی اور ہمہ گیر اسلامی تحریک کی ضرورت ہے جو کہ زندگی کے ظاہری باطنی عملی و نظری شعبوں پر اثر انداز ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ علوم دینیہ اور شریعت مطہرہ چونکہ جزوی طور پر حصول ترقی و غلبہ کے ضروریات پر اثر انداز ہے یعنی پاک ناپاک حلال و حرام و حقوق العباد و حقوق اللہ عدل و انصاف وغیرہ پر لہذا یہ عام اور کلی غلبہ کا موجب نہیں بن سکتی حالانکہ موردی صاحب کا یہ کہنا درست نہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت جملہ اقوام عالم کی طرف تا قیامت ہوئی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. (ترجمہ) تاکہ وہ سب جہانوں کو ڈرائیں۔ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا. بلاشبہ میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ اور موجودہ افراد کے علاوہ باقی تمام افراد کے لیے جو کہ ابھی تک موجود نہیں ہوئے نبی بنا کر بھیجا۔ فَبَايَ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ یعنی قرآن کے بعد کوئی بات پر ایمان لائیں گے۔ فَبَايَ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰتَاہُ يَوْمِنُوْنَ. یعنی اللہ اور اس کے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں جس پر ایمان لانے کو کہا جائے وَلٰكِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّۦۙنَ. لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے یعنی آپ کے احکام تا قیامت ہیں الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنَا اَجْزَاؤُكُمْ فِيْ دِيْنِكُمْ لِيْذَكَّرْتُمْ بِاَنَّكُمْ كُنْتُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَسْرَفْتُمْ فِي الْكَلِمَاتِ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ۔ لیکن تم نے تمہارے لیے بحیثیت دین پسند کیا۔

تو جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت جملہ اقوام عالم کے لیے تا قیامت ہے اور قرآن مجید تا قیامت ضابطہ حیات کائنات ہے۔ اور آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کلی طور پر اور ضابطہ کی صورت میں ان تمام جزئیات اور امکانی استعدادات پر مشتمل ہے جو کہ دائمی طور پر ظاہری اور باطنی غلبہ کی تحصیل میں از بس

ضروری ہوں عملی افراط و تفریط کی وجہ سے بہتر نتیجہ برآمد نہ ہوتا اور بات ہے۔ ”لہذا مودودی صاحب کا بلکہ ایک جامع اور ہمہ گیر الخ“ کہنا جس سے اس مزعومی تحریک اسلامی کا علوم دینیہ اور شریعت کے مفہوم سے ایک الگ مفہوم کے ساتھ اسے زیادہ موثر ظاہر کیا گیا ہے درست نہیں نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس تحریک کا محرک علوم شرعیہ اور شریعت کے نافذ کرنے والے تمام علماء فقہاء سے زیادہ قابلیت کا مالک ہوگا اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتا کما ہوا بظاہر۔

بہر صورت علوم دینیہ اور شریعت مطہرہ کا پورا پورا اتباع اور اس کے ضوابط کلیہ اور قوانین عالیہ کی روشنی میں اگر جزوی ہنگامی ملکی ملی شرعی سیاسی امور متعلقہ کا استخراج کیا جائے تو آج بھی اسلام کا کلی غلبہ متصور ہو سکتا ہے مگر اگر نیت میں فساد ہو تو ہمارا اپنا قصور ہے۔

ذرا اور تفصیل سے سماعت فرمائیں کہ بقول مودودی صاحب موجودہ دور کی ترقی اور اس جاہلیت کے اسباب و علل کے متعلق یہ خیال کہ ان کا ائمہ سلف کو وہم تک نہ تھا صحیح نہیں کیونکہ اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس کے قوانین تا قیامت ایک عمومی حیثیت رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلام میں وہ تمام اسباب و علل گو کسی رنگ میں ہوں بیان کر دیئے جائیں جن کا تعلق قومی حیات و مہمات سے وابستہ ہو چنانچہ قرآن و حدیث میں بطور قوانین کلیہ اور بعض احکام کی جزوی طور پر تشریح کر دی گئی جن کا انسانی فوائد و مضرات سے تعلق تھا حدیث میں بے اعتدالی کرنے والے بعض افراد تک کی تعین کر دی گئی اور ائمہ سلف نے بھی اپنی روحانی قوت اور اپنے کشف و الہام و علم لدنی وغیرہ سے نشاندہی کی جیسے شاہ ولی نعمت اللہ صاحب قدس سرہ اور شیخ اکبر وغیرہ کی عبارات سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ ائمہ سلف کے وہم میں بھی یہ بات نہ تھی بے معنی بات ہے اسی طرح یہ تسلیم کر لینا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بصیرت ہر طرح کی جاہلیت کے تاثرات سے واقف تھی کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہر دور میں جاہلیت کے تاثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ہدایات فرمائیں۔ اور اس سے احتراز بچاؤ ضروری قرار دیا اور ظاہر ہے کہ آپ کے ارشاد و ملفوظات امت کے پاس پہنچے تو ان کی

روشنی میں جیسے ہر دور کے مجددین اور ائمہ سلف نے اپنا بچاؤ اور اعداء دین کی مدافعت کی۔ اسی طرح آج بھی ترقی اور بچاؤ کے اسباب و علل پر اطلاع ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے مستقل اجتہادی قوت کا موجود ہونا جو کہ ہر وجہ سے طرز سلف سے اجنبی ہو کسی طرح بھی ضروری ہونا باور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ آج تجدید ملت کا کام مستقل قوت اجتہاد یہ پر موقوف ہے انتہائی زیادتی ہے کیونکہ اگر مستقل سے مراد مجتہد مطلق ہے جیسا کہ باتفاق امت ائمہ اربعہ مستقل قوت اجتہاد یہ کے مالک تھے تو یہ معنی مراد لینا درست نہیں کیونکہ اول تو یہ مرتبہ باتفاق سلف قریباً ختم ہو چکا ہے دوسرا یہ کہ یہ شرط اختراعی اور از قبیلہ ایجاد بندہ معلوم ہوتی ہے ورنہ ائمہ اربعہ کے بعد دیگر مجددین کے لیے بھی یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ استفادہ بلا پرہیز سب سے ہو سکتا ہے کیونکہ ائمہ مجتہدین اور سابقہ مجددین کے علوم سے گو وہ قرآن و سنت سے ہی ماخوذ کیوں نہ ہوں جب بالکل بے نیازی ہو گئی اور وہ کلیۃً تجدید ملت میں کارآمد ہو ہی نہیں سکتے تو پھر ان سے استفادہ ایک بے معنی بات ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں ہر دور میں تجدید ملت کا علاج موجود ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ قرآن و حدیث میں ایک کلی صورت میں علاج امراض مندرج ہے تو جن قواعد مستخرجہ کی روشنی میں ہر دور میں علاج ہوتا رہا ان کی روشنی میں آج بھی تجدید ملت کا کام ہو سکتا ہے لہذا کہنا کہ سابقہ اجتہادی قوانین آج کافی نہیں اور نئی جاہلیت کی مدافعت کے لیے نئی قوت مستقلہ اجتہادیہ کی ضرورت ہے بالکل لغو بات ہے۔ بہر صورت جناب مودودی صاحب اور ائمہ مجتہدین اور مجددین ملت کی قوت نظریہ و عملیہ اور ان کے تصرفات کے قائل ہی نہیں اور مقربان بارگاہ صمدیت اغیاث اقطاب اوتاد مشائخ اوتاد وغیرہ کو جاہلیت اولیٰ کے معبودات باطلہ کی طرح سمجھتے ہیں تو بارگاہ الہی میں ان کی سفارش اور شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ناظرین حضرات! یہ ہے جماعت اسلامی اور صالحین کی جماعت کی نظریاتی حد بندی اور اس کا مسئلہ شفاعت سے متعلق عقیدہ جس پر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ صرف

جماعت اسلامی کے تعارفی سلسلہ میں ایک بات سنتے جائیے اور وہ مندرجہ ذیل ہے۔

## جماعت اسلامی کا ابتدائی تصور

حقیقت معراج ص ۵ شائع کردہ دیوبند اور تنبیہات ص ۹

کتنا خوش آئند ہے وہ عنون جس کو جماعت اسلامی نے اپنے نصب العین کی حیثیت سے پیش کیا ہے یعنی دعوت ایمان باللہ نفاق و تضاد سے حیات مومن کو پاک کرنا اور زمام اقتدار کو فساق اور فجار سے لیکر مومنین صالحین کے ہاتھوں دے دینا۔

حاشیہ مکتوبات شیخ الاسلام ص ۳۰۷ پر ہے: مودودی تحریک جماعت اسلامی کے نام سے ہند اور پاکستان میں چلائی جا رہی ہے دیوبند، سہارنپور، دہلی، پھلواری شریف، خانقاہ امدادیہ (تھانہ بھون، اعظم گڑھ، لکھنؤ، جونپور مٹو خانقاہ رحمانیہ (مونگیر) سورت، ڈھانٹیل، بمبئی، کانپور، بنارس، داڑہ شاہ اجمل، الہ آباد وغیرہ کے مفتی صاحبان اور معمر علماء کی اکثریت اس جماعت کو مسلمانوں کے لیے مضر سمجھتی ہے اور جمعیت علماء تبلیغی جماعت احرار، مسلم لیگ اور الہدیت جماعتی حیثیت سے تحریک کے اندر مذہبی و سیاسی گمراہیاں پا کر مسلمانوں کو مشورہ دیتی ہے کہ مسلمان اس جماعت سے کنارہ کش رہیں۔ دین کی سلامتی اسی میں ہے۔

ایسے متعدد اقوال علماء پیش کیے جاسکتے ہیں جن میں جماعت اسلامی سے پرہیز و احتراز ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ صرف حضرات ابدال اقطاب وغیرہ کے وجود پر جن کی حیثیت کا مودودی صاحب نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا ہے بلکہ ان کے بارے میں ناقابل تعریف الفاظ تحریر کیے ہیں جن سے سراسر ان کی شان میں گستاخی اور بیباکی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض احادیث سرور کائنات ﷺ جو کہ ان کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے صفحہ قلب پر نوٹ کرانا چاہتے ہیں۔

حدیث اول: عن عبادة الصامت قال قال رسول اللہ ﷺ الابدال فی

امتی لثون بہم تقوم الارض و بہم تمطرون و بہم تنصرون رواہ الطبرانی



ورواه الحكيم باختلاف يسير. (ترجمہ) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ابدال ہیں کہ انہیں سے زمین قائم ہے انہیں کی وجہ سے بارش اترتی ہے انہیں کے سبب تمہیں مدد ملتی ہے اس کو طبرانی نے کبیر میں بسند صحیح روایت کیا ہے۔

حدیث دوم: عن محمد بن عجلان قال قال رسول اللہ ﷺ فی کل قرن من امتی سابقون وهم البدلاء الصدیقون بهم یسقون وبهم یرزقون وبهم تدفع البلاء عن اهل الارض راہ الحکیم فی النوادر. (ترجمہ) محمد بن عجلان سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم ﷺ نے کہ میری امت کے ہر قرن میں سابق (نیک کاموں میں سبقت لینے والے) لوگ ہیں وہی صدیق ہیں ان کے ذریعہ بارش اور روزی اور انہیں کی وجہ سے زمین والوں سے بلا دفع کی جاتی ہے۔

حدیث سوم: عن مکحول عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہم قال ان الانبیاء کانوا اوتاد الارض فلما انقطعت النبوة ابدال اللہ مکانہم قوما من امة محمد صلی اللہ علیہ والہ وصحابہ وسلم.

(ترجمہ) حضرت مکحول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم سے راوی فرمایا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اوتاد ارض تھے۔ جب نبوۃ کا سلسلہ ختم ہوا تو امت محمد مصطفیٰ ﷺ سے ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے مقرر فرما دیا جن کو ابدال کہتے ہیں۔

حدیث نمبر ۴: عن یزید بن ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الابدال هم اهل العلم و قال احمد ان لم یكونوا اصحابہ الحدیث فمن ہم کذا فی المواجب. (ترجمہ) یزید بن ہارون فرماتے ہیں ابدال اہل علم ہیں اور امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اصحاب حدیث نہیں ہیں تو اور وہ کون ہیں۔ اسی طرح مواہب اللدنیہ میں ہے۔

حدیث نمبر ۵: عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول

اللہ ﷺ الابدال فی اهل الشام بهم ينصرون وبهم يرزقون رواه الطبرانی.  
(ترجمہ) عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم ﷺ نے ابدال  
اہل شام میں ہیں انہیں کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ اس کو طبرانی  
نے روایت کیا ہے۔

حدیث نمبر ۶: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول  
اللہ ﷺ قال بدلاء امتی اربعون رجلاً اثنان و عشرون بالشام و ثمانية عشر  
بالعراق كلمامات منهم واحد ابدال الله مكانه آخر فاذا جاء الامر قبضوا رواه  
روض الرياحين فی حکایت الصالحين عن جماعة عن الائمة ورواه الحكيم فی  
النوادر موقوفاً ورواه ابن عدی فی الكامل. (ترجمہ) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے  
روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم ﷺ نے کہ میری امت میں چالیس آدمی ابدال ہیں بائیس  
شام میں اور اٹھارہ عراق میں جب ان سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ  
دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو روض الرياحين فی حکایات الصالحين ص ۸ اور ائمہ  
کی ایک جماعت نے اور روایت کیا اس کو حکم ترمذی نے نوادر الوصول میں ص ۶۹ بطریق  
موقوف اور روایت کیا اس کو ابن عدی نے۔

حدیث نمبر ۷: عن الکتانی قال النقباء لثمانية والنجباء سبعون والبذاء  
اربعون والاخيار سبعة والعمد اربعة والفوٹ واحد فمسكن النقباء المغرب  
مسكن النجباء مصر مسكن الابدال الشام والاخيار سیاحون فی الارض  
والعمد فی ذوايا الارض و مسكن الفوٹ مكة فاذا عرضت الحاجة من  
امر العامة ابتهل فیها انقباء ثم النجباء ثم الابدال ثم الاخيار ثم العمدان  
اجیبوا والا ابتهل الفوٹ فلا يتم مسئلته الاتجاب دعوته رواه الخطيب فی تاریخ  
بغداد کذا فی المواهب.

(ترجمہ) محدث کتانی روایت کرتے ہیں کہ نقباء ثمن سو ہیں اور نجباء چھ اور ابدال چالیس اور  
اخیار سات اوتاد چار اور غوث ایک ہے اور نقباء کا مسکن مغرب نجباء کا مصر، ابدال کا شام ہے اور  
اخیار زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور اوتاد جہات اربعہ میں اور مسکن غوث مکہ مکرمہ ہے  
اور جب امر عامہ سے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو نقباء خلوص دل سے دعا کرتے ہیں۔ پھر نجباء  
پھر ابدال، پھر اخیار، پھر اوتاد اگر قبول ہو جائے تو فیہا ورنہ غوث دعا مانگتے ہیں حتیٰ کہ ان کی دعا  
قبول کی جاتی ہے۔ روایت کیا اس کو خطیب نے تاریخ بغداد میں اسی طرح مواہب اللدنیہ  
ج ۱ ص ۲۳ میں ہے۔ نیز زرقانی ص ۳۰۰ ج ۵ میں ہے۔

حضرات یہ ہیں ابدال اقطاب اوتاد وغیرہ جن کو حدیث اور محققین علماء نے بیان  
فرمایا ہے جن سے ان کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے اور ان کے مقامات اور ان کے تصرفات کی  
نشاندہی ملتی ہے مگر مودودی صاحب ہیں کہ ایک جنبش قلم سے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اللہ  
اعلیٰ ہدایت فرمائے اور ادب بخشنے۔ (آمین)

## مسئلہ شفاعت اور خاکساری جماعت

ناظرین باتمکین! خاکساری جماعت جس کی بنیاد علامہ عنایت اللہ صاحب نے رکھی تھی وہ ہر مرحلہ پر بزم خود اسلام کی خیر خواہ بن کر میدان عمل میں اتر آتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اسلام کی خدمت جس انداز پر ہم کر رہے ہیں وہی حقیقت اسلام ہے اور باقی تمام مسلمان حقیقت میں مسلمان نہیں۔ چند حوالجات حسب ذیل ہیں جن سے اس جماعت کی حقیقت اور اس کا شفاعت سے متعلق عقیدہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔

○ علامہ صاحب لکھتے ہیں۔ قرآن مجید حدیث سے مستغنی ہے۔ تذکرہ اردو ص ۳۶ و ۳۷۔

○ علوم خادمہ قرآن سے قرآن کے ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں اور مروجین علوم خدا ہو گئے ہیں۔ تذکرہ اردو ص ۴۵۔

○ اور بوجہ اختلاف قرآن کے مسلمان سو فیصدی منکر ہیں۔ تذکرہ اردو ص ۴۵۔

○ فقہ حدیث تفسیر وغیرہ سے قرآن کی تحریف کی گئی ہے۔ تذکرہ اردو ص ۳۳۔

○ حدیث دو سو سال کے بعد..... پیرحم اور ناقد رشناس امت عرب کے خدا کو چھوڑ

پرستش رسول میں مصروف ہو گئی الاصلاح مورخہ ۲۹ مارچ ص ۳۵ کالم ۸۔

○ آپ کو امت نے اپنے اقوال و افعال میں بت بنایا حالانکہ وہ محض قاصد تھے۔

تذکرہ اردو ص ۹ دیباچہ

○ معجزات بالنظر الی الظاہر تماشہ گردی ہے۔ تذکرہ اردو مقدمہ ص ۸۵۔

○ موجودہ یا گذشتہ قائد سب دوزخی ہیں۔ ص ۶۱

○ سب مطیع و مطاع جہنمی ہیں۔ ص ۳۵

○ حنفی، مالکی، شافعی، کہلانے والے سب مشرک ہیں۔ الاصلاح ۱۵ اپریل کالم ۲ ص ۵  
علامہ صاحب لکھتے ہیں: شیعہ، سنی مقلد غیر مقلد وغیرہ سب جہنم کی تیاری  
ہے۔ اردو دیباچہ ص ۶۰

○ بت پرست اور ہزاروں خداوندوں کو پوجنے والے موحد اور عابد خدا ہیں۔ تذکرہ  
اردو دیباچہ ص ۹۹

○ بت پرستوں کو مشرک کہنا اندھا پن ہے۔ الاصلاح ۲۹ مارچ ص ۲ کالم ۳ ص ۱۵  
○ قیامت کے حالات بے سند قصے ہیں۔ قبر کا عذاب مظنون ہے توبہ استغفار طہارت  
وغیرہ کے بناؤنی اصل ہیں۔ مقدمہ اردو ص ۶۰

○ مردار سور کا گوشت اور حرام شے کا تناول صرف مضر صحت ہے روحانیت پر غیر موثر  
ہے۔ تذکرہ اردو ص ۲۱۷

○ ایمان قول محض غلط ہے۔ تذکرہ عربی ص ۱۱

○ آپ ﷺ حیات النبی نہیں ہیں۔ تذکرہ اردو ص ۷۵

ناظرین حضرات! خاکساری جماعت کے یہ اعتقادات اور نظریات ہیں جن کے  
پیش نظر شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ شفاعت تو قیامت کے اقرار اور بعض  
حضرات کے بارگاہِ الہی میں مقبول و منظور ہونے کی بنا پر ثابت ہو سکتی ہے اور جب یہ سب کچھ  
ہی ختم تو شفاعت کیسے اور کس سے اور کس کے لیے؟

### شفاعت پر اعتراضات و جوابات

سوال ۱: متعدد آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کسی کی شفاعت  
نہیں چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابتدائی تبلیغ ہی میں اپنی لخت جگر خاتون  
جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرما دیا کہ بیٹی عمل کیے جاؤ میں تم سے اللہ تعالیٰ کے  
عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ پس جب آپ نے ہی اپنی بیٹی کو یہ فرما دیا تو شفاعت

ختم ہوگئی۔

جواب: ایسی آیات و احادیث جن سے شفاعت کی نفی معلوم ہوتی ہے ان میں کفارناہنجار مراد ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ تو تمہاری شفاعت نہ ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مقامات پر حرف الا کہہ کر استثناء کر دیا ہے یعنی اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی اور بتا دیا کہ عدم شفاعت صرف عدم ایمان کی صورت میں ہے۔

سوال ۲: اگر پیغمبروں اور مقربوں کی سفارش کی وجہ سے خدا جنت دیدے تو اس کا طرفدار ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جو کہ عدل و انصاف کے بالکل خلاف ہے۔

جواب: اللہ تعالیٰ کی نعمت بعض کو بعض کے ذریعہ پہنچی ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا طرفدار ہے ظاہر ہے کہ اچھوں کی طرفداری کرنا یک امر مستحسن ہے اور قابل تعریف دیکھو سورج کے ذریعہ روشنی اور مالدار کے واسطے بھیک ملتی ہے۔ اسی طرح کسی کے ذریعہ جنت مل سکتی ہے۔

سوال ۳: کفار مکہ اپنے بتوں کو اپنا شفیع مانتے تھے اور قرآن نے اس عقیدہ کو کفر قرار دیا ہے۔ بہت سی آیات اس پر شاہد عدل ہیں پس مسلمان پیغمبروں ولیوں وغیرہ کو شفیع مان کر کافر ہو رہے ہیں۔

جواب: کفار غیر ماذون کو بلکہ اعداء اللہ کو شفیع مان کر کافر ہوئے یعنی بتوں کو اور مسلمان ان محبوبوں کو شفیع مانتے ہیں جن کو رب نے شفیع بنایا ہے نیز کافر دھونس کی شفاعت مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ رب تعالیٰ کو بتوں کی شفاعت مجبوراً ماننی پڑے گی کیونکہ وہ اس کی خدائی میں دخیل ہیں لہذا وہ کافر تھے اور مسلمان مقبولان الہی کی شفاعت بالاذن شفاعت بالعزت شفاعت بالوجاہت عطائی مانتے ہیں نیز کافر بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے کافر ہوئے۔ ان میں مانعہم الالیقرب ہونا۔ (ترجمہ) ہم ان کی عبادت محض حصول ثواب کے لیے کرتے ہیں اور مسلمان کسی

Click

غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔

سوال ۴: شفاعت کے عقیدہ سے مسلمان بد عمل بن جائیں گے کیونکہ شفاعت پر اعتماد کر کے عمل سے غفلت کریں گے۔

جواب: یہ اعتراض ایسا ہے جیسا کہ آریہ کرتے ہیں کہ توبہ سے بندہ بد عمل ہو جاتا ہے موت! شفاعت سے امید بڑھے گی۔ اور اللہ سے اشتیاق عمل اور زیادہ ہوگا۔

سوال ۵: ہم بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور ان پر دود پڑھتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رفع درجات کی شفاعت کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے سفارشی اور ہم آپ کے سفارشی۔ فانقلب المقصود۔

جواب: دونوں دعاؤں میں بڑا فرق ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے ہمارے بیڑے پار ہوں گے اور ان کی دعا کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا اور ہماری دعا ان سے بھیک مانگنے کے لیے ہے جیسا کہ سخی کو دعائیں دے کر بھیک مانگی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر رحمتیں بھیج رہے ہیں تم بھی ان کے لیے دعا کیا کرو یعنی تمہاری دعا پر رحمت الہی موقوف نہیں پہلی قسم کی دعا شفاعت ہے اور دوسری بھیک مانگنا ہے لہذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے شفیع ہیں اور ہم ان کے بھکاری۔

سوال ۶: شفاعت ایک حیلہ کے طور پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے ایک حیلہ بناتا ہے یعنی کسی کو الہام کر دیتا ہے تاکہ وہ سفارش کرے۔

جواب: یہ شفاعت باوجاہت شفاعت بالجہۃ شفاعت بالاذن ہر طرح کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کے لیے وجاہت وغیرہ سب ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ (ترجمہ) عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کے لیے ہے۔ "موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا:

وكان عند الله وَجِيهًا. (ترجمہ) ”حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے باوجاہت ہیں“ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام وَجِيهًا لِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (ترجمہ) حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا و آخرت میں وجیہہ تھے۔ قرآن مجید میں ہے۔ يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ..... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں..... اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وَهَذَا الْجَبَلُ يَحْبُنَا وَنَحْبُهُ (ترجمہ) اور یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے نیز وہ اپنے پیاروں کی بات مانتا ہے اور ناز برداری کرتا ہے..... حدیث میں ہے کہ میری امت کے بہت سے پریشان اور پراگندہ حال ایسے ہوں گے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے یعنی اگر وہ قسم کھالیں کہ فلاں کو جنت میں لیجاؤں گا تو خدا تعالیٰ ضرور جنت میں بھیج دیتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے اور جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا إِنَّ هُوَ إِلَّا فَتْنِكَ یعنی اے اللہ یہ کام محض تیرا ہی فتنہ ہے۔“ یہ ناز برداری کے طور پر کہا۔

### شفاعت بالاذن کا معنی

شفاعت بالاذن کا معنی یہ نہیں کہ ہر مجرم کے لیے اذن سفارش حاصل کیا جائے یا اللہ تعالیٰ خود بخشا چاہے اور بہانہ کے طور پر جناب مصطفیٰ ﷺ کو اشارہ فرمائے بلکہ معنی یہ ہے کہ کسی کو دربار الہی میں بغیر اجازت بولنے کی جرأت اور اجازت نہ ہوگی۔ معزز حضرات کو عام اجازت ہوگی کہ وہ جس مسلمان کی چاہیں سفارش کریں اور بخشالیں اور جس کو عذاب دینا مقصود ہوگا اس کی طرف جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا خیال ہی نہ جائے گا۔ یہ سب باتیں تعالیٰ کی عطا سے ہیں نہ کہ دھونس سے۔



## مسئلہ شفاعت اور تبلیغی جماعت

ناظرین کرام! سرزمین پاک و ہند میں ایک جماعت تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ بظاہر یہ جماعت تبلیغ اسلام اور دینی نشر و اشاعت کے لیے بہترین جماعت معلوم ہوتی ہے۔ سفر حضر میں ان کا خلوص و ایثار پر کیف دکھائی دیتا ہے ان کا قول و فعل عبادت ہی دکھائی دیتا ہے جس سے عوام پر کیا خواص پر بھی ان کے زہد و خلوص کا اثر پڑتا ہے اور ان کا طرز عمل مثالی شکل بن کر ایک خاص تاثر پیدا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نظریہ بھی شفاعت سے متعلق پیش کر دیا جائے۔ مگر قبل اس کے کہ ہم اس مسئلہ سے متعلق ان کے نظریہ کو پیش کریں چاہتے ہیں کہ اس جماعت کے بانی سے روشناس کرا دیا جائے کیونکہ جماعت کے قول و فعل سے جماعت کے افراد ضرور متاثر ہوتے ہیں جیسا کہ دیوبندی جماعت کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے کہا ہے۔

محترما! جب کوئی تحریک کسی شخص کی طرف منسوب ہوگی تو وہ قبلہ توجہ ہوگا اور اس شخص کے عقائد و اخلاق کا اثر ممبروں پر قطعی طور پر پڑے گا۔

## تبلیغی جماعت کے بانی کا تعارف

تبلیغی جماعت کے بانی مولوی محمد الیاس اختر ہیں جو کہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی کے شاگرد رشید ہیں۔ مولوی الیاس کی نانی صاحبہ آپ پر بہت شفیق تھیں فرمایا کرتی تھیں کہ اختر! مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے کبھی پیٹھ پر شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتیں کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔

(دینی دعوت ص ۴۲)

مولوی الیاس صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کنتم خیرامة. الایة کی تفسیر خواب میں یہ القا ہوئی کہ تم مثل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر ہو گے۔

(ملفوظات ص ۵۱)

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

آپ فرماتے ہیں اگر حق تعالیٰ کسی کام کو لینا نہیں چاہتے تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کریں تب بھی ذرہ نہیں مل سکتا اور اگر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے۔ (مکاتیب الیاس ص ۱۰۷ و ۱۰۸)

ثابت ہوا کہ مولوی الیاس صاحب دیوبندی ہیں اور یہ کہ آپ کے نظریات خاص مقاصد کے حامل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نجدی وہابی عقائد کی ایک تحریک معلوم ہوتی ہے۔ ان کے اعمال و عقائد نجدیوں کے ساتھ کلی مشابہت رکھتے ہیں بلکہ متحد ہی معلوم ہوتے ہیں اسلامی تبلیغ کا صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے بھولے عوام کو عقائد صحیح اہلسنت سے پھیر کر پورا موحد اور نجدی بنایا جائے جیسا کہ آئندہ ظاہر ہوگا۔

نوٹ: تبلیغی جماعت کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا اکثر حصہ کتاب تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں ارشد القادری شائع کردہ مکتبہ جام نور فیض العلوم جمشید پور بہار سے لیا گیا ہے۔

## تبلیغی جماعت کی پالیسی

تبلیغی جماعت کے سابق مرکزی امیر اور مولوی لیاس صاحب کے فرزند و جانشین مولوی محمد یوسف صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں تبلیغی جماعت کی مذہبی پالیسی کا ان لفظوں میں اعلان کیا ہے۔ ہمارا تبلیغی کام صرف عمل صالح کے لیے نہیں ہے بلکہ اول یہ ایمانی تحریک ہے اور بعد میں عمل صالح کی ہے۔ اب تک ۲۰ و ۲۵ سال کے تجربہ سے یہی معلوم ہوا ہے کہ شریکے رسموں (یعنی میلاد و قیام فاتحہ عرس وغیرہ) اور گناہوں کے چھیڑنے سے لوگ رسموں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں لیکن اگر ان کو ساتھ لیکر جماعتوں میں پھرایا جائے اور ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا صحیح مطلب اور مطالبہ سامنے آتا رہے تو رسموں اور گناہوں کو خود بخود چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے اس کو کیسے جھٹلا دیں۔

(قلمی مکتوب بقلم محمد عاشق الہی مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین دہلی۔)

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ اس اعلان میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تصحیح عقیدہ پہلے ضروری ہے اور عمل بعد میں ہوگا جیسا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ صحت عمل کے لیے عقیدہ کا درست ہونا ایک بنیادی اور معیاری حیثیت رکھتا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جماعت کے پیش نظر عمل سے بری رسموں اور گناہوں جیسے میلاد وغیرہ کو مٹانا ہے۔

## تبلیغی جماعت کی ضرورت

کتاب و سنت کی روشنی میں بہت سے اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کی تخریبی سازشوں کی نشاندہی ملتی ہے کہ انہوں نے اسلام کو پر فریب اور خطرناک حیلہ سازیوں سے بچا دکھانے بلکہ اس کو تباہ کرنے کی بیشمار کوششیں کی ہیں کہ اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو بہت سی ایسی جماعتیں منکشف ہو جائیں گی جن کا سلسلہ ارتباط کسی مکار و عیار دشمن سے متصل معلوم ہوگا۔ مثلاً حکومت برطانیہ کو اس نے اسلام دشمنی کا جو مظاہرہ ملک عرب وغیرہ مشرق وسطیٰ میں کیا اور کر رکھا ہے اس کے لیے گو صرف تفریق باہمی کافی تھی مگر اس نے خلافت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے اسباب مہیا کیے باہمی آدیزشیں قائم کر دیں ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ابدی تفریق پیدا کر دی اور بعضوں کو زائد امداد دے کر حکومت و اقتدار کی امید دلادی اور دیگر حربے اور حیلے بتائے کہ مسلمان کی عزت و حرمت حتیٰ کہ ان کے وجود تک ختم کرنے کو اسلام و ایمان سمجھا جانے لگا جیسا کہ نجدی اقتدار میں ہوا۔

اسی طرح ہندوستان میں مسلم آبادی کی آبادی اور اس کا اتحاد و اتفاق برطانیہ وغیرہ دشمنان اسلام کو کب گوارا ہو سکتا تھا لہذا مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو ان کے مذہب و سیاست کو حتیٰ کہ ان کے وجود کو پامال کرنے کی اور ختم کرنے کی سوجھی اور اس کے لیے سازشوں کا جال پھیلانے کی ٹھانی لہذا اول جناب مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے لیے تیار کیا اور اس سے ہر طرح رعایت و اعانت کا وعدہ کیا جس کا مرزا صاحب نے خود اقرار کیا اس سلسلہ میں مرزا صاحب کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ "میں اپنا کام نہ کہ میں ابھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں تبلیغ رسالت ج ۲ ص ۲۹۔"

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ "بے اختیار دل میں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گزار کی نیت سے ہم نے کئی کتابیں مخالفت جہاد اور گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شائع کیں اور کافر و غیرہ اپنے نام رکھوائے اسی گورنمنٹ کو اب تک معلوم نہیں کہ ہم رات و دن کیا خدمت کر رہے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ ضرور میری خدمات کی قدر کرے گی۔" (تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۲۸)

ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ ان عبارات سے کس قدر واضح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب خداوند کریم اور رسول کریم ﷺ کو چھوڑ کر ایک دشمن اسلام کو دنیا و اخراض کے حصول کے لیے دین و اسلام سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور دنیا مردار کے مقابلہ میں اخروی حیات طیبہ اور جاودانہ زندگی کو ترک کر رہے ہیں اور نہ ہی اس میں شبہ باقی رہتا ہے کہ ان اقراری بیانات کے بعد کیسے یقین نہ کیا جائے کہ مرزا صاحب کی جماعت گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سیاہ پروان چڑھی مگر دشمن عیار کا ملاحظہ فرمائیے کہ بنیاد رکھ کر درمیان سے پیچھے ہٹ گیا اور یہ جماعت مرزائیہ اسلامی لہادہ اوزہ کر پکا ایک ایک نئے نئے فریقے کی حیثیت سے مذہب کی سطح سے ابھر آئی اور ترقی کرتے کرتے آج دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت بن گئی جیسا کہ ہفت روزہ "ہماری زبان" ص ۱ گزہ رقمطراز ہے۔

"موجودہ زمانہ میں احمدی جماعت (قادیانی جماعت) نے منظم تبلیغ کی جو مثال قائم کی ہے وہ حیرت انگیز ہے لٹریچر مساجد اور مدارس کے ذریعہ یہ لوگ ایشیا یورپ افریقہ امریکہ کے دور دراز گوشوں تک اپنی کوششوں کا سلسلہ قائم کر چکے ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم جماعتوں میں ایک گونہ اضطراب پایا جاتا ہے۔ کاش دوسرے لوگ بھی ان کی مثال سے سبق لیتے۔" (ہماری زبان ص ۲۳ دسمبر ۵۸ء)

## ”تبلیغی جماعت“ کا ابتدائی وجود اور حکومت برطانیہ کی

### طرف سے مالی امداد

برادران ملت! ہندوستان میں مسلمانوں کے ملی اور ملکی اتحاد کو توڑنے کے لیے غالباً انگریزوں کا یہ پہلا مورچہ تھا جو نہایت کامیاب ہوا لیکن چونکہ قادیانی جماعت اپنے واضح اور کھلے ہوئے امتیاز (اجراء نبوت یا انکار ختم نبوت) اور چونکا دینے والے نام و نشان کی وجہ سے عام مسلمانوں میں موثر ثابت نہیں ہو سکتی تھی جس سے انگریزوں کا کامل تفریقی و تباہی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا ان کو ایک ایسی مذہبی تحریک کی ضرورت پیش آئی جس کے چلانے والے اپنے ظاہر کے اعتبار سے مسلمانوں میں ایک خاص وجاہت اور اثر و رسوخ رکھتے ہوں تاکہ ان کے ذریعہ سے عام مسلمانوں کو ملی و ملکی تفریق و انتشار کے مہلک مرض میں ابدی اور دائمی طور پر مبتلا کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے مالی امداد کا وافر وعدہ اور سہارا دے کر مولوی الیاس صاحب کو کھڑا کیا جیسا کہ دیوبندی جمعیۃ علماء کے ناظم اعلیٰ مولوی حفظ الرحمن نے اپنے ایک بیان میں خود اس کا اقرار و اعتراف کیا ہے جیسا کہ مکالمۃ الصدرین کا مرتب ان کی ایک گفتگو کا ایک سلسلہ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اسی ضمن میں مولانا حفظ الرحمن صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس کو تبلیغی تحریک کے ابتدا میں حکومت کی طرف سے کچھ روپیہ ملتا تھا پھر بند ہو گیا۔ (مکالمۃ الصدرین ص ۸ شائع کردہ دیوبند)۔

ملاحظہ فرمائیے کہ مذہب کے نام پر کسی تحریک کو چلانے سے دشمن اسلام کی مالی امداد کا موجب اور علت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے سے ٹکرا اور لڑا بھڑا کر اہل مذہب کی روحانی اخلاقی اجتماعی قوتوں کو انتہائی نقصان پہنچایا جائے بلکہ ان کو ختم کیا جائے۔

### لٹریچر اور مواد مہیا کرنے کا سودا

اسلام کے نام پر ایک تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھنے کے بعد طے شدہ اصول و ضوابط

کی روشنی میں کام کرنے کے لیے ایسے فکری و نظری مواد کی ضرورت تھی جو ذہن نشین ہونے کے بعد ایمانی چمک و دمک کو ٹھنڈا کر دے اور اہل اسلام میں مذہبی خانہ جنگی کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دے جو کبھی ختم نہ ہونے پائے چنانچہ اس کی تکمیل کے لیے مولوی اشرف علی تھانوی کی قلمی خدمات حاصل کی گئیں جیسا کہ اس کا بھی مکالمہ الصدرین ص ۱۱ پر مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے مولوی حفظ الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دیکھئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ یہ ہمارے آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سو روپیہ ماہوار حکومت کی جانب سے دیئے جاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر کہ حکومت برطانیہ نہ ان کی مرید کہ نذرانہ سمجھا جائے نیز مولانا بظاہر نذرانہ کے ویسے بھی مخالف تھے اور نذرانہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ نذرانہ ایک آدھ بار پیش کیا جاتا ہے نہ یہ کہ ماہ بمآہ تو پھر اس کا سبب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ معاملہ او خدمات کا معاوضہ تھا۔“

ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب ناجائز طور پر مذہبی تفریق اور باہمی آویزشوں کے لیے کسی حکومت سے کوئی رقم وصول کریں یہ کسی دنیا دار کا کام تو ہو سکتا ہے کہ ناجائز امر پر کسی سے کچھ لے لے مگر مولانا سے توقع نہیں ہے لہذا مولانا تھانوی کا خود بیان نقل کیا جاتا ہے کہ ”ایسی بات جو ان کے نزدیک اور ان کے مذہب میں ناجائز ہوتی ہے اس پر وہ کسی قسم کا معاوضہ لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔“ دیکھئے تھانوی صاحب اس زمانہ میں جب کہ وہ مدرسہ جامع العلوم کانپور میں مدرس تھے مجالس میلاد وغیرہ میں خود حاضر ہو جاتے صلوة و سلام دعا و قیام سب کچھ کر جاتے حالانکہ وہ ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے تھے۔ سنئے آپ فرماتے ہیں..... ”نیز وہاں میں نے بدوں شرکت میلاد قیام کرنا قریب بحال دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا کیونکہ منفعت بھی ہے کہ مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے۔“

(سیف یمانی مصنفہ مولوی منظور نعمانی ص ۲۴)

ملاحظہ ہو کہ تھانوی صاحب نے صرف چند پیسوں کی خاطر اپنے مذہب اپنے ضمیر

اور اپنے اعتقاد کا کس طرح خون کیا ہے۔ اگر تھانوی صاحب کو اپنا دین اور اپنا مذہب پیارا ہوتا تو خدا تعالیٰ کی زمین وسیع تھی اور کسی جگہ جا کر اپنے مذہبی تقاضوں کو پامال کیے بغیر وہ رزق حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن اگر کسی کی نگاہ سکہ رائج الوقت ہی اگر سب کچھ ہو تو پھر عقیدہ اور مذہب کیا وہ تو اپنے آپ کو بھی بچ سکتا ہے۔ تو اب اگر تھانوی صاحب اسی انداز سے حکومت برطانیہ سے کچھ ماہوار وظیفہ حاصل کریں تو عین ممکن اور جائز ہے کہ آخر مالی منفعت ہے۔

اور ملاحظہ ہو تھانوی صاحب نے فرمایا کہ میں دعوت اور ہدیہ میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں۔ (کمالات اشرفیہ ص ۴۰۶)

خیال فرمائیے کہ جب دعوت اور ہدیہ میں حلال و حرام کا زیادہ خیال نہ کیا گیا تو اس دعوت و ہدیہ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی قابل اعتراض چیز موجود ہو تو کیا زہد اور تقویٰ اور بزرگی اور قدوائت مفتی مجدد و حکیم الامت وغیرہ ہونے کا یہی تقاضا ہے؟

اور سنئے مولوی تھانوی صاحب کے ملفوظات کے مرتب مولوی خواجہ عزیز الحسن لکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھئے کہ میرا (تاریخی نام) مکر عظیم ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں آخر شیخ زادہ ہوں شیخ زادے بڑے فطرتی ہوتے ہیں مجھے بھی فطرتیں بہت آتی ہیں۔ (حسن العزیز ج ۱ ص ۱۳)

ظاہر ہے مکر خطرناک عیب ہے تو پھر مکار و فطرتی آدمی کی آویزشیں کیسی ہوں گی۔ اکثر باتیں اس سے ممکن ہو سکتی ہیں۔

پھر اور سنئے۔ تھانوی صاحب جن دنوں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں مدرس تھے انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ محلے کی کچھ عورتیں فاتحہ کرانے کے لیے مٹھائی لیکر آئیں تھانوی صاحب کے طلبہ نے فاتحہ دینے کی بجائے مٹھائی لیکر خود کھالی (اس پر فاتحہ نہ پڑھی) اس پر برا ہنگامہ ہوا۔ تھانوی صاحب کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ”بھائی یہاں وہابی“ رہتے ہیں۔ یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت دیا کرو۔ (اشرف السوانح ص ۳۵ ج ۱)

ملاحظہ خاطر فرمائیے کہ مولوی تھانوی صاحب نے کتنے اچھے تاثرات اپنے طلبہ میں پیدا کر رکھے ہیں کہ جس کو ناجائز سمجھتے ہیں رسم شرک قرار دیتے ہیں اسی کو خود کھا جاتے ہیں اور تھانوی صاحب ہیں کہ اس پر طلبہ کو کچھ نہیں کہتے لیکن حقیقت واضح ہے کہ جب تھانوی صاحب خود ایسی احتیاط کو پسند نہیں فرماتے تو ان کے طلبہ ایسی چیزوں سے کس طرح محتاط رہ سکتے ہیں۔

بہر حال مولوی تھانوی صاحب اگر کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے کسی ناجائز بات پر اگر کسی نوعیت کا کچھ معاوضہ لے لیں تو بالکل مستبعد نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تھانوی صاحب کو خرید و فروخت سے اور کسی سے کچھ لینا اور کچھ دینا تھانوی صاحب کی ایک فطرت ہو گئی تھی کہ اس میں کوئی باک محسوس نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایسی تمنا کا اظہار فرمایا کرتے۔ ارشاد فرماتے۔ اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہو سب کو تنخواہ کر دوں پھر خود ہی سب کے سب وہابی بن جائیں۔ (الافاضات الیومیہ ص ۶۷ ج ۳)

ملاحظہ فرمائیے وہابیت کا سوز و گداز اور عشق کہ تنخواہ دیکر کسی کو ایماندار بنانے کی تو خواہش پیدا نہیں ہوئی ہاں مسلمانوں کو وہابی بنانے کی تمنا سے جگر سوکتا رہا کاش تنخواہ دے کر کسی کو تھانوی صاحب مسلمان بنانے کی آرزو کرتے کہ کچھ ثواب ملتا۔

### دو ایجنٹوں اور کارکنوں کا باہمی رشتہ

اوپر مذکور ہوا کہ انگریزوں نے اس تبلیغی تحریک کے ذریعہ اہل اسلام کے خرمین اتحاد و اتفاق کو تفریق باہمی کی بھڑکتی ہوئی آگ سے دائمی طور پر جلانے کے لیے مولوی تھانوی اور مولوی الیاس کی خدمات حاصل کیں۔ اب ذرا اس سلسلہ میں ایک آقا کے دو مشترک ایجنٹوں کا ایک دوسرے سے باہمی ربط و یگانگت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مولوی الیاس صاحب تھانوی صاحب کی یوں منقبت میں رطب اللسان ہیں۔

”حضرت مولانا تھانوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے پس میرا دل چاہتا ہے کہ



تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔“

(ملفوظات الیاس ص ۵۷)

اب تھانوی صاحب بضمحواى من ترا حاجى بگویم تو مرا ملا بگو۔ مولوی الیاس صاحب کی مدح سرائی میں یوں گوہر افشاں ہیں..... ”حضرت اقدس تھانوی صاحب قدس سرہ العزیز کی عادت مبارک تبلیغی جماعتوں کے پہنچتے وقت یہ سنی گئی کہ ان کی دعوت فرماتے دعا فرماتے بعض دفعہ اصول سے مستثنیٰ فرماتے یہ بھی سنا گیا کہ فرمایا الیاس نے یا کو آس سے بدل دیا۔

(چشمہ آفتاب ص ۱۴)

سامعین حضرات! اوراق گذشتہ میں جہاں تک تھانوی صاحب بلکہ دیگر ان کے ہم مشرب صاحبوں کی تعلیمات و تصنیفات کے ذریعہ مسلمانوں میں مذہبی خانہ جنگی اور فرقہ وارانہ فساد و انتشار برپا ہونے کا سوال ہے جو کہ دشمنان اسلام انگریزوں کا مدعا تھا۔ ان کے چند نمونے سپرد قلم ہو چکے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ اس نتیجہ پر یقیناً پہنچ گئے ہوں گے کہ نہایت ایمانداری کے ساتھ چھ سو روپے ماہوار کی رقم خطیر کا پورا پورا حق نمک ادا کر دیا گیا ہے اور فریضہ منصبی کی ادائیگی میں دونوں صاحبوں نے سرسوفرق نہیں کیا۔ ایک نے فتنہ پرور لٹریچر تیار کر کے دوسرے نے تبلیغ و دعوت کا دلفریب طریقہ ایجاد کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے۔

نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو کچھ ان کے متعلق لکھا گیا ہے وہ محض الزام نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو ذکر کرنے والے خود ان حضرات کے معتقدین و متعلقین ہیں مثل مشہور ہے کہ گھر کا بھیدی لڑکا ڈھائے اگر یہ گھر کے لوگ راز سربستہ فاش نہ کرتے تو ہمیں اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔

## ایک اہم سوال

جب سطور مذکورہ میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ سب انگریز کی چال تھی کہ اس نے مسلمانان ہند میں تفریق پیدا کرنے کے لیے یہ سازش کی تھی تو تبلیغی جماعت کا اس نظر یہ کی

محمیل کے لیے نجدی حکومت سے ساز باز کرنے کا کیا مطلب؟

## تفریق بین المسلمین اور ان میں انتشار کی نوعیت

ناظرین کرام! جب آپ نے اوراق گذشتہ میں یہ سمجھ لیا کہ یہ دشمن اسلام انگریز وغیرہ کی شرارت تھی کہ تفریق اور انتشار کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مولوی تھانوی صاحب اور مولوی الیاس کو بعد میں تیار کیا گیا اور ان کو معقول معاوضہ دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ تفریق اور انتشار بین المسلمین کو کس طرح ہوا دی اور کیا حیلہ اور حربہ استعمال کیا۔ سنئے یہ حضرات جانتے تھے کہ فتنہ مرزائیت سے مسلمان کچھ بیدار ہو گئے ہیں جلدی جلدی متاثر نہیں ہوں گے کسی فوری انگیزت اور تیز پالیسی سے اور چمک جائیں گے۔ غالباً آخر یہ طے پایا کہ مشرق وسطیٰ میں نجدی حکومت نے جو انداز تحریر اختیار کیا ہے وہ اختیار کیا جائے کہ کسی اسلامی مسئلہ کو سامنے رکھ کر اور شرعی حیثیت کا لبادہ اوڑھ کر اس تفریق کی طرح ڈالی جائے اور نجدی تحریک کی وضاحت کرائی جائے بلکہ اس سے تعاون کا مطالبہ کیا جائے چنانچہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسی غرض کے لیے مولوی اسماعیل وغیرہ کو حجاز بھیجا گیا تاکہ وہ تحریک کے پورے خدو خال سے واقفیت حاصل کر کے اطلاع دیں۔

حالات اور تاریخ بتاتی ہے کہ مولوی اسماعیل وغیرہ حجاز گئے اور حکومت نجد سے ان کی تحریک کی ابتدائی کارروائی اور تکمیلی مراحل سے کوائف دریافت کیے جن کو سن کر مولوی اسماعیل صاحب نہایت متاثر ہوئے نجدی حکومت نے پوری پوری حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ اپنی کامیابی کے لیے اپنی ہی تحریک چلانے کی ترغیب دی اور اسی شرط پر اپنی معاونت اور توجہ و غایت بھر عنایت کا وعدہ کیا تاکہ آئندہ اپنی حکومت کو زیادہ پھیلا یا جاسکے جس کو مولوی اسماعیل صاحب نے قبول کیا اور اس کو اپنانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کا وعدہ کیا جس پر نجدی حکومت نے مولوی صاحب کو اپنے کرم وجود سے نوازا اور نجدی تحریک پر مشتمل چند کتابیں جن میں کتاب التوحید بھی تھی عطا کیں۔ چنانچہ مولوی اسماعیل صاحب نے واپسی پر کتاب التوحید

کا ترجمہ بصورت تقویت الایمان لکھا اور اس میں خوب زور لگا کر نجدی عقائد کا عکس بھرا اور اپنے پہلے عقائد سے بالکل انحراف کیا جس سے اللہ کی مخلوق کیا سے کیا ہو گئی۔

ناظرین کرام! اب ہم عقائد نجدیہ اور ان کی تحریک کا پس منظر بیان کرتے ہیں جن کو مولوی اسماعیل وغیرہ نے قبول کرتے ہوئے سرزمین ہند وغیرہ میں پھیلانے اور ان کو اپنانے کی سعی بلیغ کی تاکہ تبلیغی جماعت وغیرہ کی یہ ہما ہی اور اس کا آخری مقصد معلوم ہو سکے اور کسی نتیجہ پر پہنچنا آسان ہو جائے۔

### عقائد وہابیہ نجدیہ

شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب دیوبندی و رکن جمعیت العلماء ہند و سربراہ تبلیغی جماعت کی زبان سے سینے۔ آپ فرماتے ہیں:

”محمد ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیرھویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اہلسنت والجماعت سے قتل و قتال کیا بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا اور ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھتا رہا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔“

(الشہاب الثاقب ص ۴۲)

محمد بن عبدالوہاب کا عقیدہ تھا کہ ”جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانانِ دیار مشرک و کافر ہیں اور ان سے قتل و قتال کرنا اور ان کے اموال کو ان سے چھیننا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔“ (الشہاب ص ۴۳)

خلافت کمیٹی کے وفد کی رپورٹ کے ص ۸۰ پر ہے مدینہ منورہ کے اجتماع میں نجد کے قاضی نے علماء مدینہ کو یہ خطاب کیا یا اہل الحجاز انتم اشد کفراً من ہامان و فرعون نحن قاتلناکم مقاتلہ المسلمین مع الکفار انتم عباد حمزہ و عبد القادر۔

ترجمہ: ”اے باشندگان حجاز! تم ہامان اور فرعون سے بھی بڑھ کر کافر ہو، تمہارے ساتھ اسی طرح قتال کریں گے جس طرح کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تم امیر حمزہ اور عبد القادر (جیلانی) کے پجاری ہو۔“

ان کا خیال ہے کہ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوئی حق اب نہیں اور نہ کوئی احسان اور فائدہ آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ہے۔“ (الشہاب ص ۴۷)

نجدی اور اس کے اتباع کا اب تک یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات فقط اسی زمانہ تک محدود ہے جب تک وہ دنیا میں تھے بعد ازاں وہ اور دیگر مومنین موت میں برابر ہیں۔ ص ۴۵

وہابیہ نجدیہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ یا رسول میں استعانت بغیر اللہ ہے اور وہ شرک ہے (ص ۶۵) وہابیہ خبیثہ کثرت صلاۃ و سلام و درود خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام اور قرآنہ دلائل الخیرات و قصیدہ بردہ قصیدہ ہمزیہ اور اس کے استعمال کرنے اور ورد بنانے کو سخت قبیح و مکروہ جانتے ہیں۔ (ص ۶۶) وہابیہ امر شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بمنزلہ عدم (نہ ہونے کے برابر) پہنچا دیتے ہیں۔ (ص ۶۷)

وہابیہ سوائے علم احکام الشرائع کے جملہ علوم و اسرار حقانی وغیرہ سے ذات سرور کائنات خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خالی جانتے ہیں۔ (ص ۶۷)

وہابیہ نفس ذکر و ولادت حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبیح و بدعت کہتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اذکار اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ (ص ۶۷)

ملک گیری کے لیے جو آلہ ان کے پاس ہے یعنی قوم نجد! اس کو ایک صدی سے زیادہ یہی سکھایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ سب مسلمان کافر و مشرک ہیں اور نجدیوں کی گذشتہ صدی کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھ کفار کے خون سے کبھی نہیں رنگے گئے۔ جس قدر خونریزی انہوں نے کی ہے وہ صرف مسلمانوں کی کی ہے۔ (رپورٹ وفد کمیٹی ص ۱۰۵)

شان نبوت و حضرت رسالت مآب علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں وہابیہ نہایت

گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے کو مماثل ذات سرور کائنات خیال کرتے ہیں اور نہایت تھوڑی سی فضیلت زمانہ تبلیغ کی مانتے ہیں اور شقاوت قلبی اور ضعف اعتقادی کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہم عالم کو ہدایت کر کے راہ پر لاتے ہیں (ص ۴۷) وہابیہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا ہے کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو سخت کرتے ہیں اور اہل زمین پر سخت نفرین اس ندا و خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں۔ ص ۶۵

### مولوی انور شاہ کاشمیری شیخ الحدیث دیوبند

امام محمد ابن عبد الوہاب النجدی فإنه كان رجلاً بليداً قليل العلم فكان يسارع الى الحكم بالكفر.

(ترجمہ) ”محمد ابن عبد الوہاب نجدی ایک کم علم اور کم فہم انسان تھا اور اسی وجہ سے کفر کا حکم لگانے میں اسے کوئی باک نہ تھا۔“ (مقدمہ فیض الباری از انور شاہ کاشمیری)

### مولوی قاری محمد طیب مہتمم مدرسہ دیوبند

وہ (عبد الوہاب نجدی) بہت سے مباح اور جائز امور کو حرام کہتے ہیں کوئی باک محسوس نہیں کرتے۔ (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند۔ فروری ۱۹۶۳ء ص ۴۱)

### مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی

محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے۔ محمد ابن عبد الوہاب عامل بالحدیث تھا بدعت و شرک سے روکتا تھا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۷۸)

### مولوی خلیل احمد دیوبندی انیسٹھوی

ان (محمد بن عبد الوہاب) کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہ ہی مسلمان ہیں اور جو ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔ اس بنا پر انہوں نے علماء اہلسنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا؟ (التصدیقات لدفع التلبیسات المعروف بالمہند ص ۱۳)

اس کتاب پر شیخ الہند مولوی محمود الحسن دیوبندی، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی  
یہ اکابر علماء دیوبند کے تصدیقی دستخط مثبت ہیں۔

### ان عقائد نجدیہ وہابیہ کا خلاصہ

محمد بن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور  
اپنے عقائد باطلہ فاسدہ سے اہلسنت والجماعت کو مباح الدم سمجھتا تھا اور ان کے مالوں کو حلال  
قیمت سمجھتا تھا اور ان کے قتل کو باعث رحمت و ثواب بلکہ جہاں بھر کے مسلمانوں کو کافر مشرک  
اور ان کو قتل کرنا ان کے مالوں کو لوٹنا چھیننا حلال و جائز بلکہ واجب سمجھتا تھا۔ باشندگان حجاز کو  
پس کہا کہ تم ہامان اور فرعون سے بڑھ کر کافر ہو۔ تمہارے ساتھ کافروں کی طرح قتال ضروری  
ہے کہ تم امیر حمزہ اور عبدالقادر جیلانی کے پیجاری ہو۔ رسول کریم ﷺ کا وفات کے بعد کوئی  
حق و احسان نہیں اور نبی آپ سے اب کوئی فائدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی  
نیات اسی حد تک تھی جب تک وہ دنیا میں رہے۔ وفات کے بعد نبی وغیرہ نبی سب برابر ہیں  
اور یا رسول میں استعانت بغیر اللہ کی وجہ سے شرک ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت  
نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام علوم شریعت کے علاوہ اور جملہ علوم اور اسرار  
تھانی سے بالکل خالی اور بے بہرہ ہیں اور حضور علیہ السلام کا نفس ذکر ولادت بھی قبیح و بدعت  
ہے۔ اسی طرح اذکار اولیاء بھی برے ہیں اور حضور علیہ السلام پر کثرت سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا  
اور دلائل الخیرات قصیدہ بردہ قصیدہ ہمزیہ وغیرہ کو ورد بنانا سخت قبیح و مکروہ ہے۔

حضرات! وہابیہ نجدیہ اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کے یہ مختصر عقائد ہیں جو کہ  
دیوبندی گروہ کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے اپنی کتاب الشہاب میں ذکر کیے  
ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اب یہ امر ظاہر و باہر ہے کہ جو شخص یہ عقائد رکھے گا ان کی تبلیغ  
کرے گا ان کو عین ایمان و اسلام سمجھے گا بلکہ ان پر عمل کرنا نہ یہ کہ جائز بلکہ واجب اور ضروری  
تصور کرے گا ان کی مخالف کی قبیح و مذموم بلکہ اسلام کا انکار خیال کرے گا وہ بہر صورت قطعی طور

پر وہابی ہوگا۔ محمد بن عبد الوہاب کا قبیح ہوگا لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بعض ایسے حضرات کا ذکر کریں جنہوں نے ان عقائد کی تصویب اور تصحیح کی اور ان کو جائز کہا ان پر عمل کرنا صحیح معنی میں ایمان و اسلام بتایا ہے۔

ان حضرات کا ذکر جنہوں نے عقائد وہابیہ نجدیہ کو پسند کیا ہے

یعنی علماء دیوبند وغیرہ

تبلیغی جماعت کے پیشوا اعظم مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اپنے فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۱۱۹ پر فرماتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں مگر جو حد سے بڑھ گئے ہیں ان میں فساد آ گیا ہے اور عقائد سب کے متحد ہیں۔

اس فتویٰ میں محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی تسلیم کیا گیا ہے اور ان کے عقائد کو عمدہ بتایا گیا ہے۔ صرف بچاؤ کے لیے ان کا مذہب حنبلی بتا دیا گیا ہے۔

تبلیغی جماعت کے سربراہ مولوی منظور احمد نعمانی فرماتے ہیں کہ ”ہم خود اپنے بارہ میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔“

(سوانح مولوی محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۹۰)

تبلیغی جماعت کے مرکز ہدایت مولوی اشرف علی صاحب فرماتے ہیں بھائی! یہاں وہابی رہتے ہیں یہاں فاتحہ و نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو۔ (اشرف السوانح ج ۱ ص ۲۵)

مولوی رشید احمد فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۱۴۳ پر لکھتے ہیں ”اگر کوئی شخص قبروں پر چادریں چڑھاتا ہو اور مدد بزرگوں سے مانگتا ہو یا بدعتی مثل جواز عرس رسوم وغیرہ کا قائل ہو اور یہ جانتا ہو کہ یہ افعال اچھے ہیں تو ایسے شخص سے عقد نکاح جائز ہے یا نہیں۔“

جواب: جو شخص ایسے افعال کرتا ہو وہ قطعاً فاسق ہے اور احتمال کفر کا ہے ایسے سے نکاح کرنا دختر مسلمہ کا اس واسطے ناجائز ہے کہ فساق سے ربط و ضبط کرنا حرام ہے۔

ج ۳ ص ۱۱ پر ہے کہ محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایت صحیح ہو سبیل لگانا شربت پلانا چندہ سبیل اور شربت دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبیہ بالروافض کی وجہ سے حرام ہے۔

ج ۲ ص ۱۵۴ پر ہے کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ عیدین میں معانقہ یا بغل گیر ہونا کیسا ہے ارشاد فرمایا۔ عیدین میں معانقہ کرنا بدعت ہے۔ ان تین عبارتوں میں وہی حکم ہے جو کہ وہابیہ دیا کرتے ہیں۔

مولوی منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ”آپ مسلمان کہلانے والے ان قبوریوں اور تغریہ پرستوں کو دیکھ لیجئے۔ شیطان نے ان مشرکانہ اعتقادات اور مشرکانہ اعمال کو ان کے دلوں میں ایسا اتار دیا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں قرآن اور سنت کی کوئی کسی بات کے روادار نہیں ہیں انہی لوگوں کو دیکھ کر اگلی امتوں کے شرک کو سمجھتا ہوں۔“

(ماہنامہ الفرقان مکتوبات جمادی الاول ص ۳۰، ۳۱، ۳۲)

یہاں پر بھی وہی حکم ہے جو کہ وہابیہ لگایا کرتے ہیں۔

مولوی اشرف علی تھانوی عقیقہ وختہ و بسم اللہ کے مکتب میں جمع ہونا سب ترک کر دو نہ اپنے گھر کرو نہ دوسرے کے ہاں یہاں شریک ہو غمی میں تیجا دسواں چالیسواں وغیرہ شب برات کا حلوہ یا محرم کا تہوار خود کرو نہ دوسرے کے ہاں جا کر ان کاموں میں شریک ہو فاتحہ و نیاز ولیوں کی مت کرو بزرگوں کی منت مت مانو۔ شب برات کا حلوہ عرفہ مبارک کی روٹی کچھ مت کرو کہیں بیاہ شادی موٹن چلہ چھٹی عقیقہ منگنی چوٹی وغیرہ میں مت جاؤں نہ اپنے ہاں کسی کو بلاؤ۔ بہشتی زیور ایک کتاب ہے اس کو یا تو پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو اور اس پر چلا کرو..... رواج کے موافق مولود شریف کرنا تبرکات کی زیارت کے لیے عرس کا سارا انتظام کرنا شب برات کا حلوہ پکانا رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر شیرینی ضرور کرنے کے لیے چندہ مانگنا۔ (قصد السبیل ص ۲۵، ۲۶، ۳۱) کسی عرس اور مولود شریف میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی ساعر عرس اور مولود درست نہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۹۳ ج ۳)



مولوی اشرف علی صاحب بہشتی زیورج ص ۳۷ پر لکھتے ہیں..... ”کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگئی ہے۔ کسی سے مرادیں مانگنا کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑے رہنا سہرا باندھنا علی بخش حسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام لکھنا یوں کہنا کہ خدا و رسول اگر چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا یعنی یہ سب شرک و کفر ہے۔“

## کفر و شرک کی باتوں کا بیان

دیکھئے قصداً سبیل اور بہشتی زیور کے یہ مسائل و احکام اور وہابیہ کے احکام ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں (تقویۃ الایمان ص ۴۲ مولفہ مولوی اسماعیل صاحب پر ہے۔ ”کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو ان کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا شرک اور کفر تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہیں۔“

دیکھئے یہ عبارت کس طرح وہابیہ کا پرچار کر رہی ہے، اور بطریق غلو بلا وجہ کس قدر اسلام کو کفر بتایا جا رہا ہے۔ بلغۃ الحیر ان مصنفہ مولی حسین علی واں پھر اں ص ۲ پر لکھتے ہیں یا شیخ عبدالقادر یا خواجہ شمس الدین پانی پتی چنانچہ عوام میگویند شرک و کفر است۔

مولوی مرتضی حسن ناظم تعلیم دیوبند بحوالہ پرچہ اخبار امرتسر ۱۴ اکتوبر ۱۹۲۷ء ان عقائد باطلہ پر مطلع ہو کہ انہیں مرتد کافر ملعون جہنمی نہ کہنے والا بھی ہی مرتد و کافر ہے پھر اس کو جو ایسا نہ سمجھے وہ بھی ایسا ہی ہے۔

مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے تقویت الایمان کی یوں تائید کی ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔

کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اس کے سب مسائل صحیح ہیں۔ اس کا رکھنا پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے (فتاوی رشیدیہ ص ۱۱۳ و ۱۱۴ ج ۱) بندہ کے نزدیک سب

مسائل اس کے صحیح ہیں۔ تمام تقویت الایمان پر عمل کرے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۶۰ ج ۱) اور کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب اور روشک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے کتاب اور احادیث سے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ فاتحہ کا پڑھنا کھانے پر یا شیرینی پر بدعت ضلالت ہے۔ ہرگز نہ کرنا چاہئے (فتاویٰ رشیدیہ ص ۵ ج ۲) ناظرین کرام! ان حوالجات سے روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو گیا کہ ان حضرات علماء دیوبند کے عقائد وہی عقائد ہیں جو کہ وہابیہ نجدیہ کے ہیں نہ یہ کہ ان حضرات نے فقط تائید ہی کی ہے بلکہ صاف اور واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یہ ان کے عقائد و اعمال ہیں۔ انہی عقائد کی نشر و اشاعت و تبلیغ و تذکیر ان کا مقصد حیات ہے اور انہوں نے کھلا اقرار کیا ہے کہ وہ بڑے سخت کٹڑ اصلی وہابی ہیں اور اس پر ان کا اصرار ہے اور اسی کی دعوت ان کا اصل مدعا ہے۔ بظاہر سنیت کا اور کہیں مقلدیت کا اور کہیں حنفیت وغیرہ کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے بلکہ وہابیت سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے تاکہ عوام پر راز فاش نہ ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ انکو وہابیت سے نفرت اور بیزاری نہیں کرنا چاہئے بلکہ کھلے بندوں اخبارات و رسالہ جات وغیرہ میں کثرت سے اس کا اظہار عام کر دینا ضروری ہے کہ بھائی ہم تو اصل میں پکے.....

## ان علماء کا اختلاف کب سے ہوا

ناظرین کرام! ان مسائل متنازعہ میں ان حضرات علماء کا اول کوئی اختلاف نہ تھا۔ دیکھئے۔

(۱) حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ آپ کے ان تلامذہ حضرات میں پہلے سے کوئی اختلاف نہ تھا یہ فتنہ تقویت الایمان (جو کہ حقیقت میں کتاب التوحید کا ترجمہ ہے) سے اور براہین قاطعہ کی اشاعت سے پیدا ہوا اور اسی نے یہ آگ و شورش پیدا کی ہے۔

- (۲) مولوی اسماعیل صاحب کا خود اعتراف نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اس میں انتہائی غلو اور تشدد ہو گیا ہے حتیٰ کہ شرک اصغر جو کفر نہیں کو شرک اکبر میں داخل کیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کو کافر بنا دیا گیا ہے۔
- (۳) علامہ شوکانی اور ہدیۃ المہدی سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ سب بے اعتدالی اور غلو و تشدد مولوی اسماعیل کی تقویت سے پیدا ہوا ہے۔
- (۴) دیوبندی شیخ الاسلام مولوی حسین احمد سے مذکور ہے کہ انہوں نے عقائد و ہابیہ مذکورہ کو عقائد فاسدہ اور خیالات کا سدہ بتایا ہے۔
- (۵) اکناف و اطراف حتیٰ کہ علماء حرمین طہمین کے نزدیک یہ عقائد اسلامی نظریات و عملیات کے خلاف ہیں جیسا کہ حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ سے جو کہ دیوبندی علماء کے پیرومرشد ہیں نقل کیا گیا ہے۔
- (۶) کتاب و سنت کی معتد بہ اور جمہور مفسرین کی عمومی تاویل و تفسیر کے برخلاف ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دیکھئے صاف ظاہر ہے کہ پہلے..... کوئی اختلاف نہ تھا بلکہ بعد کی پیداوار اور ایجاد بندہ ہے۔

## نجدی تحریک کا پس منظر

ناظرین کرام! اوراق گذشتہ میں نجدی اقتدار کے جن عقائد و اعمال کا نقشہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے غالباً وہ باوجودیکہ کتاب و سنت اور جمہور اسلام کے خلاف تھے محض حصول اقتدار اور تفریق بین المسلمین کی تکمیل کے لیے اپنے خیال سے یا کسی دشمن اسلام کے ایماء اور اکسانے کی وجہ سے بنائے گئے اور کتاب و سنت کو آلہ بنا کر عوام اہل سنت و الجماعت کو ان اختراعیہ عقائد کے مخالف قرار دے کر قتل عام کر دیا اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کو سننے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ اور شرمندگی سے تاریخ کا سر جھک جاتا ہے۔ بہر صورت نجدی تحریک کا پس منظر یہ معلوم ہوا کہ جمہوریت اسلام کو ختم کر دیا جائے

اور کتاب و سنت کو آلہ بنا کر ہر مخالف کو تیغ کرتے ہوئے جبراً و قہراً اپنا تسلط جمایا جائے اور تفریق باہمی کے ذریعہ اسلامی شان و شوکت اور اتحاد و اتفاق مسلمین کو پارہ پارہ کر دیا جائے اور من مانی کاروائیوں سے اپنی خواہش و ہوس کی تکمیل کی جائے بلکہ اس نوعیت کی تحریک کو اتنا عام کر دیا جائے کہ مسلمانان عالم کے ساتھ یہی سلوک اور ان پر اسی قسم کا غلبہ اور تسلط حاصل کیا جائے چنانچہ اس نظریہ کے پس منظر نجدی حکومت نے مولوی اسماعیل کو متاثر کیا اور ان کو کتابیں دیں جن کے تاثرات کو مولوی اسماعیل صاحب نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں کھلے بندوں ذکر کیا جس کی تائید علماء دیوبند نے کی بلکہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ خود اقرار و ہابی ہونے سے ذرا جھجک محسوس نہیں کی اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ مولوی اسماعیل کے بعد بھی دیوبندی علماء کا نجدی حکومت کے ساتھ انتہائی جوڑ توڑ رہا اور ہے کما ہوا الظاہر۔

### دیوبندی علماء کا نجدی حکومت سے رابطہ

شیخ عمر بن الحسن کے برادر اکبر شیخ عبداللہ بن الحسن سے بھی کئی بار ملنا ہوا (جن کے ساتھ مولانا لیا س کا معاہدہ ہوا) اور وہ بڑی شفقت سے پیش آئے کچھ لوگ (تبلیغی) جماعت کے متعلق یہ تاثر پیدا کرتے تھے کہ یہ جماعت فاسدۃ العقیدہ ہے اور یہ شکوہ علماء تک پہنچاتے علماء کے تعلق اور اہل رسوخ سے ملاقات نے شکایت پہنچانے والے کے اثر کو ختم کر دیا۔

ناظرین ظاہر ہے کہ فاسدۃ العقیدہ کا مطلب یہی ہے کہ نجدی عقیدہ میں تبلیغی جماعت کا عقیدہ فاسدہ ہے اور اس کی شکایت پہنچائی گئی ہوگی اور ازالہ اور مخالفین کی زبان بندی جب ہی ہو سکتی ہے کہ نجدی حکومت کو باور کرایا جائے کہ نہ صاحب ہمارا عقیدہ وہی ہے جو کہ آپ کا عقیدہ ہے تو شکایت کا ازالہ بھی ہو گیا اور مخالفین کی زبان بھی بند ہو گئی اور حکومت نجد بھی خوش ہو گئی۔ ثابت ہوا کہ دونوں کا ایک ہی عقیدہ ہے ورنہ آپ خیال فرمائیں کہ نجد کے قاضیوں اور نجدی علماء و حکماء اور حکام کے سامنے اپنے فاسد العقیدہ (بد عقیدہ) ہونے کے الزام کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟

دیوبندی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے جب والی نجد شاہ سعود ابن عبد  
العزيز ہندوستان کے دورے پر آئے تھے تو مولوی حسین احمد نے ۲۹ نومبر ۱۹۵۵ء کو انہیں  
جمعیتہ العلماء ہند کی طرف سے سپانامہ پیش کیا تھا اور جس جلسہ میں یہ سپانامہ پیش کیا گیا تھا  
اس میں وزیر اعظم پنڈت نہرو آنجہانی بھی موجود تھے مولوی حسین احمد نے شاہ سعود کو خطاب  
کرتے ہوئے کہا۔

”یا صاحب الجلالۃ! خاص حجاز مقدس کے سلسلے میں جب جلالتہ الملک المرحوم  
سلطان عبدالعزیز بن سعود رحمہم اللہ نے فاتحانہ اقدام اقدار کیا تو جمعیت علماء ہند ہی وہ جماعت  
تھی جس نے یورپین ڈپلومیسی کے خلاف اس اقدام کو حجاز مقدس کے لیے نیک فال سمجھا اور  
سلطان مرحوم کو مبارک باد پیش کی۔ پھر اپنے خصوصی نمائندوں کے ذریعہ موقع بہ موقع سلطان  
مرحوم کی خدمت میں مفید مشورے پیش کرتی رہی اور جمعیتہ علماء مذکور کو فخر ہے کہ سلطان محروم  
نے ان کے مشوروں کو شرف قبولیت عطا فرمایا جس سے مخالفین کی زبان بھی بند ہوئی اور  
اصلاحی مقاصد بھی کامیاب ہوئے۔ حکومت آل سعود کے استقلال کے بعد حج اول کے موقع  
پر جمعیتہ علماء ہند ہی وہ قابل ذکر مذہبی اور سیاسی جماعت تھی جس نے اپنا نمائندہ بھیج کر اطمینان  
ومسرت کا اظہار کیا۔“

(شاہ سعود والی عرب کا دورہ ہندس ۳۸ شائع کردہ لالہ رخ پبلیکیشنز سرینگر کشمیر)  
ناظرین نجدیوں کے جس فاتحانہ اقدام پر جمعیتہ علماء ہند نے فال نیک اور مبارک  
باد بھیجی اور جن اصلاحی مقاصد کی کامیابی پر اپنے اطمینان و مسرت کا اظہار کیا تھا ان کی لرزہ خیز  
داستان ملاحظہ ہو جس کا کچھ حصہ مولوی حسین احمد کے الشہاب سے آپ پڑھ چکے ہیں تاکہ  
سپانامہ کا پس منظر سمجھ میں آجائے۔ رپورٹ وفد کمیٹی جو کہ تحقیق حالات حجاز کے متعلق حجاز  
میں بھیجا گیا تھا ص ۸۰ تا ۸۹

مکہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ کی بعض مساجد نہ بچ سکیں مزارات کے قبوں کی طرح  
یہ مساجد بھی توڑ دی گئیں مثلاً مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسجد ثنایا، مسجد منارتین، مسجد ماندہ،

مسجد اجابہ کو شہید کر دیا گیا اور مزارات مثلاً مزارات شہزادیاں خاندان نبوت، مزارات ازواج مطہرات، مزارات مشاہیر اہل بیت، مزارات مشاہیر صحابہ و تابعین۔

حضرات باتمکین! یہ ہے فاتحانہ اقدام جس کو جمعیتہ علماء ہند نے حجاز مقدس کے لیے فال نیک اور جس پر مبارک باد پیش کی اور یہ ہیں اصلاحی مقاصد جن کے جمعیتہ علماء نے مفید مشورے دیئے اور جن کے قبول کرنے پر اس کو فخر و اطمینان اور دلی مسرت حاصل ہے اور یہی جمعیتہ علماء ہند ہے جس نے نجدی حکومت کو یقین دلایا کہ ہمیں بد عقیدہ کہنا غلط ہے بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو کہ آپ کا عقیدہ ہے جو کہ آپ کے ہاں درست وہ ہمارے ہاں بھی درست اور جو تمہارے ہاں ناجائز ہے اور غلط وہ ہمارے ہاں بھی غلط اور غیر صحیح ہے۔

۱۳ مارچ ۱۹۳۸ء کو مولوی محمد الیاس سلطان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے جلالتہ الملک نے بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر استقبال کیا اور اپنے قریب ہی ہندی معزز مہمانوں کو بٹھایا۔ اس کے بعد بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر رخصت کیا۔

(مختصر دینی دعوت ص ۱۰۰)

محمد الیاس صاحب کی دربار نجد سے خوشنودی کے پروانہ کے بعد ضابطہ کی کارروائی

ملاحظہ ہو۔

مولوی احتشام الحسن نے مقاصد تبلیغ کو اختصار کے ساتھ نوٹ کر کے شیخ الاسلام رئیس الفقہاء (چیف جسٹس) عبداللہ بن حسن (جو کہ ابن عبدالوہاب نجدی کی اولاد ہیں) کے پیش کیا۔ مولانا (الیاس) اور مولوی احتشام صاحب ان کے ہاں خود بھی گئے انہوں نے بہت اعزاز و اکرام کیا اور ہر بات کی خوب خوب تائید کی اور زبانی پوری ہمدردی و اعانت کا وعدہ کیا۔

خط کشیدہ جملوں کو ملاحظہ فرمائیے تو حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) سلطان جلالتہ الملک کے روبرو مقاصد تبلیغ خود مولوی احتشام الحسن نے بنا کر پیش کیے غالباً یہ وہی مقاصد ہوں گے جن کا ذکر اوپر ہو گیا ہے۔

(۲) سلطان نے استقبال اور الوداع اپنے مسند سے اتر کر کیا اور انتہائی اعزاز و اکرام کیا۔

(۳) ہندی مہمانوں کے ہرنوٹ و مقصد کی بھرپور حمایت کی۔

(۴) تکمیل مقاصد میں پوری ہمدردی کا اظہار کیا۔

(۵) اور تبلیغی مقاصد کی سرانجام دہی کے لیے ہر طرح کی اعانت کا وعدہ کیا۔

ناظرین کرام! اصلاحی مقاصد خود بنا کر پیش کرتے ہوئے ان کی نجدی حکومت سے تائید اور ان کی تکمیل کے لیے مکمل وعدہ لینا اور سلطان کا اعزاز و اکرام اس طور پر کہ مسند سے اترنا اور محبت سے پیش آنا وغیرہ اگر دونوں کے عقیدوں اور تبلیغی مقاصد میں یکجہتی و اتحاد نہ ہوتا کیسے متصور ہو سکتا ہے کیونکہ اتحاد نہ ہونے کی صورت میں یہ احترام ناممکن ہے بلکہ وہ ہوتا جو کہ اہلسنت و الجماعت کے ساتھ ہوا۔

بہر صورت یہ امر واضح ہو گیا کہ جمعیت علماء ہند اور دیگر علماء دیوبند نجدی عقائد اور اعمال اور ان کی تحریک کے مخالف نہیں بلکہ قریباً قریباً ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔

### جمعیت علماء ہند اور نجدی حکومت کا اعتقادی و عملی اتحاد

ناظرین کرام! آپ نے باور کر لیا ہوگا کہ جمعیت علماء ہند یعنی علماء دیوبند وغیرہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے مولوی حسین احمد کے ذریعہ دربار نجد میں سپاس نامہ پیش کیا تھا جس میں یہ مذکور ہے کہ حکومت نجد کا یہ اقدام فاتحانہ حجاز مقدس کے لیے فال نیک اور مستحق مبارک باد ہے اور اصلاحی مقاصد نوٹ کرائے گئے اور مفید مشورے دیئے گئے وغیرہ وغیرہ..... ظاہر ہے کہ فال نیک اور مبارکباد جیسے الفاظ اسی جگہ استعمال کے لیے جاتے ہیں جہاں کوئی چیز قابل تعریف اور ہر طرح سے مستحسن ہو وہ کی جائے۔ رہی یہ بات کہ حجاز مقدس میں کیا ہوا اور فاتحانہ اقدار وغیرہ کی نوعیت کیا ہے سو وہ مختصر غالباً وہی ہے کہ نجدی فوج کی یلغار سے عہد رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے آثار شریفہ اور بابرکت یادگاریں مٹادیں گئیں صحابہ اور

اہلیت کے مزارات پر انوار گرا دیئے گئے حرمین طہمین کی تاریخی مساجد گرا دی گئیں اور بلاوجہ حجاز مقدس کی اہلسنت والجماعت کی مسلمان آبادی کو مشرک قرار دے کر لاتعداد مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا جیسا کہ پہلے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب کے الشہاب سے نقل کیا گیا ہے۔

اس سے زیادہ وضاحت خلافت کمیٹی کے وفد کی رپورٹ سے ملتی ہے جس کے نمائندے حسب ذیل تھے۔ سید سلیمان ندوی، مولانا محمد عرفان، مولانا ظفر علی، سید خورشید حسن، مولانا عبدالماجد بدایونی، مسٹر شعیب قریشی کہ اس خلافت کمیٹی نے مکرر وفد بھیج کر حجاز مقدس کے حالات کی تحقیق کی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ فاتحانہ اقدام کی پوری تفصیل درج ہے جس کو پڑھ کر رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

بہر صورت سپانامہ میں جو مفید مشورے اور اصلاحی مقاصد کا ذکر ہے وہ یہی حالات تھے جو کہ اہلسنت والجماعت کے برخلاف رونما ہوئے کیونکہ اگر یہ مشورے اہلسنت اور حرمین طہمین کے موافق ہوتے تو حجاز میں یہ دلخراش کوائف پیدا نہ ہوتے نیز اہلسنت کے موافق یہ مشورے کیسے ہو سکتے تھے جب کہ سعودی حکومت اہلسنت کی سخت مخالف اور ان کے وجود کو ختم کر رہی تھی۔ ایسے ہی نمائندہ بھیج کر جس اطمینان و مسرت کا اظہار کیا گیا وہ اور کیا ہوگا یہی ہوگا کہ نجدی حکومت نے جو کیا اور کر رہی ہے وہ درست ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر گزبڑ نہیں ہونے دیں گے۔

مختصر یہ کہ جمعیت علماء ہند بھی یوں ہی معلوم ہوئی ہے کہ نجدی حکومت کے ساتھ ہر طرح سے شریک کار ہے۔

## ضروری نوٹ

حضرات! آپ کو معلوم ہے کہ یہی مولوی حسین احمد صاحب وغیرہ پہلے نجدی کردار و اعتقاد کے سخت خلاف تھے جیسا کہ الشہاب کے حوالجات سے ظاہر ہے اسی طرح ان کے ہم



خیال بھی مخالف ہی ہوں گے اور بالخصوص جمیۃ العلماء ہند کے افراد جن کی طرف سے مولوی حسین احمد نے دربار نجد میں سپاسنامہ پیش کیا وہ قطعی طور پر ان کے ساتھ ہوں گے مگر کس قدر رنج و افسوس کی بات ہے کہ جو ابھی ابھی عقائد فاسدہ و خیالات کا سدہ وغیرہ تھے وہ سب اب فوراً درست بلکہ عین سنت و اسلام اور مستحق مبارک باد اور فال نیک ہو گئے۔ ان حضرات کو پلٹا کھاتے ذرا جھجک محسوس نہیں ہوئی کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی اور ہمارے اس کارنامہ کو دنیا بار بار پڑھ کر کیا تاثر لے گی۔ (الی اللہ المہشکی)

## پاک و ہند میں تفریق بین المسلمین اور تبلیغی جماعت

ناظرین حضرات! اوراق مذکورہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دشمنان اسلام نے اسلامی اتحاد و اتفاق کو توڑنے اور اہل اسلام میں باہمی تفریق و نفاق کا بیج بونے کے لیے مختلف اسباب و وسائل سے کام لیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے دست و گریبان کرنے اور مختلف گروہوں کی صورت میں تتر بتر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جس کا نتیجہ آج مسلم آبادی باوجودیکہ وہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے غلامی و ناکسی وغیرہ کا شکل میں خمیازہ بھگت رہی ہے۔ چنانچہ ایک اور نیا حربہ تبلیغی جماعت کا وجود ہے۔

تبلیغی جماعت بظاہر اسلامیات کی دعوت دیتی ہے اور ایمان اور اصلاح عمل کا نقشہ پیش کر رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی تفریق بین المسلمین کی ایک شکل ہے اور اہلسنت و الجماعت کے خلاف پاک و ہند میں نجدی عقائد و اعمال کی تمہید اور تکمیل ہے۔ وجوہات حسب ذیل ہیں۔

وجہ اول: تبلیغی جماعت نے اپنے پالیسی انداز اور تکمیل مقاصد کے لیے دو محاذ قائم کیے ہیں۔

## تبلیغی جماعت کا مقصد وحید اور محاذ اول

اس جماعت کا مقصد اول اور محاذ اول یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ چنانچہ مولوی محمد منظور نعمانی ملفوظات الیاس ص ۷ پر رقمطراز ہیں: ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔

مولانا الیاس نے فرمایا۔ حضرت تھانوی سے تعلق بڑھانے حضرات کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرات کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور انکی زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔

(ملفوظات ص ۶۷)

حضرت تھانوی سے منتفع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی محبت ہو اور ان کے آدمیوں سے اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے منتفع ہوا جائے انکی کتابوں سے علم آئے گا اور ان کے آدمیوں سے عمل۔ (مکاتیب الیاس ص ۱۳۸)

## مندرجہ بالا حوالہ جات سے کیا ثابت ہوا؟

- (۱) تبلیغی جماعت کا مقصد حقیقی خدا تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی تعلیمات کا پھیلانا نہیں بلکہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا مقصد ہے۔
- (۲) اس جماعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھانوی کی روح کو خوش کیا جائے۔
- (۳) غیر اللہ یعنی تھانوی صاحب کی روحانی مسرتوں کا حصول انسانی زندگی کا نظریہ بنایا گیا ہے۔

ناظرین! اگرچہ یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں کیونکہ ہر شخص اپنا مقصد اپنی پسند کا متعین کرتا ہے۔ لیکن دھوکا ایک اخلاقی جرم ضرور ہے نیز اس میں غیر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا

Click

اور درجات کی ترقی کے لیے غیر اللہ کو سبب بنایا گیا ہے جو کہ ان حضرات کے مشن کے خلاف ہے۔

نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ مولوی الیاس صاحب اور تھانوی صاحب کا باہمی کیا رابطہ ہے یعنی یہ کہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔

آپ نے تھانوی صاحب کی تعلیمات کا ذرا سا حصہ اور اگلا گذشتہ سے معلوم کر لیا ہے ذرا سا اور سن لیجئے تاکہ تھانوی تعلیم کی حقیقت اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے آجائے۔

مولوی اشرف علی کے ملفوظات کے مرتب مولوی خواجہ عز الحسن لکھتے ہیں حضرت تھانوی نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھئے کہ میرا مادہ تاریخی (تاریخی نام) مکر عظیم ٹھیک ہے یا نہیں میں آخر شیخ زادہ ہوں۔ شیخ زادے بڑے فطرتی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی بہت فطرتیں آتی ہیں۔ حسن العزیز ص ۱۳

ظاہر ہے کہ مکر شرمناک عیب ہے تو پھر مکار اور فطرتی آدمی کی تعلیمات میں کتنا حسن و جمال ہوگا اور فرمایا کہ میں دعوت اور ہدیہ میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں ہوں۔ (کمالات اشرفیہ ص ۴۰۶)

آپ لکھتے ہیں کہ وہاں میں نے بدوں شرکت میلاد قیام کرنا قریب بحال دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا۔ کیونکہ منفعت بھی ہے مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے۔

(سیف یمانی مرتبہ مولوی منظور نعمانی ص ۱۲۴)

مکالمۃ الصدرین ص ۱۱ پر شائع کردہ دیوبند مولانا شبیر احمد عثمانی کا یہ بیان منقول ہے کہ انہوں نے مولوی حفظ الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ”دیکھئے حضرت مولانا ہمارے آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کو چھ صد روپیہ ماہوار حکومت پنجاب سے دیئے جاتے تھے۔

ظاہر ہے حکومت برطانیہ تھانوی صاحب کی مرید نہ تھی تو پھر یہ ماہانہ کسی خاص غرض

کے لیے ہی حکومت دیتی ہوگی جو کہ اسلام کے خلاف ہوگی۔

آپ کا سوانح نگار لکھتا ہے کہ تھانوی صاحب جن دنوں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں مدرس تھے انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ محلے کی کچھ عورتیں فاتحہ دلوانے کے لیے مٹھائی لے کر آئیں۔ تھانوی صاحب کے طلبہ نے فاتحہ کی بجائے مٹھائی لیکر خود کھالی۔ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ تھانوی صاحب کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو۔“

(اشرف السوانح ص ۴۵ ج ۱)

ناظرین کرام! ان حوالہ جات سے تھانوی تعلیم کی حقیقت روز روشن سے زیادہ واضح ہوگئی کہ وہ عقائد نجدیہ وہابیہ لکھنے کے ساتھ شیخ زادہ مجسمہ مکر عظیم حلال و حرام میں امتیاز سے بھی مستغنی ہیں دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دین و مذہب ترک کر دیتے ہیں۔ اپنی وہابی جماعت کے پیشوا بزرگ ہیں اور حکومت برطانیہ دشمن اسلام سے محض اس کے نظریوں کو پورا کرنے کے لیے ماہوار چھ سو روپے لیتے تھے اور فاتحہ اور نذر و نیاز وغیرہ کے سخت ترین مخالف تھے۔

میرے عزیز اور بزرگو! یہ ہے مولوی تھانوی صاحب کا نقشہ تعلیمات اور ان کا زہد اور تقویٰ جو کہ درحقیقت نجدی عقائد و اعمال کا دوسرا نام ہے جس کو تبلیغی جماعت پاک و ہند میں پھیلا دینا اپنا مقصد و حید تصور کرتی ہے۔ اب آپ حضرات خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے کیا سلف سے خلف اب تک اسلام کی حقیقت یہی سمجھتے رہے؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔

## تبلیغی جماعت کا مقصد و حید اور محاذ ثانی

میرے بزرگان ملت! اس جماعت کا دوسرا محاذ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے تجدیدی کارناموں کی تکمیل ہے۔ مولوی الیاس صاحب اپنے پیرومرشد مولوی رشید احمد

صاحب گنگوہی کی صفت و ثناء میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرات اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے اور مجدد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارا تجدیدی کام اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو بلکہ اس کے آدمیوں کے ذریعہ جو کام ہوگا وہ سب بھی بالواسطہ اسی کا ہے۔ (ملفوظات الیاس ص ۱۳۳)

ناظرین! تجدید کا لفظ ذہن نشین رکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ عقائد اہلسنت کی جگہ اور عقائد از سر نو لانا ہے۔ نیز اس عبارت سے امور ذیل ثابت ہوئے:

(۱) مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی الیاس صاحب کے پیرومرشد اور بقول ان کے وقت کے مجدد و قطب ارشاد تھے۔ (۲) یہ کہ ان کا تجدیدی نقشہ تکمیل رہا ہے۔ (۳) مولوی الیاس ان کے خلیفہ اور مجدد وقت ہیں اور تجدیدی نقشہ کو مکمل کرنے والے۔ لہذا ضروری ہے کہ مولوی رشید احمد مجدد وقت کا تجدیدی کارنامہ ظاہر کیا جائے تاکہ تکمیل حصہ کی نوعیت معلوم ہو سکے۔

مولوی رشید احمد صاحب موصوف کا اعتقادی اور عملی نقشہ حیات کچھ تو آپ سن چکے کچھ اور سمجھ لیجئے۔

(۱) مولوی رشید احمد صاحب کا اعتقاد یہ ہے کہ رحمۃ اللعالمین ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ نہیں بلکہ یہ وصف اوروں کی بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔ ”لفظ رحمۃ اللعالمین صفت خاصہ رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہے۔ (حالانکہ کتاب و سنت سے یہی واضح ہے کہ یہ وصف آپ کا ہی خاصہ ہے) چنانچہ مولوی اشرف علی کو اس وصف سے یاد کیا گیا۔ مصنف اشرف السوانح تھانوی صاحب کے متعلق لکھتا ہے۔.....“ حضرت والا (تھانوی صاحب) کی سراپا رحمت شخصیت پر بلا مبالغہ وَ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا وہ لقب صادق آتا ہے جس سے حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ العزیز نے شیخ العرب و العجم اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز (یعنی اپنے پیرومرشد) کو بعد وفات حضرت حاجی ممدوح کو یاد فرمایا تھا یعنی بار بار فرماتے تھے ہائے رحمۃ اللعالمین ہائے رحمۃ اللعالمین۔ (اشرف السوانح ص ۱۵۳ ج ۳) اس عبارت میں مولوی اشرف علی پر اور گنگوہی صاحب کے پیرومرشد حاجی

صاحب ہر دو پر رحمۃ اللعالمین کا اطلاق کیا گیا۔ مولوی رشید احمد صاحب کے اعتقاد میں کسی صحابی رسول پاک ﷺ کی تکفیر گناہ بیہ ضرور ہے مگر اس سے وہ اہلسنت سے خارج نہیں ہوتا۔ عبارت یہ ہے جو شخص صحابہ کرامی میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے کبیرہ کے سبب اہلسنت و الجماعت سے خارج نہ ہوگا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۴۱ ج ۲)

ظاہر ہے کہ جھوٹے شخص کو ملعون کہا جاتا ہے اور اس کی امامت بھی ناجائز مگر وہ مسلمان ضرور ہے تو گویا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی تکفیر سے انسان مسلمان ہی رہتا ہے اور اس کی یہ تکفیر صحیح ہے تو مولوی گنگوہی کے نزدیک چھٹی ہوئی کہ جس کی چاہو تکفیر کرتے جاؤ تم بہر صورت مسلمان ہی رہو گے۔ کیونکہ جب صحابہ کی تکفیر سے اسلام باقی رہتا ہے تو کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بڑھ سکتا ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اب نجات و ہدایت کا معیار صرف مولوی رشید احمد صاحب ہی ہیں اور کسی کی اتباع مفید نجات و ہدایت نہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔ سن لو! حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۱۷)

اس عبارت میں مولوی صاحب نے اپنے آپ کو پیغمبر ﷺ کے مقام پر لاکھڑا کیا ہے کیونکہ نبی و پیغمبر کا وجود ہی ہدایت و نجات کا معیار و موقوفہ علیہ ہوتا ہے علماء کرام کا کام پیغمبرانہ احکام کی اتباع کرنا کروانا مقصود ہوتا ہے۔

سوال: اگر کوئی شخص قبروں پر چادریں چڑھاتا ہو بزرگوں سے مدد مانگتا ہو یا بدعتی مثل جواز عرس رسوم وغیرہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ یہ افعال اچھے ہیں تو ایسے شخص سے عقد نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جو شخص ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاسق اور احمق کافر کا ہے اس سے نکاح کرنا دختر مسلمہ کا اس واسطے ناجائز ہے کہ فساق سے ربط و ضبط کرنا حرام ہے اور ایسے

فحش سے ابتدائی سلام درست نہیں اور اگر فساد اندیشہ ہو تو کرے اور عیادت اور جنازہ کے لیے بھی وہی حال ہے اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو کر لے ورنہ نہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۴۳ ج ۲)

(دیکھئے تبلیغی جماعت کے ذریعہ مسلم معاشرہ میں باہمی مناقشات کا یہ زہر پھیلانا کہاں تک مفید اور بامقصد ہو سکتا ہے)

مولوی رشید احمد نے لکھا ہے سوال جس جگہ زاغ معروفہ (کوا) کو اکثر حرام جانتے ہیں اور کھانے والے کو برا کہتے ہیں تو اس جگہ اس کو کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ جواب مرحمت فرمایا کہ ثواب ہوگا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۳۰ ج ۲)

ناظرین! یہاں تو سب جگہ کوئے کو حرام سمجھتے ہیں اور کھانے والے کو برا کہتے ہیں لہذا کوا کھانا کس قدر مفید ہوا اور موجب ثواب دیکھئے کیسی ترغیب ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی یہ کار ثواب کرتے نہیں دیکھے جاتے.....“ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بذریعہ منی آرڈر روپیہ بھیجنا درست نہیں اور داخل ربوہ (سود) ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۲۸ ج ۲) ملاحظہ فرمائیے کہ منی آرڈر کہاں پر جاری نہیں اور کونسا پرہیزگار اس سے محفوظ ہے تو یہ سب سود خوار اور مستحق عذاب ہوئے۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں عیدین میں معانقہ کرنا بدعت ہے اور ظاہر ہے کہ عیدین میں لوگ عموماً معانقہ کرتے ہیں اور مولوی صاحب کے ہاں یہ بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہے تو ایسا کرنے والے مسلمان عید کے روز عین بوقت خوشی معانقہ کرنے سے کیا ہوئے.....؟

مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد میں چارپائی بچھانا مقیم اور مسافر ہردو کے لیے درست ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۸۹)

ملاحظہ فرمائیے کہ جو مساجد کہ شرعاً محض اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں ان میں سہولت کے لیے مقیم و مسافر ہردو کو سونے کی اجازت مل گئی۔

## ان عبارات مذکورہ سے کیا ثابت ہوا

یہ کہ مولوی رشید احمد صاحب وقت کے قطب ارشاد اور مجدد تھے۔ ان کے نزدیک رحمۃ اللعالمین کا لقب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ غیر پر بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تکفیر سے انسان اہلسنت والجماعت بلکہ اسلام سے بھی خارج نہیں ہوتا۔ اس وقت ہدایت اور نجات کا حصول ان پر اور صرف ان پر حتمی طور پر موقوف ہے۔ بوقت ضرورت خوف وغیرہ بدعتی کا جنازہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ دسی کو کھانا جائز ہے بلکہ موجب اجر و ثواب ہے اور اس کو یہاں ضرور کھانا چاہئے کہ یہاں پر اس کو کھانا لوگ برا سمجھتے ہیں۔ بذریعہ منی آرڈر روپیہ بھیجنا سود و بیاج ہے۔ عیدین میں بعد نماز بغلگیر ہونا معافہ کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔ موجب عتاب و عذاب ہے۔ مسجدوں میں مسافر اور مقیم ہر دو کے لیے بلاعذر چار پائی بچھانی جائز ہے وغیرہ

ناظرین کرام! مولوی رشید احمد صاحب کے وہ نظریات جو کہ پہلے گزر چکے ہیں اور یہ جواب آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہ خاکہ تجدیدی ہے جس کی تکمیل کے لیے تبلیغی جماعت شب و روز مارے مارے پھرتی اور سرگرداں مختلف روپ بدلتی رہتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تبلیغی جماعت کا مقصد حیات اور جس کے لیے یہ معرض وجود میں آئی ہے یہ دو اور صرف دو محاذ ہیں۔

محاذ اول مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات مذکورہ کو ہر جگہ ہر اعتبار سے پہنچانا اور پھیلانا اور ان پر ہر ممکن امداد سے عملدرآمد کرنا اور کروانا اور محاذ دوم مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی قطب وقت اور مجدد زماں کے مذکورہ تجدیدی کارناموں کی تعمیل اور تکمیل کرنا اور کروانا۔

## مذکورہ محاذوں سے کیا ثابت ہوا

میرے بزرگوں اور عزیزو! اوراق مذکورہ سے یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ ہر دو محاذ درحقیقت عقائد نجدیہ وہابیہ کی مکمل تعلیم اور تکمیل ہے اور انہی حالات کے پیدا کرنے کے لیے

Click



ہے جو کہ نجدی پروگرام کا اصلی مقصد اور حقیقی پس منظر ہے۔ آپ ان ہر دو محاذوں کا بار بار جائزہ لیں اور غور کریں کہ ان میں اور نجدی اعمال و عقائد میں کیا فرق ہے۔ آیا یہ دونوں ایک ہیں یا غیر یقینی طور پر آپ جب کہ اس کے ساتھ ان کا اقرار وہابی ہونا بھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور نجدی دربار سے اس کی تائید کا ملاحظہ فرمائیں گے تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ ہر دو محاذ اور نجدی نظریات ایک ہیں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ تبلیغی جماعت دیوبندی نجدی وہابی جماعت ہے۔ ہذا ہوا المراد۔

وجہ دوم: تبلیغی جماعت کے نجدی وہابی ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے۔

جمشید پور سے ایک سوال مورخہ ۱۵ فروری ۱۹۵۴ء کو آیا کہ تبلیغی جماعت کے نام

سے ایک نیا گروہ چند سال سے پیدا ہوا ہے جس کے بانی مولانا محمد الیاس تھے۔ اور آجکل انکی جگہ پر انکے بیٹے مولوی محمد یوسف امیر جماعت کام کر رہے ہیں۔ آپ اس جماعت کے مذہبی عقیدوں سے واقف ہوں گے۔ ازراہ کرم صحیح حالات سے مطلع فرمائیں مختصر۔

خوابہ حسن نظامی نے ۲۵ فروری ۱۹۵۴ء کو جواب دیا کہ تبلیغی جماعت کے سب

لوگ درگاہوں اور عرسوں اور نذر و نیاز کے مخالف ہیں اور جب سے مولوی محمد یوسف نے جماعت بندی کی ہے ہر جمعرات کو بہ کثرت ایسے لوگ آتے ہیں جو درگاہوں کے مخالف ہیں۔ چنانچہ ایک سال میں اس جماعت کے نو آدمی روضہ شریف کے اندر جوتیاں لیکر چلے گئے اس پر لڑائی ہوئی اور فریقین کے زخمی مردوں عورتوں کو پولیس میرے پاس لے آئی اور میں نے دونوں میں صلح کرادی ورنہ دونوں جیل جاتے۔ بہر حال اس خاندان کا شاگرد ہوں مگر ان کے عقائد کے خلاف ہوں۔ (ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں کیا نجدی کردار اور اس میں کچھ فرق ہے؟)

جنرل سیکرٹری جماعت نظامیہ درگاہ نظام الدین دہلی کا جواب ملاحظہ ہو.....“ گرامی

نامہ شرف صدور لایا۔ آپ نے جس جماعت کے متعلق استفادہ فرمایا ہے وہ ہمارے صوفیاء کرام کے عقائد کی منکر ہے اور مزارات اولیاء کے انہدام کو ثواب اور نذر و نیاز فاتحہ میلاد

شریف عرس وغیرہ کو حرام سمجھتی ہے اس جماعت سے علیحدہ رہنا ضروری ہے ورنہ عقائد خراب کرنا اور لوگوں کو تبلیغ اسلام کے نام پر بد مذہب اور گمراہ کرنا انکا اول اصول و فرض ہے۔“  
دعا گو سید ظہور حسین نظامی عزیزی

تبلیغی جماعت کی متعدد درسگاہ مدرسہ امینیہ دہلی کے دارالافتاء سے ایک خط کا جواب سنئے:  
”تقویت الایمان، شتی زیور وغیرہ مذکورہ کتابیں مستند اور صحیح ہیں ان کے لکھنے والے متدین عالم تھے جو ان کتابوں کو باطل کہتا ہے وہ گمراہ ہے یہ بات غلط ہے کہ مولانا..... محمد الیاس مرحوم اور مولوی محمد یوسف ان کتابوں کے خلاف ہیں۔ گیارہویں تیجہ وغیرہ کو یہ ناجائز بتا سکتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات مولوی اسماعیل شہید مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولانا تھانوی کے ماننے والے ہیں۔“ (محمد ضیاق الحق دہلوی مدرسہ امینیہ دہلی)

### ان عبارات اور جوابات سے کیا ثابت ہوا؟

(۱) انکا کردار بعینہ نجدی کردار ہے۔ (۲) یہ جماعت تبلیغ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر عقائد صحیحہ سے ہٹا کر عقائد فاسدہ باطلہ کی تعلیم کے ذریعہ گمراہی کا سبق دیتی ہے۔ (۳) اس جماعت سے علیحدہ رہنا نہایت ضروری ہے۔ (۴) وہابیہ نجدیہ کے عقائد اور اعمال کی تعمیل ضروری اور فرض سمجھتی ہے۔ (۵) تقویت الایمان وغیرہ جو کہ نجدی عقائد کی صحیح ترجمان ہیں بڑی مستند اور قابل عمل کتابیں ہیں کہ ان کے خلاف چلنا محض گمراہی اور جہالت ہے اور مولوی الیاس اور ان کے بیٹے مولوی محمد یوسف کا معمول یہی کتابیں ہیں اور یہ اور مولوی اسماعیل و اشرف علی وغیرہ سب ہم عقیدہ ہیں۔

مولوی، مرعشیانی دیوبندی تجلی مارچ ۱۹۵۷ء میں لکھتے ہیں:- ”میں نے دیکھا کہ شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان میں فصل فی الاجتناب عن الاشراک کے ذیل میں لکھا ہے..... ”ہر مخلوق چھوٹا ہوا یا بڑا وہ اللہ کی شان کے آگے چھارے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔“ کیا اس کا صاف اور بدیہی مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء اور صحابہ رضی اللہ عنہم تو ایک طرف رہے تمام

انبیاء و رسل اور خاتم النبیین ﷺ بھی اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ کیسا خطرناک انداز بیان ہے۔ تن کو لرزا دینے والے الفاظ ہیں (اور یہ صحیح ہے کہ مولوی اسماعیل نے خود اس تیزی اور الفاظ کی خطرناکی کو تسلیم کیا ہے) چنانچہ مشہور ہے کہ جب مولوی اسماعیل نے تقویت الایمان کو لکھا تو احباب کے روبرو اس کو پیش کیا اور یہ کہا کہ اس میں تیزی اور افراط و تفریط ہو گئی ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے (جن سے مسلمان کافر نہیں ہوتا) شرک جلی لکھ دیا گیا ہے یعنی اسلام سے خارج کرنے والے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اسکی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔“

ناظرین! مصنف تقویت خود اقرار کر رہا ہے کہ اس میں الفاظ تیز اور غیر شرک کو شرک یعنی غیر کفر کو کفر لکھ دیا ہے اور اس سے ضرور شورش ہوگی (کیونکہ یہ عقائد حقہ کے خلاف اور عقائد نجدیہ کا عسک ہے) اور اس کی اصلاح نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی دوسرا ہے جو اس کی اصلاح کر دیتا۔

کس قدر افسوس ہے کہ ایک اپنے کو مسلمان کہتا ہوا کیسی کتاب لکھ رہا ہے جو کہ سواد اعظم کے خلاف ہے اور جس میں غیر کفر کو کفر کہا جا رہا ہے اور یہ کہ وہ امت مرحومہ میں ایک زہریلا انقلاب پیدا کر دے گی۔ تہمت اور افتراق کا دروازہ کھول دے گی کتنوں کو بے ایمان اور گمراہ بنا دے گی اور ستم بالا ستم یہ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی جو کہ اس کتاب کو بر طریق توجیہ القول بمآلا یرضی بہ قائمہ بعینہ کتاب و سنت کی حامل اور ان کا عکس بتا رہی ہے جب کہ اس کا مصنف اور اسکے ہم نوا افرار ہیں کہ اس میں تشدد و غلو غیر شرک کو شرک وغیرہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور اس سے ایک بے پناہ شورش اور انقلاب پیدا ہو جائے گا کیونکہ یہ کتاب و سنت اور جمہور اہلسنت کے خلاف ہے۔ اس کا پڑھنا لکھنا رکھنا ضروری اور اس کی تبلیغ حقیقی اسلام قرار دے رہی ہے۔ مصنف کے خلاف تشریح کر رہی

ہے..... بہر نوح ان فتاویٰ جات اور حوالجات سے اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ تبلیغی جماعت اور اس کے ہم خیال حضرات کے عقائد و اعمال اور نجدی عقائد و اعمال ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں دونوں میں کچھ فرق نہیں اور ستم بالاستم یہ کہ وہابی عقائد و اعمال رکھنے کے باوجود اپنے کو اہلسنت و جماعت اور حنفی مقلد ظاہر کرتے ہیں اور اقرار وہابی ہونے کے ساتھ جب ان کو وہابی کہا جائے تو سخت چڑتے اور انتہائی طور پر برا مناتے ہیں حالانکہ بات واضح ہے کہ حنفی کو محض اس وجہ سے حنفی کہا جاتا ہے کہ اس کے معمولات حنفی مسلک پر ہیں تو جب مسلک انکا وہابی ہو اور اس کا ان کو اقرار و اعتراف بھی ہے تو پھر وہابی کہنے پر چڑنے کا کیا مطلب؟

بہر نوح ان حوالجات سے ثابت ہوا کہ جماعت تبلیغی اور نجدی حضرات کے عقائد و اعمال میں چونکہ اتحاد اور توافق ہے لہذا تبلیغی جماعت بھی نجدی ہے۔

وجہ سوم: تیسری وجہ تبلیغی جماعت کے نجدی ہونے کی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی دعوت اور نجدی دعوت کی نوعیت ایک معلوم ہوتی ہے مثلاً نجدی تحریک کا ابتدائی انداز یہ تھا کہ اس میں پہلے کلمہ کا پرچار کیا گیا۔ پھر اعمال و اخلاق کی اصلاحی صورتیں اختیار کی گئیں۔ پھر اجتماعی طور پر چلت پھرت کا دور چلا اور توحید اور اخلاص پر زور دیا گیا اور پھر جب اکثریت ہو گئی تو بعض خارجی وسائل کے تعاون سے یہی دعوت جبر و قہر کی صورت اختیار کر گئی اور حصول اقتدار و حکومت پر منتج ہوئی۔ چنانچہ مسعود عالم ندوی محمد ابن عبدالوہاب نامی کتاب میں شیخ نجد کی زندگی کی تاریخ لکھتے ہوئے ان کی ابتدائی دعوت و تبلیغ کا حال یوں لکھتا ہے..... "حریسلا کی واپسی کے بعد انہوں نے بدعات کے استیصال اور توحید و اخلاق کے عام کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ دعوت کی بنیاد توحید پر رکھی لالہ الا اللہ کا بول بالا"..... ان کا شعار تھا (محمد بن عبد الوہاب ص ۲۳) اور شیخ محمد ابن عبدالوہاب کے اپنے الفاظ یوں ہیں۔ ان الذی انافقت بہ و دعوت الیہ کلمة لا الہ الا اللہ و ارکان الاسلام و الامر بالمعروف والنہی عن المنکر (ترجمہ) "یہ جس کی میں محمد ابن عبدالوہاب دعوت دے رہا ہوں۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ارکان اسلام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔"

درعیہ ایک نامی قصبہ ہے شیخ نجد کے تبلیغی مرکز کے قیام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- ”شیخ کی تشریف آوری سے پہلے درعیہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں جہاں جہاں گرم بازاری تھی۔ شیخ نے سب سے پہلے وعظ اور اس کے حلقے قائم کیے اور خود صبح و شام تک آنے والوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے اور اپنی دعوت (دعوت توحید) اخلاصاً فی عبادۃ اللہ کی اہم اور ضروری چیزیں ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتے۔“ ص ۳۴

حلقوں کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- ”اب تک شیخ کی دعوت نجد کے اضلاع تک محدود تھی لیکن یہ دعوت عالم تھی۔ اصلاح کی ضرورت صرف نجد میں نہ تھی بلکہ تمام اسلامی دنیا انحاط کے عالم میں تھی۔ اصلاح کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر عینہ اور حریملا درعیہ عارض کے دوسرے قصبے شیخ کی دعوت کے اولین مرکز بنے لیکن جونہی ان علاقوں میں زندگی کی علامتیں ظاہر ہوئیں شیخ نے اپنی دعوت کا حلقہ وسیع کیا اور دور دور شہروں کے علماء امراء قضاة کے پاس تبلیغی خطوط بھیجے اور ان میں اپنی دعوت کے قبول کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔“ ص ۳۷ ایسے ہی یہ حلقے بڑھتے گئے حتیٰ کہ جب اکثریت حاصل ہوئی تو ایک لخت یہ سب کچھ جبری و قہری شکل میں بدل گیا اور حصول اقتدار و حکومت کا ذریعہ بن گئے۔

بہر صورت اسی طرح بعینہ تبلیغی جماعت کا یہی مشن ہے کہ تحریک کو تحریک ایمانی سے شروع کیا ہے اور کلمہ، نماز تسبیح تکبیر کی تبلیغ اور جماعتی اور انفرادی گشت اور چلت و پھرت کے لیے سفر وغیرہ کی آج جس طرف دیکھئے کہ یہ جماعت پھیلتی جا رہی ہے اور اہلسنت والجماعت کے شعائر و معمولات وغیرہ سے ہٹائی جا رہی ہے حتیٰ کہ جب بکثرت اس کا وجود ہو جائے گا تو نجدی حکومت کی طرح ایک لخت حاصل کردہ وسائل کی اعانت سے یہ جبر و قہر و تشدد کی صورت اختیار کر لے گی اور حکومت و اقتدار حاصل کرے گی اور نجدی حکومت کا ہاتھ بٹا کر دنیاوی مقاصد سے مستفید ہوگی اور غالباً یہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ تحریک ایمانی گواصولی طور پر اول ہے اور تحقیق اعمال کا معیار حقیقی ہے کہ ایمان و عقیدہ صحیح نہ ہو تو سب عمل بیکار

ہو جاتے ہیں لیکن اس سے عوام کو زیادہ متاثر نہیں کیا جاسکتا بلکہ اظہار عقیدہ سے سربستہ راز فاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور تحریک کی کامیابی زیادہ دیر تک خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ بہر صورت اس دعوتی اتحاد و اتفاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت اور نجدی جماعت دونوں ایک ہی چیز سے عبارت ہیں۔

وجہ چہارم: چوتھی وجہ جماعت تبلیغی کے نجدی حکومت کے ساتھ متحد ہونے کی یہ ہے کہ نجدی حکومت کی ابتداء یوں ہے کہ محمد ابن عبدالوہاب نے کلمہ نماز اصلاح اعمال توحید وغیرہ کو بڑے زور سے رواج دیا اور ان کی توجہ کو شجائر اہلسنت اور عقائد صحیحہ سے تدریجاً پھیرا۔ پھر جب اکثریت ہو گئی تو وہ آیات اور احادیث جو کہ کافروں اور مشرکوں کے متعلق وارد ہوئی تھیں ان کو اہلسنت و الجماعت اہل حجاز کے عقائد و اعمال پر اپنے نامحمود اور ناقابل تعریف انداز سے منطبق کیا اور پھر اس بنا پر انکو مشرک اور کافر قرار دیا۔ پھر ان سے مشرکین کا سا سلوک اور ان کا قتل و قتال شروع کر دیا اور ان کے تمام مقبوضات اور مملوکات کو مال غنیمت سمجھ کر اپنی خواہشات میں صرف کیا جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ نجدی نے اہل حجاز کو یوں خطاب کیا..... ”اے باشندگان حجاز! تم ہامان اور فرعون سے بھی بڑھ کر ہو ہم تمہارے ساتھ اسی طرح قتال کریں گے جس طرح کفار سے کیا جاتا ہے۔ تم امیر حمزہ اور عبدالقادر (جیلانی) کے پجاری ہو۔“..... اور دشمنان اسلام کے تعاون و مدد سے خوف قتل و غارت کی اور حکومت قائم کر لی اور اعداء دین کو خوش کرتے ہوئے مسلمانوں میں باہمی تفریق کا ہمیشہ کے لیے بیج بودیا تو گویا کلمہ نماز اصلاح اعمال۔ اتباع کتاب و سنت کو حصول اقتدار کا ذریعہ بنایا گیا اور یہ ممکن ہے جیسا کہ جماعت مرزائیہ نے حکومت برطانیہ کے وجود و بقا کے لیے اور اس کے مفاد کے پیش نظر عالم اسلام میں تبلیغ اسلام کو آلہ بنایا اور مولوی ابو الاعلیٰ مودودی نے اسلامی نظام کو کسی اپنی غرض حصول اقتدار یا سرمایہ دارانہ نظام وغیرہ کے لیے آلہ بنایا اور غیر مقلدوں نے پرچار توحید کو آلہ بنایا اور اہل اسلام کو کیا سے کیا کہہ دیا۔ بناء علیہ معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت نے بھی تحریک ایمان کو اولاً اور تحریک اصلاح عمل کو ثانیاً حصول اقتدار کے لیے آلہ بنا رکھا ہے۔ دیکھئے محمد علی

جوہر نے حجاز سے واپسی پر جو تاثر جامع مسجد دہلی میں ایک عظیم اجتماع کے روبرو حلفیہ طور پر ظاہر کیا وہ حسب ذیل ہے:..... ”سلطان ابن سعود اور ارکان حکومت بار بار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی رٹ لگاتے تھے لیکن میں نے تو یہ پایا کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو دنیا کمانے کے لیے آلہ بنا رکھا ہے جو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں چوری کرتے ہیں برا کرتے ہیں لیکن جو لوگ قرآن و حدیث کو آڑ بنا کر دنیاوی حکومت حاصل کرتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی برا کرتے ہیں۔“ (مقالات محمد علی ص ۹۵ و ۹۶ ج ۱)

لہذا عین ممکن ہے کہ تبلیغی جماعت نے بھی کلمہ نماز توحید وغیرہ کو آلہ بنا رکھا ہو اور مطلب حصول اقتدار ہو کہ جب کثرت حاصل ہو جائے تو یہ سب تواضع و مدارات جبر و قہر کی صورت میں بدل جائے اور حجاز مقدس کے سے حالات پیدا کر دیئے جائیں یعنی دوسروں کے اعمال کو شرک اور کفر قرار دے کر وہی نجدیانہ طریق کار اختیار کر لیا جائے۔

ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اب اخلاصی تحریک نہیں رہی بلکہ وہ آہستہ آہستہ ایک نئے دین میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جماعت تبلیغی والے اپنے علاوہ سب کو کافر و مرتد تصور کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا کیونکہ تبلیغی جماعت کے مرکز پر ایمان لانا اب اسلام کا چھٹا رکن بن گیا ہے۔ چنانچہ مولوی عبد الرحیم دیوبندی رکن تبلیغی جماعت فرماتے ہیں:..... ”میں حیران ہوں کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں کب سے تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ایمانیات میں داخل ہو گیا ہے اور اسکا منکر کافر قرار پاتا ہے۔“ (چشمہ آفتاب ص ۶۱)

نیز آپ فرماتے ہیں:..... ”ہمارے میوات والے ماشاء اللہ عرب و عجم میں مسلمان بناتے بناتے اکتا گئے ہیں جی بھر گیا ہے اس لیے میوات کے بعض سرگرم مبلغین اور علماء نے مسلمانوں کو مرتد و کافر بنانا شروع کر دیا ہے۔“ ص ۶۱ ”اگر ذرا بھی طاقت حاصل ہو جائے اور جو کہ مرکز نہ آئے تو اسے تو بالکل مرتد کے درجہ میں سمجھتے ہیں۔“ (نور محمد چندینی ص ۶۰)

ناظرین! ملاحظہ فرمائیں کہ نجدیوں کی طرح اوروں کو بلکہ اب خود اپنوں کو بھی

کافر اور مرتد سمجھا جائے گا۔ اور اب صرف جبری اور قہری قوت کی ضرورت ہے تاکہ وہی خاکہ نجدیت یہاں بھی دہرا دیا جائے۔

روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ تبلیغی جماعت میں کلی اتحاد ہے اور دونوں کا منصوبہ ایک لہذا دونوں کی شرعی حیثیت ایک، دونوں کی جزا و سزا ایک بہر صورت ان چار وجہوں سے ثابت ہوا کہ تبلیغی جماعت اور نجدی گروہ کا عقیدہ اور کیفیت عمل اور ہردو کا پس منظر ایک ہے اور صرف ایک اور دونوں ہی کا شفاعت میں انکار ایک..... ہذا ہوا المراد

## تبلیغی جماعت کا نقشہ حیات

حضرات! اب ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت شب و روز نیک اعمال اور اصلاح حالات کی دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرتی رہتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خود اس کے اپنے عملی اور نظری تاثرات کیا کچھ ہیں۔

مولوی عبدالرحیم دیوبندی فرماتے ہیں..... ”خیال کیجئے جو تحریک علماء اور عوام میں ربط پیدا کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی وہی تحریک آج علماء و مدرسین سے بعد و دوری کا سبب بنی جا رہی ہے کچھ عجیب سی بات ہے جو تبلیغی جماعت سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسرے علماء سے بعید تر ہوتا چلا جا رہا ہے آخر ایسا کیوں؟ اور جس نے دو چار چلے دیدیئے تو پھر اس کی ترقی درجات کا کیا کہنا پھر تو وہ علماء کی کوئی حقیقت اپنے سامنے نہیں رکھتا۔“ (ص ۵ چشمہ آفتاب)..... فرماتے ہیں۔ ”البتہ یہ تو میں بھی سن رہا ہوں کہ حضرت تھانوی قدس سرہ کے بعض خلفا اور خواص اس تبلیغی جماعت کو پسند نہیں کرتے۔“ (چشمہ آفتاب ص ۱۱) آپ فرماتے ہیں۔ ”اب آپ حضرات سے ہی دریافت کرتا ہوں کہ ایک طرف تو عاجزی اور انکساری کی نمائش دوسری طرف استغناء و برتری کا یہ عالم..... آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ اس عاجزی میں کتنا اخلاص ہے۔“ (چشمہ آفتاب ص ۶۰)

آپ فرماتے ہیں۔ ”ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دوں علماء کرام کے ذہن میں یہ آتا



ہے کہ چلو دین کا تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے ہوتا رہے، غلطیاں کہاں نہیں ہوتیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غور سے کام نہیں لیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے نمازی عملی قصور ہے اور علماء مدارس کا استخفاف اور افضل کو غیر افضل یا غیر سنت (بدعت) کو سنت سمجھنا اعتقادی قصور ہے۔ میں یہ سمجھنے میں قاصر ہوں کہ چند اعمال کی اصلاح کے پیش نظر عقائد میں قصور کو نظر انداز کر دینا کہاں تک شرعی نقطہ نظر سے درست ہے۔ صحیح عقائد مدارجات ہیں۔ اعمال مدارجات نہیں۔“  
(چشمہ آفتاب ص ۵۲-۵۳-۵۶)

مولوی احتشام الحق کاندھلوی (بقول خود) اس تحریک کے بانوں سے ہیں انہوں نے حال ہی میں تبلیغی جماعت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کو گمراہی کی طرف دعوت دینے والی جماعت قرار دیا ہے۔“ (چشمہ آفتاب ص ۳)

آپ نے واضح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس سرہ العزیز کی وفات سے کتنے عرصہ بعد میں یہ تبلیغ بدعت حسنہ سے خارج ہو کر بدعت ضلالت اور ملت کی تباہی کا ذریعہ بن گئی تھی کیا مصلحا ہی ایسا ہوا؟ (چشمہ آفتاب ص ۶)

جہاں پر بھی تبلیغی جماعت کا اقتدار ہے ائمہ مدرسین کو مخالف قرار دے کر فوراً ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے خواہ وہ کیسی تعلیمی صلاحیت رکھتا ہو۔ میں اسکی تفصیل بھی پیش کر سکتا ہوں۔ (اصول دعوت و تبلیغ ص ۴۸)

”کیونکہ جب ان نابالغ مقتداؤں (تبلیغی جماعت کے جاہل مبلغین) نے خطاب عام شروع کر دیئے ہیں جن کی شرعاً ان کو اجازت نہیں اور انہوں نے اس کام کی افضلیت پر حد سے تجاوز کیا اور دوسرے دینی شعبوں کی کھل کھلا تخفیف (تحقیر) شروع کر دی۔“

(اصول دعوت و تبلیغ ص ۴۳، ۵۲)

مولوی عبدالرحیم صاحب دیوبندی نے مزید ان حالات پر روشنی ڈالی جو فی زمانہ کچھ ناواقبت اندیش مصنوعی دین کا درد رکھنے والوں (تبلیغی جماعت والے) کی جانب سے رونما ہو رہے ہیں میوات کا علاقہ خاص طور پر انکا شکار ہے۔ حیرات کا مقام ہے کہ جو کام اہل

علم کا ہے وہ ایسے لوگ سرانجام دینا چاہتے ہیں جو نہ صرف دین سے نا آشنا ہیں بلکہ اپنی سفاہت اور جہالت اور اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے معاشرہ میں بھی کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے یہ تو ایسا سمجھئے کہ

اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ سَيَهْدِيهِمْ طَرِيقَ الْهَالِكِينَ  
جب کوئی قوم اپنی رہنمائی کے لیے کوئے کا انتخاب کرے تو عنقریب وہ ان کو ہلاکت کے کوئیں میں ڈال دے گا میں ہر جمعہ کو مولانا محمد یوسف کی خدمت میں برابر حاضر ہوتا تھا اور جماعت کے بے ضابطہ مقررین کی شکایت عرض کرتا رہا کہ میں بہت سے موقعوں پر خود سن چکا ہوں کہ یہ لوگ علماء کرام اور مدارس کا مختلف انداز سے استخفاف کرتے ہیں یعنی تحقیر کرتے ہیں آپ حضرات کو جلد از جلد اس کی شدت سے روک تھام کرنی چاہئے۔ علماء کرام کو سخت شکایات ہیں۔“ (اصول دعوت و تبلیغ ص ۴۳)

”اگر حق تعالیٰ کسی سے کام لینا نہیں چاہتے تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کریں تب بھی ذرہ نہیں ہل سکتا اور اگر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے نہ ہو سکے۔“ (مکاتیب الیاس ص ۱۰۷)

”غور کا مقام ہے کہ کوئی شخص بغیر سند کے کپوڈر تک نہیں ہو سکتا۔ مگر ان لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جس کا بھی جی چاہے وعظ و تقریر کرنے کھڑا ہو جائے کسی سند کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی موقع پر یہ مثال یہ خوب صادق آتی ہے۔ نیم حکیم خطرہ جاں نیم ملاں خطرہ ایمان۔“ (اصول دعوت و تبلیغ ص ۵۴)

مولوی عبدالرحیم صاحب دیوبندی فرماتے ہیں۔ میرے بزرگو! جب ناواقف اور نااہل لوگ مسند خطاب پر فائز ہوں گے تو وہ اپنے مبلغ علم کے مطابق ہی نہیں بولیں گے بلکہ اپنے علم سے آگے نکلتے پیدا کریں گے۔ ان کو اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ لوگ اپنے خطاب میں علماء پر تنبیہات فرماتے ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب شیخ جامعہ طیبہ حال صدر جمہوریہ مدت سے مولوی

الیاس کی خدمت میں رہے اور اس تحریک کے مؤید نے ایک خط کلکتہ سے ایک خاتون کے نام لکھا تھا جو کہ انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس میں چھپا تھا۔ موصوف لکھتے ہیں..... ”ہندوستان میں ایک ایسی پرستش گاہ کی ضرورت ہے جہاں مختلف مذہبوں کے لوگ جا جا کر اپنے خدا کی عبادت کریں۔ مختلف مذاہب تو بس ایک ہی حقیقت کبریٰ (منزل مقصود) کے لیے مختلف راستے ہیں۔ ہم بہت بڑا کام کر ڈالیں گے اگر کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے اس سوچ کی عادت ختم ہو جائے کہ ایک ہی متعین سڑک اور راستہ ہے۔“

(انڈین ایکسپریس ۸ اکتوبر ۱۹۶۸ء)

ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ہے ذہن اس مبلغ دین کا جو کہ عرصہ دراز تک مولانا الیاس صاحب اور ان کی تبلیغی جماعت کے فیضان سے بہرہ مند ہو چکا ہے۔ دینی زندگی کی بات الگ رہی۔ اس کو اس بنیادی قرار داد کا بھی انکار ہے کہ صرف اسلام ہی خدا کا سچا دین اور سیدھا راستہ ہے۔ بتائیے جماعت کے ایسے تاثرات کی کوئی جگہ ہے؟

ان عبارات اور حوالجات سے کیا ثابت ہوا۔ تبلیغی جماعت چند چلوں کے بعد عمل کو عقیدہ اور ایمان پر ترجیح دیتی ہے بلکہ اس ظاہری اور محدود عمل کی وجہ سے علماء و مدرسین اور مدارس کی استخفاف اور تحقیر کرتی ہے اور داؤ چلے تو ان کو خدمات سے الگ کر دیتی ہے اور گوہ وہ کتنے لائق ہوں وہ منصب خود سنبھال لیتی ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ چند روز کے بعد علماء و مدرسین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جماعت بجائے ایمان کے عمل کو معیار نجات تصور کرتی ہے اس کے ایک طرف تو فروتنی اور انکسار ہے دوسری طرف استکبار و انانیت ہے۔ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت قرار دیتی ہے۔ گمراہی کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ بدعت حسنہ سے بدعت سیئہ بن گئی ہے اس کو وعظ کا حق نہیں بوجہ جہالت یہ ناقابل توجہ ہے۔ یہ جماعت دین سے نا آشنا ہے اپنی بد کرداری کی وجہ سے معاشرہ میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کے بعض ذمہ دار افراد ایسے ہیں جو کہ اسلام اور صرف اسلام کو ذریعہ نجات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعض مبلغ نہ صرف جاہل ہیں اور بے دین بلکہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے معاشرہ میں

کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ رہنمائی کے لائق نہیں جو کام انبیاء سے بھد کوشش نہ ہو سکے وہ اللہ چاہے تو ان کے ادنیٰ سے کرا لے۔ اس کے مبلغ بلا سند و عطا کرتے ہیں۔ اپنے مبلغ علم سے بڑھ کر علماء پر تنبیہات کرنے سے نہیں چوکتے۔ اپنے عمل پر اتراتے ہوئے دوسروں کو ذرا سی غلطی پر کافر اور مرتد کہنے لگتے ہیں بلکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ ان کو ابھی تک یہی باور نہیں ہو سکا کہ نجات اخروی کے لیے صحیح راستہ صرف اسلام ہی ہے۔ وغیرہ وغیرہ

### عقیدہ کی شرعی اہمیت

شریعت مطہرہ میں نیک اعمال اور پاکیزہ اخلاق انتہائی طور پر مرغوب اور محبوب ہیں۔ حصول برکات اور نزول انوار کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا و آخرت میں ایک مستحسن امر ہے لیکن عقیدہ کو ایک بنیادی اور معیاری حیثیت حاصل ہے کہ اس کے نہ ہونے یا قابل تعریف نہ ہونے کی صورت میں نجات خطرہ میں پڑ جاتی ہے اور اعمال سب کے سب بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔

”جلی“ دیوبند میں مولانا عامر دیوبندی لکھتے ہیں..... عقیدہ و خیال کی ایک خرابی بھی بعض موقعہ ایسی شدید ہوتی ہے کہ تمام اعمال خیر فاسد ہو جاتے ہیں مثلاً کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو یا صحابہ کرام کی عزت اس کے دل میں نہ ہو یا احادیث صحیحہ کو تاریخ سے زیادہ حیثیت و وقعت نہ دیتا ہو۔ تو ان میں سے ہر بات بجائے خود اتنی قبیح ہے کہ اس کی قباحت کو حسن اعمال کا پورا دفتر بھی کم نہیں کر سکتا۔ جہاں یہ قباحت پائی جائے گی وہاں اگر نیکو کاری کے پہاڑ بھی کھڑے ہوں تو بھی یہی کہا جائے گا کہ انکا کوئی اعتبار نہیں۔“ (جلی دیوبند جون ۱۹۵۸ء ص ۱۹)

”یہ سب اعمال و اقوال ہیں۔ عقائد ان سے جداگانہ چیز ہے صحت عقائد کے ساتھ فساد اعمال و احوال اور فساد عقائد کے ساتھ صحت اعمال و احوال جمع ہو سکتی ہے۔“

(حکیم الامتہ ص ۴۷۶)

”بددین آدمی اگر دین کی بھی باتیں کرتا ہے تو ان پر ظلمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی تحریر کے نقوش میں بھی ایک گونہ ظلمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے بے دینوں کی صحبت اور بے دینوں کی کتابوں کا مطالعہ ہرگز نہ کرنا چاہئے۔“ (کمالات اشرفیہ ص ۵۵)

مولوی عبدالرحیم دیوبندی فرماتے ہیں..... ”میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چند اعمال کی اصلاح کے پیش نظر عقائد میں قصور کو نظر انداز کر دینا کہاں تک شرعی نقطہ نظر سے درست ہے۔ صحیح عقائد مدار نجات ہیں اعمال مدار نجات نہیں۔“ (چشمہ آفتاب ص ۱۶)

”ہمارا تبلیغی کام صرف عمل صالح کے لیے نہیں ہے بلکہ اول یہ ایمانی تحریک ہے اور بعد میں اعمال صالح کی تحریک ہے۔“

(قلمی مکتوب محمد عاشق الہی مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین دہلی)

ناظرین کرام! ان حوالجات سے عقیدہ کی اہمیت شرعی نقطہ نظر سے واضح ہوگئی کہ عقیدہ کی اولیت اور اس کی صحت ایک بنیادی اور معیاری حقیقت ہے کہ اعمال کم ہوں یا زائد ان کی صحت و بقا اور موجب اجر و ثواب ہونا عقیدہ پر موقوف ہے اگر عقیدہ نہ ہو یا اس میں کسی طرح کا فساد اور نقص ہو تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے کفار میں چونکہ ایمان و عقیدہ مفقود ہے اور منافقین میں عقیدہ فاسد ہے ان کے سب اعمال باطل اور وہ کسی اجر و ثواب کے موجب نہ ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ عقیدہ کی کمزوری کے ہوتے ہوئے اعمال پر اترا نا فخر کرنا یا کسی کی تحقیر و ذلیل کرنا یا اعمال ہی کو نجات و فلاح کا ذریعہ خیال کرنا محض جہالت اور نادانی ہے اور عذاب دائمی کا پیش خیمہ تیار کرنا ہے۔

## تبلیغی جماعت کی پالیسی میں انقلاب موضوع

ناظرین کرام! اوراق گذشتہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ شریعت میں ایمان و عقیدہ کو اولیت حاصل ہے حتیٰ کہ تبلیغی جماعت کے امیر مولوی محمد یوسف صاحب نے بھی اس

کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے۔ "ہمارا تبلیغی کام صرف عمل صالح کے لیے نہیں ہے بلکہ اول یہ ایمانی تحریک ہے بعد میں اعمال صالح کی تحریک ہے۔  
(بندہ محمد یوسف عفی عنہ بقلم محمد عاشق الہی عطاء اللہ مدرسہ کاشف العلوم)

## نظام الدین دہلی

امیر جماعت نے ایمان کی اولیت کو تسلیم کیا ہے کہ ایمان اول ہے اور عمل بعد میں لہذا پہلے ایمان کی اصلاح کی جائے گی یعنی عقیدہ کی اصلاح..... کی جائے گی کہ یہ عقیدہ شرک ہے یہ بدعت ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ یہ مکروہ ہے یہ حرام، یہ موجب ثواب ہے اور یہ موجب عذاب۔ یہ عقیدہ صحیح ہے، جنت و دوزخ موجود ہیں یہ عقیدہ درست ہے۔ ایماندار ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ عقیدہ واقع کے مطابق ہے۔ رویت باری قیامت میں ہوگی۔ یہ عقیدہ ایک حقیقت ہے وغیرہ کیونکہ ایمان یہی ہے کہ دل سے کسی امر کا اعتراف کرنا اور تصدیق کرنا لیکن افسوس کہ تبلیغی جماعت نے تحریک ایمانی کو چھوڑ دیا ہے اس کی اولیت کو ختم کر دیا ہے اور اب اس کا سروکار صرف تحریک اعمال صالح سے متعلق رہ گیا ہے حتیٰ کہ تبلیغی جماعت کے بعض مولوی صاحبان اور مبلغین کرام یہ کہے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف اخلاق و عمل کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایمان و عقیدہ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تو گویا اب اعمال صالح کو اولیت حاصل ہوگئی اور یہی قلب موضوع ہے کہ جو اول تھا اسکو پیچھے کر دیا اور جو پیچھے تھا اس کو آگے کر دیا..... چنانچہ اسی طرح کی امیر جماعت مولوی محمد یوسف سے تصریح موجود ہے۔ اب تک ۲۰-۲۵ سال کے تجربہ سے یہی معلوم ہوا کہ رسموں اور گناہوں کے چھیڑنے سے لوگ رسموں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ (مولوی محمد یوسف امیر جماعت) مطلب یہ کہ اگر ہم تحریک ایمانی پر زور دین اور اس کی اصلاح کریں کہ یہ میلاد فاتحہ عرس صلوٰۃ سلام کا عقیدہ چھوڑ دو۔ یہ عقیدہ شرک یا گناہ ہے یا تیجہ ساتواں، نذر و نیاز کا عقیدہ غلط ہے اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ غیر اللہ سے مدد بزرگوں کا توشہ وغیرہ کی رسم شرکیہ عقیدہ

ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہابیہ کے ہاں اہلسنت و الجماعت کی یہ باتیں اور اعمال یہی بری رسمیں اور گناہ و شرک و بدعت کی چیزیں ہیں جن کو وہ مٹانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں تو اہلسنت عوام ان کو بالکل ترک نہیں کریں گے بلکہ اور زیادہ چڑیں گے اور کبھی باز نہیں آئیں گے لہذا ہم نے تحریک ایمان کو ترک کر دیا ہے اور پہلے اعمال کی اصلاح شروع کر دی ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا ذہن عملی کیفیت سے متاثر ہو کر خود بخود رسوم مذکورہ سے تائب ہو جائے گا اور پھر اس پر پورا جادو چل جائے گا ہم جو کہیں گے وہ مان جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اہلسنت اور عقائد صحیحہ اہلسنت سے نکل کر ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں گے..... کس قدر صاف ہے کہ ہم نے تحریک ایمانی کی اولیت کو اس معلومات کی وجہ سے ختم کر دیا ہے۔ اور اب ہمارا نظریہ صرف تحریک اعمال صالح ہے۔

ناظرین کرام! آپ اس سے یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جماعت انفرادی اور اجتماعی طور پر گشت اور قریہ بہ قریہ گاؤں بہ گاؤں چلتی و پھرتی کی جو دوڑ لگاتی پھرتی ہے اس کا مقصد و مدعی صرف ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شکار کرنے کے لیے ان کو ایک سازگار ماحول میں پہنچا دیا جائے جہاں سے ان کے مذہب کو بدلنا آسان تر ہو جائے..... نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کام تحریک ایمانی اور تحریک عملی دونوں کا مجموعہ ہے قطعاً غلط ہے اور صریح دھوکہ ہے اور فریب و مکاری کیونکہ یہ تحریک ایمانی زیر بحث اور ایمانی اصلاح کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ایمانی تحریک جب بھی کریں گے تو اس کی یہی ایک صورت ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمانان اہلسنت کو یہی کہیں گے کہ یہ عقیدہ شرک، یہ عقیدہ بدعت ہے، یہ جائز اور یہ ناجائز تو مسلمان صحیح العقیدہ اسی وقت بدک جائے گا اور فوراً ان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ امیر جماعت مولوی محمد یوسف نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ”رسموں اور گناہوں کو چھیڑنے سے لوگ رسموں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں۔“ کیونکہ چھیڑنے کا یہی مطلب ہے کہ عوام کو یوں کہا جائے کہ یہ عقیدہ شرک اور یہ بدعت ہے گیارہویں بدعت ہے یا رسول اللہ کہنا عقیدہ شرکیہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

ناظرین معاف فرمائیے! تو ایسے علماء اور مفتیوں کا کس قدر قبیح اور غیر مستحسن فعل ہے کہ کسی کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے مکر اور فریب جیسے کریمہ طریقے استعمال کریں اور قلب موضوع جیسی رذیل حرکات کا ارتکاب کریں۔

## تبلیغی جماعت کے ظاہری پرفریب تصنع کا انکشاف

ناظرین حضرات! آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی عملی کیفیت قابل تعریف ہے۔ قرآن پڑھتی ہے، اسلام و ایمان کے تاثرات سے آراستہ ہے۔ صوم و صلوة کی شدت سے پابند ہے۔ حضر و سفر میں پابند شریعت ہے۔ خود عامل ہے دوسروں کو نیک ہونے کی ترغیب دیتی ہے مکروہ حرام سے اجتناب کرتی ہے۔ شرعی احکام کی تبلیغ کے لیے دور دور کی مشکلات کو برداشت کرتی ہے۔ تو اگر ایسی جماعت بے دین ہے تو پھر دیندار کونسی جماعت ہوگی؟ لہذا اس کی مخالفت ایک مکروہ فعل ہے تو اس اشکال کا حل یہ ہے کہ اسی طرح کی کش مکش ایک نوجوان کو قتل کرنے کے حکم پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوئی کہ اس کے خشوع و خضوع اور پابندی نماز وغیرہ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے جو اس کو قتل کرے کا حکم دیا تھا۔ اس کی تعمیل نہ ہو سکی اور واپس آ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اس کو تم قتل کرو۔ مگر جب آپ گئے وہ نماز پڑھ کر جا چکا تھا یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ تعمیل حکم میں فرق محض اس نوجوان کی پابندی صلوة اور اخلاص کی وجہ سے آیا تو ثابت ہوا کہ پابندی صوم و صلوة نجات و ایمان کے لیے کافی نہیں بلکہ کوئی اور چیز بھی از بس ضروری ہوتی ہے اور وہ صحت عقیدہ اور استحکام ایقان ہے۔

اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آنے والی ایک ایسی جماعت کی خبر دی تھی کہ وہ یقرؤن القرآن الخ یعنی وہ قرآن کے قاری ہوں گے مگر یہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا اور ایسے صوم و صلوة کے پابند ہوں گے کہ اس کی مثل نہیں ہوگی وغیرہ مگر وہ سب دین سے بے بہرہ ہوں گے تو ثابت ہوا کہ اس پابندی کے ساتھ



صحت عقیدہ از بس ضروری ہے۔ اس کے بغیر عمل ایک بے معنی حقیقت ہے۔ اور اگر دل میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ آخر نیکی کے لیے یہی علامتیں ہوتی ہیں کہ پابند شرع ہے ورنہ اندر گھس کر کون دیکھتا ہے کہ نیک ہے یا بد تو فرق پھر کیسے ہوگا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد تو اس شبہ کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس جماعت کی علامات کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سیمامہ التحلیق ترجمہ ”ان کی علامت سر منڈوانا ہے۔“ خلاصہ یہ کہ جو اوصاف تبلیغی جماعت میں مثلاً صوم و صلوة کی پابندی اور حکام کی تلقین و ترغیب وغیرہ ہیں۔ ایسی علامتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آئندہ آنے والی ایک جماعت کی بتائیں ہیں اسی لیے ذہن ادھر جاتا ہے اور شبہ واقع ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی جماعت جس کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی ہے اور اگر بالفرض تبلیغی جماعت اس کا صحیح مصداق نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ کونسی جماعت اس کا صحیح مصداق ہے اور وہ کہاں رہتی ہے۔ بہر صورت آپ تبلیغی جماعت کی خوبیاں اور اوصاف نہ دیکھئے بلکہ حدیث سے بے دین و مکار جماعت کی علامتوں کے آئینہ میں تبلیغی جماعت کو ملاحظہ فرمائیے، روزہ، نماز، دینی دعوت وغیرہ اوصاف ان علامتوں کا جو کہ آنے والی جماعت میں ہوں گی ایک حصہ ہے تصویر کے دونوں رخ دیکھئے ایک رخ سے پورا پتہ نہیں چلتا۔

ناظرین کرام: ”تبلیغی جماعت“ اپنے ان مذکورہ خط و خال کی وجہ سے ہرگز ہرگز صراط مستقیم پر نہیں ہے لہذا آپ ”سنی تبلیغی جماعت“ جو کہ حضرت محمد سعید احمد صاحب خطیب جامع مسجد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں چل رہی ہے اس کی طرف رجوع فرمائیں۔

### مسئلہ شفاعت اور مولوی ثناء اللہ امرتسری

ناظرین کرام! غیر مقلدوں اور اہل حدیث سے ایک وہ گروہ ہے جو کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری سے تعلق و واسطہ رکھتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اور ان کے پیروکار حضرات کا شفاعت سے متعلق نظریہ بیان کر دیں.....

مولوی ثناء اللہ صاحب اور ان کے معتقدین کا مسئلہ شفاعت سے تعلق معلوم کرنے کے لیے صرف اتنا بیان کر دینا کافی معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ اربعین مؤلفہ مولوی عبدالحق غزنوی شاگرد رشید مولیٰ عبد اللہ غزنوی الہمدیٹ کے ذریعہ ان کا تعارف کرایا جائے۔ مولوی عبدالحق صاحب اپنے اس رسالہ میں مولوی صاحب کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ الحمد لله على طبع الرسالة المسماة بالاربعين في ان ثناء الله ليس على مذهب المحدثين بل هو من المحدثين في الدين الجهمية والمعتزلة و القدرية المحرفين.

ترجمہ: ”رسالہ میں چالیس دلائل واضح ہیں۔ اس بات کے ثبوت کے واسطے کہ ثناء اللہ امرتسری محدثین کے مذہب پر نہیں بلکہ وہ محدثین (یعنی بدعتی فرقوں میں سے) ہے مثل دیگر فرق ضالہ جہمیہ اور معتزلہ اور قدریہ وغیرہ کے جو کہ (دین میں) تحریف و تبدیل کرنے والے ہیں اور اس پر پاک و ہند کے مفتیاں کرام اور علماء عظام کی تصدیقات ثبت کرائی ہیں تو جس طرح بدعتی فرقے جہمیہ معتزلہ وغیرہ شفاعت کے منکر ہیں اسی طرح یہ ثنائی پارٹی بھی شفاعت کی منکر ہے۔“

## مسئلہ شفاعت اور پرویزی جماعت

ناظرین! پرویزی جماعت حدیث اور اجماع و قیاس اور صوفیائے کرام اور علماء مجتہدین کے نظریات کے مقابلہ میں نئے نظریات کی قائل ہے۔ معتقدین و متاخرین کی فہم و فراست کو ایک محدود چیز اور موجود ماحول کے موافق خیال نہیں کرتی اور عبد اللہ چکڑالوی کی طرح صرف قرآن کو محل استدلال سمجھتی ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز کو درخور اعتناء اور وقتی تقاضوں کے لیے غیر مفید باور کرتی ہے اور قرآن مجید کی تفسیر وہ کرتی ہے جو کہ اس کی اپنی افتاد طبع ہے۔ دوسری ہر تاویل و تفسیر ان کے لیے جائے اعتراض ہے اور مسئلہ شفاعت چونکہ علماء، معتقدین اور متاخرین کا معمول بہا ہے تو جب یہ سب کچھ قابل اعتراض ٹھہرا تو ثابت ہو گیا کہ

یہ بھی شفاعت کی منکر ہے۔

### مسئلہ شفاعت اور سرسید

مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں..... یہ سب انگریزی تعلیم اور نیچریت کی نحوست ہے کہ لوگوں کے عقائد و اعمال صورت و سیرت سب بدل گئے اور دین بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست خورد و نوش سب میں بربریت و نیچریت والحاد کا رنگ جھلکتا ہے اور ہندوستان میں نیچریت کا بیج سرسید کا بویا ہوا ہے۔

(الافاضات ایومیہ جلد ششم ص ۹۸ زیر ملفوظ ص ۱۳۶)

یہی مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ سرسید کی وجہ سے بڑی گمراہی پھیلی۔ یہ نیچریت زینہ ہے اور جڑ ہے الحاد بیدنی کی۔ اس سے پھر شاخیں چلی ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نیچریت ہی کا اول شکار ہوا۔ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ استاد یعنی سرسید احمد خاں سے بھی بازی لے گیا کہ نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔ (الافاضات ایومیہ جلد پنجم ص ۱۰۶ زیر ملفوظ ص ۱۸۱)

ناظرین! اب سرسید مذکور کے عقائد مسٹر حالی کی زبان سماع فرمائیں۔

اجماع اور قیاس صحت شرعی نہیں۔ تقلید آئمہ واجب نہیں ابلیس سے مراد نفس امارہ یا قوت بہمینہ ہے۔ فرشتوں سے مراد قوتیں ہیں۔ آدم فرشتوں ابلیس کا قصہ محض ایک مثال ہے۔ قرآن میں کسی معجزہ کا ذکر نہیں۔ شرعی سزائیں لازمی نہیں معراج شق صدر وغیرہ معجزات بیداری میں نہیں بلکہ ایک خواب تھی۔ مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب میزان پلصراط جنت دوزخ وغیرہ امور کوئی حقیقی چیز نہیں بلکہ ایک مجازی تعبیر ہے اور بس عیسائیوں کی گلا گھونٹ کر ماری ہوئی چڑیوں کا کھانا مسلمانوں کو جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔

(حیات جاوید حصہ دوم ص ۲۵۶ تا ص ۳۶۳ از مسٹر حالی پانی پتی)

نیز حالی صاحب نے سرسید کا بیان یوں لکھا ہے..... وہابی وہ ہے جو خالصاً خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ موحد ہو وغیرہ..... (برطانیہ) سرکار نے بے سوچے سمجھے ان (وہابیوں) کو

معتد علیہ نہیں گردانا بلکہ ۱۸۵۷ء کی جنگ کے زمانے میں جبکہ فتنہ کی آگ ہر طرف مشتعل تھی ان (وہابیوں کی) وفاداری کا سونا اچھی طرح تایا گیا ہوا اور خیر خواہی سرکار (برطانیہ) میں ثابت قدم رہے وغیرہ۔ (حیات جاوید ص ۱۸۳)

**مولوی انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث دیوبند کا سرسید سے متعلق فتویٰ**

سرسید ہو رجل زندق ملحد او جاہل ضال الخ ترجمہ ”یعنی سرسید وہ بے دین ہے ملحد ہے یا جاہل گمراہ ہے۔“

(قیمۃ البیان المشکلات القرآن ص ۳۲۰ از مولوی انور کشمیری)

### ان حوالجات سے کیا ثابت ہوا

(۱) سرسید احمد خان بے دین جاہل گمراہ حقائق شرعیہ اجماعیہ کا منکر و موول سواد اعظم سے خار ہندوستان میں بربریت بے دینی و الحاد کا پہلا بیج بونے والا حرام کو حلال کرنے والا۔ قادیانی بربریت اور بے دینی کا مصدر و منبع اجراء نبوت و رسالت کا مجوز۔ وہابی لوگوں نے غدر ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کے خلاف دشمن اسلام حکومت برطانیہ کی امداد کی اور اس کی خیر خواہی میں جان تک لڑادی اور اس کے صلہ میں حکومت برطانیہ سے ہر طرح کی رعایتیں حاصل کیں اور آج تک اس پر قائم و دائم ہیں کہ جمہور اسلام اور سواد اعظم اسلام سے آج بھی برسر پیکار ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس مولوی شبلی نعمانی کو بھی خیال فرمائیں کہ وہ بھی سرسید مذکور کے قدم بہ قدم ہے۔ (الافاضات الیومیہ) ج ۳ ص ۱۵۲ از ملفوظ ۲۵۵ (از مولوی اشرف علی)

### مولانا غلام اللہ اور مسئلہ شفاعت

جب سب مخلوق محتاج ہے تو کوئی کسی کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا دیکھیں کس طرح ہو سکتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے لوگ بچے کافر ہیں ان کا کوئی نکاح نہیں۔ جو ان کو کافر نہ کہے اور مشرک نہ کہے یوہ بھی ویسا ہی کافر ہے۔ جو اہر القرآن ملفوظ ص ۱۳۷ و ص ۱۷۷

قارئین کرام! آپ نے خیال فرمایا ہوگا کہ سرسید اور مرزا قادیانی اور مولوی نعمانی وغیرہ بھی شفاعت کے منکر ہی ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ شفاعت تو اس پر موقوف ہے کہ شریعت کو اسی طرح تسلیم کیا جائے جیسا کہ قرونِ اولیٰ کا معمول بہا تھا اور دین اور مذہب کو کتاب و سنت کی روشنی میں لائحہ عمل بتایا گیا تھا اور جبکہ شرعی حقائق کا ہی انکار کر دیا گیا اور دین کی شکل و صورت ہی بگاڑ دی گئی تو شریعت کی روشنی میں جواز شفاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ سرسید اور مرزا غلام احمد قادیانی اور مولوی شبلی نعمانی اعظم گڑھی اور وہابیہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنے مفاد اور مطلب دنیاوی کے واسطے دین مصطفیٰ ﷺ کے حصے بخرے کیے اور اس میں من مانی تبدیلی و تحریف کی اور اس کی اصلی ہیئت اور شکل کو بگاڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی اور یہ بھی واضح ہو کہ یہ سب کچھ دشمنان اسلام اعداء دین برطانیہ وغیرہ کے اشارہ پر کیا اور اب تک اس پر قائم و دائم ہیں۔

### اہلسنت والجماعت اور حقانیت

حضرات باوقار! آپ نے مسئلہ شفاعت کے ضمن میں نجدی عقائد کی حقیقت اور بعض اور گروہوں کا نجدی عقائد کے ساتھ جوڑ توڑ معلوم کر لیا ہے۔ اب ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان اسلامی فرقوں سے ہیئت کونسا مذہب صحیح اور درست ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اور دنیا و آخرت میں نجات حاصل کی جائے۔

### تفسیر روح البیان میں ہے

زیر آیت و علی اللہ قصد السبیل فرماتے ہیں ان قصد السبیل ہو دین الاسلام وهم اهل السنة والجماعة۔ ترجمہ ”پیشک دین اسلام ہی سیدھا راستہ ہے اور وہ اہلسنت والجماعت کا طریقہ ہے۔“

شیخ علامہ ذہبی فرماتے ہیں۔ الفرقة الناجية هم اهل السنة یعنی اہلسنت ہی وہ

جماعت ہے جو کہ ناجی ہے۔“ فتوحات وہبیہ شرح اربعین نوویہ ص ۱۷۹

تفسیر مواہب الرحمن اہلسنت سچا مذہب ہے ص ۱۶۳ سطر ۷ مطبوعہ نوکشمور۔

تفسیرات احمدیہ ص ۲۳۷ ولكن بالتحقیق الصدق لیمن كان علی طریقة السنة والجماعة۔ ترجمہ: ”لیکن تحقیق یہی ہے سچائی اور صداقت اہلسنت والجماعت میں ہے۔“

تفسیر مظہری۔ ترجمہ: فرقہ ناجیہ اہلسنت والجماعت چار مذاہب حنفی مالکی شافعی حنبلی پر جمع ہوا ہے اور جو شخص ان چار مذاہب سے خارج ہے وہ اہل بدعت و نارسے ہے۔

### حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے خلیفہ اعظم خواجہ غلام علی صاحب مقامات مظہری میں اور شاہ ولی اللہ صاحب کلمات طیبہ میں آپ کا مکتوب گرامی نقل فرماتے ہیں۔ حق بجانب اہلسنت معلوم میثود۔ یعنی اہلسنت ہی حق بجانب معلوم ہوتے ہیں۔ کلمات طیبات فارسی ص ۳۲ مقامات مظہری مکتوب نوردہم ص ۱۹

### شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ: میں نے غور کیا کہ آنحضرت ﷺ مذاہب فقہ (حنفی شافعی مالکی حنبلی) میں سے کس مذہب کی طرف مائل ہیں تاکہ میں بھی وہی مذہب منتخب کروں تو معلوم ہوا کہ سب مذاہب فقہ آپ کے نزدیک صحیح ہیں۔

### فیوض الحرمین مشہد وہم

(مولوی محمد ذکریا سہارنپوری شاہ ولی اللہ صاحب کو شیخ المشائخ اور قطب الاشاد فضائل درود شریف ص ۵۰ پر اور مولوی اشرف علی صاحب نے ان کو القول البدیع ص ۴ پر خاتم المحدثین اور مولوی اسماعیل صاحب نے صراط مستقیم کے ص ۴ پر ان کو قطب المحققین فخر العرفاء الکملین اعلمہم باللہ الشیخ ولی اللہ میں لکھا ہے۔

## شیخ الحدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

بتواتر اخبار معلوم شدہ و بہ تتبع و تفحص احادیث و آثار و میقتن گشتہ کہ سلف صالح از صحابہ و تابعین باحسان و من بعدہم ہمہ بریں اعتقاد بریں طریقہ (اہل السنۃ و الجماعۃ) بودہ اند..... یعنی احادیث متواتر اور آثار کثیرہ سے سلف صالحین صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے مابعد والوں کا مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب اہل سنت و الجماعت عقیدہ اور طریقہ پر تھے..... ایک سطر بعد میں آپ یہ فرماتے ہیں محدثین اصحاب کتب ستہ وغیرہ ہا از کتب مشہورہ معتمدہ کہ مثنی و مدار احکام اسلام بر آ نہا از فتادہ دائمہ فقہا ارباب مذاہب اربعہ وغیرہم از آ نہا کہ در طبقہ ایشان بودہ اند ہمہ بریں مذہب بودہ اند یعنی کتب صحاح والے محدثین اور مذاہب اربعہ وغیرہ کے ائمہ فقہا وغیرہم بھی اسی طریقہ اہلسنت و الجماعت پر تھے۔

(اشعت اللمعات ص ۱۴ سطر ۲۴ و ۲۵)

## امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ علیہ

فرماتے ہیں بالجملۃ طریق النجاة متابعۃ اہل السنۃ و الجماعۃ کثرہم اللہ سبحانہ فی الاقوال و الافعال و فی الاصول و الفروع فانہم الفرقة الناجیۃ و ما سواہم من الضریق فہم فی معرض الزوال و شرف الهلاک علمہ الیوم احد اولم یعلم اما فی العذیب علمہ کل احد و لا ینفع.

ترجمہ: ”آخری نجات کا دار و مدار صرف اس پر موقوف ہے کہ تمام اقوال و افعال اور اصول و فروع میں فرقہ ناجیہ اہلسنت و الجماعت کی پیروی کی جائے۔ کیونکہ اہلسنت ہی صرف ایک جنتی فرقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب زوال اور ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ آج اس بات کو کوئی جانے یا نہ جانے کل بروز قیامت ہر ایک جان لے گا۔ مگر اس وقت کا جاننا کچھ نفع نہ دے گا۔ مکتوبات شرح ج ۱ ص ۸۶ مکتوب ۶۹ اسی طرح امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات فارسی مکتوب ص ۵۹-۷۰-۷۱ جلد اول اور مکتوبات جلد اول مکتوب ص ۱۹۳-۱۹۲

پر ہے۔ (مولوی اسماعیل دہلوی نے صراطِ مستقیم فارسی ص ۱۳۲ پر ان کو امام ربانی قیوم زمانی کے القاب تحریر کیے ہیں اور ان کو اولیاء کرام و عظام میں شمار کیا ہے)

## امام الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

آپ تحریر فرماتے ہیں اسماعیل فقیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابو احمد حاکم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ای الفرق اکثر نجات عندکم تمہارے نزدیک زیادہ نجات یافتہ کونسا فرقہ ہے۔ فقال اهل السنة پس انہوں نے کہا کہ اہلسنت شرح الصدور ص ۱۱۹ (سیدی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے حضور اکرم ﷺ کی حالت بیداری میں بالمشافہ کچھ مرتبہ زیارت کی ہے، المیزان الکبری ص ۴۴)

## قطب ربانی سیدی حضرات عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ..... بیشک تم اس کتاب (میزان کبری) کو نظر انصاف سے دیکھو گے تو اس صحیح عقیدہ کی تحقیق ہو جائے گی۔ ان سائر الائمة الاربعة و مقلدہم رضی اللہ عنہم اجمعین علی ہدی من ربہم فی ظاہر الامر و باطنہ۔ ”یعنی بے شک چاروں امام اور ان کے مقلدین (حنفی شافعی مالکی حنبلی) رضی اللہ عنہم ظاہری اور باطنی طور پر خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ (المیزان الکبری جلد اول ص ۷)

## مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی

جو عامل بحدیث بزعم خود ہو کر مجتہدین اور راہنمین پر سب و شتم کرتے ہیں اور فقہ کے مسائل مستبطہ عن النصوص کو بنظر حقارت دیکھ کر زشت و زبون جانتے ہیں وہ لوگ خارج از فرقہ ناجیہ اہل السنۃ اور قبیح ہو انسانی اور داخلی گروہ اہل ہوا کے ہیں۔ (سبیل الرشاد ص ۲۵ مطبوعہ مجتہبائی.....) نیز یہی مولوی صاحب فرماتے ہیں جملہ مجتہدین اور ان کے اتباع اور جملہ محدثین



فرقہ ناجیہ اہلسنت والجماعت ہو گئے۔ (سبیل الرشاد ص ۲۵)

(یہی مولوی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ قبر کے اندر ان کا منہ قبلہ سے پھر جائے گا بلکہ یہ فرمایا کہ جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے۔ غیر مقلدین چونکہ آئمہ دین کو برا کہتے ہیں اس لیے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنی مکروہ ہے)

### حضرت علامہ ابن العابدین علیہ الرحمہ

آپ فرماتے ہیں اهل البدعة كل من قال قولاً خالف فيه اعتقاد اهل السنة والجماعة. یعنی ”جو اہلسنت والجماعت کے اعتقاد کے خلاف بات کرے وہ بدعتی ہے۔ (روالمخارج ۳ ص ۲۵۴)

### علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

آپ لکھتے ہیں۔ اهل السنة والجماعة مذب قدیم معروف فانه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبیہم ومن خائف ذالك كان مبتدعاً عند اهل السنة والجماعة.

ترجمہ: ”اہلسنت والجماعت ایک پرانا اور مشہور مذہب ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذہب تھا۔ جو کہ انہوں نے حضور پر نور ﷺ سے سیکھا تھا جو کہ اس کی مخالف کرے وہ اہلسنت والجماعت کے نزدیک بدعتی ہے۔“ (منہاج السنۃ ج ۱ ص ۲۵۶)

### علامہ علی القاری علیہ رحمۃ اللہ الباری

آپ فرماتے ہیں: قال بعض المفسرين في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وجوه اهل السنة وتسود وجوه وجوه اهل البدعة. ترجمہ ”یوم تبض وجوه وتسود وجوه کی تفسیر بعض مفسرین نے یوں کی ہے کہ قیامت کے روز اہلسنت والجماعت کے چہرے سفید

ہوں گے اور بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔“

ناظرین کرام:- ان مندرجہ حوالجات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین و سلف صالحین بلکہ مخالفین کا بھی اعتراف ہے کہ مسلک حق اہلسنت والجماعت کا ہی مسلک ہے اور یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اور اس وجماعت ناجیہ کے مخالف سب فرقے اور گروہ بدعتی ہیں اور اہل ہوناری ہیں اور صراطِ مستقیم سے دوران کی اتباع اور اطاعت شریعت کے خلاف ہے۔ ان کی راہ جنت کی راہ نہیں۔ ان کا عمل قابل تعریف نہیں۔ لیکن طرہ یہ کہ وہ اپنے علاوہ سب گروہوں کو جہنمی مشرک اور بدعتی وغیرہ سب کچھ کہے جاتے ہیں اور بات بات پر بدعتی کا فتویٰ دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناپاک سعی کرتے رہتے ہیں اور اپنے بدعتی ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ حالانکہ درحقیقت یہی بدعتی ہیں۔ بہر حال روز روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ صراطِ مستقیم اور نجات یافتہ جماعت اور قابل تقلید لائحہ عمل اور قرونِ اولیٰ سے لے کر آج تک سلف سے خلف تک کا سب کا یہی نظریہ ہے۔ مذہب صحیح اور ضروری الاطاعت یہی طریقہ اہلسنت والجماعت کا ہی ہے اور باقی سب گروہ ناقابل تقلید اور ان کی تقلید اور تائید شرعاً ناجائز۔ قدری ہوں یا جبری نجدی ہوں یا معتزلی وغیرہ یہ سب کے سب بدعتی واجب الاحتراز ہیں..... نیز یہ ثابت ہوا کہ علماء دیوبند پہلے اس کے معتقد تھے کہ فرقہ منصورہ ناجیہ صرف اہلسنت والجماعت ہی ہے۔ اسی پر رہنا انسان کی نجات کی ضمانت ہے اور اس کے علاوہ سب بدعتی ہیں اور صراطِ مستقیم سے بھٹکے ہوئے اور ان کی پیروی جہالت اور بدعت کی پیروی ہے۔ ان کی تقلید کرنا اہلسنت والجماعت سے خارج اور علیحدہ ہونا ہے مگر بعدہ اپنی خاص اغراض کی وجہ سے نجدی عقائد کے معتقد اور موید و حمایتی بلکہ اقرار نجدی اور وہابی ہو گئے اور فرقہ ناجیہ اہلسنت والجماعت سے قصداً و ارادۃً نکل گئے۔ اللہ سبحانہ ہدایت فرمائے۔

## دیوبندیت اور نجدیت کا واقعی اور نفس الامری اتحاد

ناظرین! اس سے قبل گو آپ نے اس اتحاد کی کیفیت کو قدرے ملاحظہ فرمایا ہے مگر میں دوبارہ آپ کی طبیعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اتحاد ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے اور ہم بھی کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں۔ بلکہ آپ دیوبندیوں کے مسلم الثبوت عالم اجودھیا باشی مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی جانشین شیخ الہند کی زبان سے محمد بن عبدالوہاب کی تعریف پھر سماع فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں۔

صاحبو! محمد ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائی تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ و عقائد فاسدہ رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے اہلسنت والجماعت سے قتل و قتال کیا۔ ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا۔ انکے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے بہت سے لوگوں کو بوجہ اسکی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخوار فاسق شخص تھا۔ (الشہاب الثاقب ص ۵۰)

خط کشیدہ الفاظ غور سے پڑھئے اور خیال فرمائیے کہ یہ سب اہلسنت والجماعت کے ساتھ ہوا اور یہ کہ نجدی اہلسنت نہیں ہے اور یہ کہ نجدی کے ساتھ ہر متحد ضروری نجدی ہوگا۔

## اب دونوں کا کلی اتحاد ملاحظہ فرمائیے

عقائد وہابیہ دیوبندیہ

فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ اہلسنت ہیں اور جو جائز کہتے ہیں وہ بھی اہلسنت ہیں اس میں تکرار درست نہیں

عقائد وہابیہ نجدیہ

کسی قبر یا کسی مکان کے لیے دور سے سفر کر کے جائے اس پر شرک ہوتا ہے۔ (الشہاب ص ۵۵)

عقد مجلس مولود اگرچہ اس میں کوئی امر غیر مشروع نہ ہو مگر اہتمام و تداعی اس میں بھی موجود ہے لہذا اس زمانہ میں درست نہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۵۰)

جب اس کے (تصور شیخ) ساتھ تعظیم اس شکل کا کرنا اور متصرف باطن مریدین جاننا مفہوم ہو تو موجب شرک کا ہو گیا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۵۲)

یعنی میں بھی مرکز میں ملنے والا ہوں (تقویت الایمان ص ۴۴)

ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں بے خبر ہیں اور نادان (تقویت الایمان ص ۱۸)

یقین جانا لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چہرے سے بھی ذلیل ہے (تقویت ص ۱۰)

سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ (تقویت ص ۴۰)

وہابیہ نفس ذکر ولادت کو قبیح و بدعت کہتے ہیں۔ (الشہاب ص ۸۳)

وہابیہ اعمال و اشغال باطنہ و تصور شیخ کو شرک و بدعت کہتے ہیں۔ (الشہاب ص ۷۲)

انبیاء علیہم السلام کی حیات فقط اس زمانہ تک ہے جب تک وہ دنیا میں تھے بعد ازاں وہ اور دیگر مردے موت میں برابر ہیں۔ (الشہاب ص ۵۴)

وہابیہ حضور کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا مماثل خیال کرتے ہیں۔ (الشہاب ص ۵۶)

اور سوائے علم احکام و شرائع کے باقی جملہ علوم سے حضور علیہ السلام کو خالی جانتے ہیں۔ (الشہاب ص ۸۲)

مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نذرو نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا شرک و کفر تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ (اور ابو جہل وغیرہ سب مباح الدم والمال تھے) (تقویت الایمان ص ۴)

انبیاء اولیاء امام امام زادہ پیر و شہید انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی ہے وہ بڑے بھائی ہوئے اور ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہوا ہے ہم ان کے چھوٹے۔ اس کے پہلے لکھا ہے جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجئے۔ (تقویت ص ۴۳)

کروڑوں نبی اور ولی جن فرشتے جبرائیل اور محمد کی برابر پیدا کر ڈالے۔ (تقویت ص ۲۳)

دیکھئے گستاخانہ کلمات میں شرک و بدعت کے تصور میں دربار رسالت و ولایت کی توہین و خفت میں نبوت و ولایت میں شریک ہونے میں اہلسنت کے قتل بلکہ مسلمانان ہمال کے مباح الدم ہونے میں حیات و ممات میں مماثل ہونے میں امور مستحسنہ عند جمہور اسلام کو ناجائز

محمد ابن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمان دیاں مشرک و کافر ہیں اور ان سے قتل و قتال کرنا ان کے اموال کو چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ (الشہاب ص ۵۱)

وہابیہ حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں اور سوائے علم شریعت کے ان میں کچھ نہ تھا اور ہماری طرح معارف حقائق سے خالی تھے ص ۵۶ و ۸۲ (یعنی ہم میں بڑائی والے بھائی اور دوسرے چھوٹے اور حقیقت واصل میں سب برابر۔ ایک دوسرے کی طرح ہزاروں ہو سکتے ہیں)

وحرام کہنے وغیرہ وغیرہ میں کس قدر اتحاد و اتفاق ہے۔

حالانکہ ابھی ابھی آپ نے پڑھا کہ نجدی ایسے اور ایسے ہیں اور اس سے مشترک بھی نجدی کا علمی و عملی نقشہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب فرمائیے نجدیوں کو ظالم و فاسق خونخوار کہیں یا حدام حرمین کہیں یا اہلسنت والجماعت کے بدترین دشمن بلکہ اہل اسلام کے لیے زہر قاتل کہیں یا وہابی گستاخ کہیں یا خارجی خائن و غدار کہیں یا سچے مومن حرمین طہین کے محافظ کہیں یا اہل اسلام کی بتامی و بربادی کے لیے کسی کا ایجنٹ کہیں۔ اسی طرح اس کے معاونین حضرات کو دیوبندی وہابی کہیں یا دیوبندی نجدی کہیں یا دیوبندی حنفی کہیں یا نجدی کہیں کیا کہیں؟ قارئین حضرات خود اندازہ لگا کر جو پسند خاطر چھو ہو اسی سے ان کو یاد فرمائیں اور غالباً اس کتابچہ کو پڑھ لینے کے بعد کسی بزرگ کو کسی لقب سے ملقب کرنے پر کوئی حق اعتراض بھی نہ ہوگا کہ ہر چیز نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔

ناظرین کرام! اسی طرح اور متعدد اتحادی عقائد ہر دو فریق میں دکھائے جاسکتے ہیں لیکن بخوف طوالت ہم بعض عقائد پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور قارئین پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود اندازہ لگائیں کہ دونوں گروہ کس حد تک باہمی اتحاد میں منسلک ہیں اور یہ کہ کونسی جماعت حق پر ہے تاکہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی جائے۔ واللہ الہادی و هو السبع البصیر۔

## بعض مخالفتوں کا ازالہ

برادران اسلام و عزیز و دوستو! اوراق گذشتہ میں شفاعت کی حقیقت شرعی و عقلی نکتہ نظر سے ہر طرح سے واضح ہو گئی کہ شفاعت درست اور صحیح ہے اور مخالفین کی نشاندہی کے علاوہ بعض کا بعض کے ساتھ علمی اور عملی رابطہ بھی معلوم ہو گیا مگر کبھی یہ خدشہ سامنے آ کر طبیعت میں الجھاد سا پیدا کر دیتا ہے کہ آخر یہ سب علماء دین ہیں۔ دین کو کبھتے ہیں۔ عمداً اور ارادۃً شرعی مسائل میں یہ افراط و تفریط کیسے کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ بعض آیات کریمہ سے اپنے مدعی کو

ثابت کرنے کا تصور پیش کرتے ہیں تو حیرت اور بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت پر حسب ذیل آیات سے دلیل لاتے ہیں۔

(۱) اِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَاِرَادُونَ  
ترجمہ: ”بلاشبہ تم اور وہ جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہے اور تم اس میں قطعی طور پر داخل ہو گے۔“

اس آیت میں ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے سوا اور چیزوں کی پوجا پاٹھ اور پرستش کرتے تھے بتایا گیا ہے کہ اس طریق کار سے تم سب دوزخ میں جاؤ گے۔ لہذا جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پیر ہو یا فقیر پتھر ہو لکڑی پوجتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں اس سے حاجت مانگتے ہیں سب جہنمی ہیں۔

(۲) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ اُولَاسْوَاعَاوُ لَا يَغُوثُ وَلَا يَعُوقُ  
وَنَسُرَا ترجمہ: ”جب غیر اللہ کو پوجنے والوں کو منع کیا گیا تو انہوں نے غیر اللہ کو پوجنے والوں کو کہا تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو۔ اور ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر کی پوجا پاٹ ڈٹ کر کیے جاؤ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پجاری مارے گئے۔“

ان آیات اور ہجھوں قسم اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی پرستش کرے سجدہ کرے حاجت چاہے یہ ناجائز اور حرام ہے اور ایسا کرنا جہنمی ہونے کا پیش خیمہ بلکہ قطعی طور پر دوزخی ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ بزرگ پیر فقیر وغیرہ غیر اللہ میں داخل ہیں اور لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اس سے حاجتیں مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ لہذا ثابت ہوا کہ یہ بھی ہر دو پجاری اور جس کی پوجا کی دوزخ میں جائیں گے اور جو دوزخی ہو یا دوزخی طریق اور لائن پر اس کی پیروی حرام و ناجائز ہے۔

جواب: ان آیات کریمہ میں جن کی پرستش کی گئی ان سے مراد بت اور وہ چیزیں ہیں جن کو الوہیت و خدائی اور استحقاق عبادت میں بزعم خود شریک کر لیا گیا اور شک نہیں کہ بت جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کے پجاری بھی اور وہ جن کو خدائی یا استحقاق عبادت میں شریک کیا

گیا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نبی ہوں یا غیر تو انکو جہنم سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ ان کا بالخصوص جب کہ انہوں نے منع بھی کیا ہو کوئی جرم نہیں پرستش کرنے والوں کا جرم ہے جس کا خمیازہ یہ ضرور بھگتیں گے۔ بہر صورت ان آیات کریمہ میں سے مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ سے مراد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مراد لینا ہرگز جائز نہیں جیسا کہ مشہور تفاسیر میں ہے اور حقیقت یہ ہے جیسا کہ شامی وغیرہ معتبر کتابوں سے ظاہر ہے کہ وہابی وغیرہ حضرات نے زبردستی وہ آیات کریمہ جو کہ بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی تھیں ان کو بزرگان دین پر چسپاں کر دیا ہے اور پھر ان کو مشرک وغیرہ کہہ کر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا ہے۔

جواب ۲: اس آیت میں اگر مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ سے مراد بتوں کے علاوہ بزرگ نبی ہوں یا غیر بھی مراد لی جائے تو پھر اس آیت کا ان آیات سے مخالف اور اختلاف ہو جائے گا جن میں بزرگان دین کی تعظیم و توقیر کا حکم موجود ہے اور یہ مخالف و اختلاف قرآنی آیات میں ناممکن ہے جیسا کہ اس پر اتفاق ہے۔ آیات حسب ذیل ہیں:-

(۱) اِنَّ الدِّیْنَ سَبَقَتْ لَھُمْ مِّنَ الْحُسْنٰی اَوْلٰئِکَ عَنْہَا مُبْعَدُوْنَ.

ترجمہ: ”بلاشبہ وہ جن کو ہماری طرف سے اعمال صالح کی توفیق ملی وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔“

(۲) اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَآخَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَاھُمْ یَحْزَنُوْنَ الدِّیْنَ اٰمَنُوْا وَكٰنُوْا یَتَّقُوْنَ. ترجمہ: ”خبردار یقینی طور پر اللہ کے اولیاء پر کسی طرح کا خوف و غم نہ ہوگا یعنی جو صدق دل سے ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے رہے۔“

ان آیات کی طرح اور متعدد آیات شمار کرائی جاسکتی ہیں جن سے روز روشن سے زیادہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کو جہنم سے دور کا واسطہ بھی نہیں بلکہ وہ قطعی جنتی اور بہتشی ہیں۔ پس اب اگر پہلی اور مذکورہ الصدر آیات مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ سے مراد بزرگ اور نیک صالح حضرات بھی مراد لیے جائیں تو قرآن میں صریح اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ نیز بزرگوں کو ماننے والے کافروں کی طرح بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں صرف تعظیم شرعی



کے قائل اور عامل ہیں جس پر کسی بری پاداش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۳) نیز یہاں من ذون اللہ سے مراد بزرگ پیر فقیر مراد لینا جمہور مفسرین کے خلاف تفسیر بالرائے ہے۔ جو کہ حرام ہے۔

وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے معیاری طور پر چند علوم کی اشد ضرورت ہوتی ہے ان کے بغیر تفسیر بے معنی ہے۔ (۱) مولوی محمد زکریا صاحب دیوبندی اپنی کتاب فضائل قرآن ص ۲۶ پر تحریر فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے لیے حسب ذیل علوم ضروری ہیں۔ لغت، نحو، صرف، اہتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قرأت، علم عقائد، علم فقہ، اصول فقہ، اسباب نزول، نسخ و منسوخ، حدیث، علم وہبی یہ وہ علوم ہیں جن کا قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے از بس جاننا ضروری ہے۔

کیسے سعادۃ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تین مخلصوں پر نہیں ظاہر ہوتی ایک وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو دوسرا وہ جو کہ گناہ کبیرہ پر مصر ہو یا بدعتی، تیسرا وہ مخلص جو کہ کسی اعتقادی مسئلہ میں ظاہر کا قائل ہو اور قرآن شریف کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے اس کی طبیعت اچھٹی ہو۔

یہ وہ امور ضروریہ ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے ان کا حصول اشد ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ تفاسیر متداولہ مشہورہ کے مفسرین کرام ان سب امور و علوم سے کامل طور پر بہرہ ور تھے۔ لہذا جو تفسیر تفاسیر مشہورہ کے خلاف ہوگی وہ تفسیر بالرائے ہوگی اور آیت مذکورہ میں من دون اللہ سے مراد بتوں کے علاوہ پیر فقیر وغیرہ مراد لینا تفاسیر مشہورہ کے خلاف ہے۔ لہذا یہ تفسیر بالرائے ہے اور تفسیر بالرائے پر قرآن مجید اور حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے لہذا ناجائز ہے۔

ناظرین کرام! اس سے یہ واضح ہو گیا کہ معیاری علوم کو حاصل نہ کرنا اور اردو تراجم اور سنی سنائی باتوں اور اپنے خیال کے اعتماد پر تفسیر کرنا ناجائز اور حرام ہے اور آج یہی مصیبت ہے کہ ہزاروں مفسر آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے معیاری علوم حاصل کیے بغیر اردو ترجمہ اور

اپنی دینی خواندگی پر اکتفا کرتے ہوئے مسند تفسیر پر دندنانا شروع کر رکھا ہے اور لوگوں کو متاثر کر رکھا ہے کہ ہجوماد دیگرے نیست۔ نتیجہ یہ کہ گھر گھر مفسر اور ہر ایک کی زالی تفسیر جس سے عوام کے دینی رجحان میں حیران کن تہلکہ مچ گیا ہے اور وہ دنیا کی طرف اور زیادہ راغب ہو گئے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ ہر مفسر کا مبلغ علم پہلے معلوم کریں اور پھر اس کی تفسیر پر کان دھریں۔

## تفسیر بالرائے

علماء کرام رحمہ اللہ نے تفسیر بالرائے کی سہولت کے پیش نظر قدرے تعین کر دی ہے جو حسب ذیل ہے۔

- (۱) تفسیر بالرائے جس کے جواز میں اختلاف ہے تاویل متشابہات غیر مختصہ بعلم الباری او بعلم الرسول کا نام ہے۔
- (۲) تفسیر بالرائے جس کا جواز اتفاقی ہے استنباط احکام شرعیہ اصلیہ ہوں یا فرعیہ اعرابیہ ہوں یا بلاغیہ وغیرہ کا نام ہے۔ بشرط قابلیت۔
- (۳) تفسیر بالرائے جو بالاتفاق ناجائز اور منہی عنہ ہے۔ تفسیر متشابہہ کا نام ہے جو مختص ہو بعلم الباری او بعلم الرسول ﷺ تفسیر بالرائے بغیر حصول علوم مشروطہ للتفسیر۔ تفسیر بالرائے مقرر للمذہب جس میں مذہب کو اصل اور تفسیر کو تابع قرار دیا جائے۔ تفسیر علی القطع یعنی مراد حق سبحانہ کی قطعی طور پر یہی ہے بغیر دلیل کے تفسیر بانہوی یہ چوتھی معہ اپنی پانچ شقوں کے ناجائز اور حرام ہے اور تفاسیر ثقات متداولہ بین اہل السنۃ کی تفسیر بالرائے باقسامہ الخمسہ سے پاک ہیں۔ الحمد للہ علی ذالک۔

نیز یہ یاد رہے کہ تفاسیر متداولہ مشہور مشہودہ اہلسنت والجماعت کے علاوہ تمام تفاسیر نجدی ہوں یا غیر یہ سب عموماً قابل اعتماد نہیں ہیں کیونکہ ان میں شرائط کے تحقق کا یقین نہیں۔

## دیوبندی اور ردّ نجدیت

عموماً ایک سوال زبان زد عوام و خواص ہے کہ دیوبندی عقائد جب کہ نجدی عقائد کے ساتھ مماثل ہیں تو دیوبندی حضرات پھر نجدیوں کا ردّ کیوں کرتے ہیں اور ان کی مخالفت میں پیش پیش کیوں ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے دیوبندی حضرات نجدیوں کے عقائد کا رد نہیں کرتے بلکہ عمل کا مثلاً دیوبندی تقلید کا قائل ہے اور نجدی اس کو بدعت و شرک اور ناجائز کہتا ہے تو اس پر دیوبندی نجدی پر رد کرتا ہے کہ تقلید شرک و بدعت نہیں جائز بلکہ واجب ہے۔

## دیوبندی اور حنفیت

مشہور ہے کہ کسی دیوبندی سے دریافت فرمائیے کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو وہ فوراً کہے گا کہ حنفیت جس سے تعجب ہوتا ہے کہ دیوبندی جب کہ نجدی ثابت ہوا تو پھر حنفی کیسے ہوا تو اس اشتباہ کا حل یہ ہے کہ دیوبندی عقیدہ کے لحاظ سے حنفی نہیں ہے کیونکہ دلیل سے ثابت ہو گیا کہ وہ عقیدہ کے لحاظ سے نجدی اور وہابی ہے بلکہ وہ احکام فرعیہ عملیہ کی وجہ سے حنفی ہے جیسا کہ معتزلہ بعض مسائل میں عملاً حنفی ہے نہ کہ عقیدہ۔

خلاصہ یہ ہوا کہ دیوبندی اور معتزلہ عملی طور پر حنفی نہ بطور عقیدہ اور دیوبندی بطور عقیدہ نجدی اور بطریق عمل حنفی اور بریلوی عقیدہ و عملاً سنی حنفی اور دیوبندی صرف حنفی اور اہلسنت سنی حنفی سنی شافعی سنی حنبلی سنی مالکی کا مجموعہ یہ فرق از بس ملحوظ رہے تاکہ کسی کے حنفی ہونے یا کہلانے سے یہ شبہ نہ ہو کہ وہ سنی حنفی ہے۔

اسی طرح یہ اشکال بھی دور ہو گیا کہ قرآن مجید کا پڑھنا سیکھنا آسان ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (ترجمہ) ”ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو بالکل آسان کر دیا گیا ہے۔ کیا کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے؟ تو اب پھر یہ کیا ضروری ہے کہ قرآن چونکہ آسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علوم مذکورہ کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھا اور یہ ظاہر ہے۔ وجہ ازالہ اشکال یہ ہے کہ بلاشبہ قرآن مجید آسان ہے

ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن وہ ہر شخص جو کہ سمجھنے کے طریقوں سے سمجھنے یعنی علوم مذکورہ میں مہارت پیدا کرے تو استعداد تام اور ملکہ پیدا ہو جانے کے بعد قرآن مجید کو بآسانی سمجھ لے گا کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے اسالیب کلام عرب اور اس کے معیاری قواعد و ضوابط کا حال از بس ضروری ہے اور اسکا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اردو عربی وغیرہ کی معمولی شہود سے قرآنی حقائق اور فرقانی دقائق ہر کس و ناکس کی سمجھ میں آجائیں گے کہ آخر کلام الملوک ملوک الکلام مشہور مقولہ ہے معمولی استعداد والے کا کلام بسا اوقات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور قرآن تو مالک کائنات کا کلام ہے۔ رہا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علوم ضرور یہ حاصل نہیں کیے اور پھر وہ قرآن مجید کو سمجھ گئے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں معیاری علوم کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وجہ یہ بھی کہ وہ اہل زبان تھے۔ اسالیب کلام کو سمجھتے تھے۔ طبائع نقاد و قاد تھیں۔ مزید برآں حضور پر نور ﷺ کی مجالس منورہ حاصل تھیں اگر کوئی اشکال ہوتا تو خود حل کر لیتے ورنہ پوچھ لیتے لہذا ان علوم کی ضرورت محسوس نہ ہوئی مگر ہمیں چونکہ یہ سعادت نصیب نہیں اس وجہ سے ان کو حاصل کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان معیاری چیزوں کو حاصل کیے بغیر قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کی جرأت کی تو یہ بے باکی ہوگی اور نہ قابل قبول اور یہ سب کچھ تفسیر بالرائے کی صورت لیکر ناقابل التفات ہو جائے گی۔ واللہ البہادی

## بحث وسیلہ

ناظرین کرام! آج جہاں شفاعت کا مفہوم زیر بحث ہے جس کی شرعی حیثیت پر ضرورت سے زاید عقلی اور نقلی طور پر اوراق گذشتہ میں روشنی ڈالی جا چکی ہے وہاں وسیلہ کی حقیقت پر بھی لے دے ہو رہی ہے۔ بعض حضرات نے بڑی سختی سے اس کا رد کیا ہے جیسے ابن تیمیہ اور اس کے ہم نوا اور پیروکار اور بعض نے اس کو صحیح اور درست مانا ہے۔ لہذا مختصر طور پر وسیلہ کے مفہوم پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے تاکہ بحیثیت جائز اور ناجائز ہونے کے کسی نتیجہ پہ

پہنچا جاسکتے۔

## وسیلہ کا معنی

وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ کسی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے کسی چیز کو واسطہ بنایا جائے اور یہ وسیلہ تین طرح پر ہو سکتا ہے۔

## وسیلہ کے اقسام

ایک یہ کہ ذات اور متعلقات ذات کا وسیلہ دوسرا اعمال کا وسیلہ تیسرا یہ کہ دعا و ندا کا وسیلہ۔ وسیلہ ذات اور متعلقات کا مطلب یہ ہے کہ کسی مطلب اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی ذات اور متعلقات ذات کو وسیلہ بنایا جائے اور وسیلہ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو حصول مطلب کے لیے واسطہ بنایا جائے اور وسیلہ دعا اور ندا کا مطلب یہ ہے کہ دعا و ندا کو حصول مقصد کے لیے واسطہ بنایا جائے۔

وسیلہ نمبر اول کبھی استدعا اور طلب کرنے کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی بغیر استدعا و طلب کے اور یہ قسم اول یوں بھی عام ہے کہ واسطہ ذات نبی علیہ السلام ہو یا ذات ولی اور دنیا میں ہو یا قبر و قیامت میں اسی طرح عام ہے کہ ذی روح ہو یا بغیر روح اور متعلقات ذات کا مطلب یہ ہے کہ ذات کے ساتھ اس کو نسبت ہو جیسا کہ کپڑا، ناخن یا بال وغیرہ۔ اب ہم وسیلہ کی ہر سہ اقسام کو قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ اور اقوال علماء کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔

## قرآن مجید سے وسیلہ کا ثبوت

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ترجمہ ”ہم نے آپ کو سب جہانوں کے واسطے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ دیکھئے حضور علیہ السلام کی واسطہ سے سب

جہانوں پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔

(۲) مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

ترجمہ: ”آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا اور نہ ہی استغفار کرنے کی صورت میں ان کو مبتلا، مصیبت کرے گا۔“ یہاں آپ کے اور استغفار کے واسطے سے عذاب کو ٹالنے کا وعدہ فرمایا۔

(۳) وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ترجمہ ”اور اہل کتاب حضور

علیہ السلام کے معبود ہونے سے پہلے آپ کے وجود کے واسطے سے کافروں پر مدد چاہتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزماں کے واسطے سے ہمیں کافروں پر کامیاب فرما۔“

(۴) ..... يَحِلُّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ترجمہ: ”حضور علیہ السلام نے اہل کتاب کے لیے طیبات کو حلال اور خبیث اشیاء کو حرام کر دیا اور ان کے ناقابل برداشت بوجھ اتار دیئے یعنی آپ کے واسطے یہ سب سہولتیں مہیا کر دیں۔“

(۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. ترجمہ ”اے ایمان والو

اللہ سے ڈرو اور حصول قرب الہی کے لیے اس کے دربار میں واسطہ اور وسیلہ لاؤ۔“ اور یہ وسیلہ عام ہے ذات ہو یا متعلقات ذات یا اعمال وغیرہ۔

(۶) إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْمُوسَىٰ وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. ترجمہ ”طالوت کی صداقت و استحقاق پر دلیل ہے کہ وہ تمہارے پاس ایک صندوق لائے گا جس میں تمہارے لیے سکون قلب اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بعض آثار ہیں۔“

نبی اسرائیل اس صندوق کو کافروں پر کامیابی کے لیے میدان جنگ میں بھیجایا کرتے تھے اور اس کے واسطے سے دعا نصرت مانگا کرتے تھے۔ تفسیروں میں ہے کہ اس

صندوق میں سکون و قرار قلب کا سامان تھا اور کچھ آثار متروکہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نعلین پاک اور آپ کا عصا مبارک اور ہارون علیہ السلام کی دستار مبارک اور انجیر کی کچھ مقدار اور اس میں انبیاء علیہم السلام کی قدرتی تصویریں تھیں۔ یہ صندوق آدم علیہ السلام پر اترا اور نسلًا بعد نسل ان تک پہنچ گیا اور پھر ان کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے قوم عمالقہ کے قبضہ میں آ گیا۔ بنو اسرائیل اس کو جہاد وغیرہ میں حصول فتح کے لیے آگے رکھ لیتے تھے اور اس واسطے سے وہ کامیاب ہو جاتے۔

(۷) لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ترجمہ ”اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے واسطے سے نہ روکے تو زمین میں فساد ہو جائے۔“

(۸) لوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً ترجمہ ”اگر ایماندار کافروں سے الگ ہوتے تو ہم کفار کو سخت عذاب کرتے۔“

(۹) وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ تَرْجَمُهُ” اس اللہ سے ڈرو جس کے سبب سوال کرتے ہو اور قرابت داری کے ساتھ بدسلوکی سے ڈرو کہ جس کے واسطے سے تم التجا کرتے ہو۔“

(۱۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. ترجمہ ”اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے دربار میں کوئی وسیلہ لے کر آؤ۔“ عام ازیں کہ ذات کا ہو یا متعلقات ذات وغیرہ کا (تلك عشرة كاملة)

ناظرین کرام! ان حوالجات سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی حاجت کے لیے کسی چیز کو دربار الہی میں وسیلہ پیش کیا جاسکتا ہے اور یہ عقلاً و شرعاً جائز ہے۔

### حدیث شریف سے وسیلہ کا ثبوت

حدیث شریف میں ہے الابدال فی امتی ثلثون رجلاً بهم تقوم الارض وبهم تمطرون و بهم تنصرون (الحدیث). ترجمہ ”میری امت میں قریباً تیس مرد

ابدال ہیں جن کے وسیلہ سے زمین قائم ہے اور انہی کے واسطے بارش ہوتی ہے اور مدد ہوتی ہے۔“ دیکھئے اس حدیث پاک میں ابدال کو قیام ارض اور بارش اور مدد کامیابی کے لیے ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے: اللهم ائده بروح القدس ”اے اللہ (حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی جبرئیل کے وسیلہ سے مدد کر۔

حدیث میں ہے۔ اذا انفلتت دابة احدكم في ارض فلاة فلينا ديا عباد الله عينوني اعينوني. (الحديث) ترجمہ ”تم میں سے کسی کا جانور جنگل میں بے قابو ہو جائے تو اللہ کے بندوں کا وسیلہ لائے اور یوں کہے یا عباد اللہ الخ (ہدیہ المہدی ص ۲۷) مسند امام احمد میں ہے کہ شام میں چالیس ابدال ہیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔

ابوداؤد شریف میں ہے کہ مجھ کو ضعیفوں میں طلب کرو کیونکہ تم کو رزق یا مدد ضعیفوں کے واسطہ سے ملتی ہے اور فقراء مہاجرین کے واسطہ سے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مکی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فلاند میں روایت کی ہے کہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی قبر سے تبرک حاصل کرتا ہوں اور جب مجھ کو کوئی حاجت پڑتی ہے تو آپ کی قبر کے پاس آتا ہوں اور دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور آپ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں تو اس واسطہ سے میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔“

واقدی نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شہداء احد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوئیں اور دعا کرتیں تو اس واسطہ سے دعا قبول ہو جاتی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی اولاد جب تک تم ان کے واسطہ سے عملدرآمد کرتے رہو گے کبھی کمزور نہ ہو گے۔



سفر خیبر میں عامر بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اشعار سناؤ۔ تو انہوں نے سنائے جس پر آپ ﷺ نے انہیں دعا رحمت کرتے ہوئے سرفراز فرمایا۔ واللہ لولا انت ما اھتدینا۔ ولا تصدقنا ولا صلینا۔ ترجمہ ”بخدا اگر آپ کا واسطہ نہ ہوتا تو ہمیں نہ ہدایت ہوتی اور نہ ہی صوم و صلوٰۃ کی نعمت ملتی۔ یعنی آپ ہی کے واسطہ سے پیدا ہوئے پھر عالم رواح میں، پھر عالم ناسوت میں، پھر عالم برزخ میں، پھر قیامت میں پھر دخول جنت اور ابدی نعمتوں سے بازیابی محض حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے ہوگی۔

حضرت علیہ السلام کے پاس ایک نابینا آیا اور نابینائی کی شکایت کی۔ آپ نے اس کو حسب ذیل دعا سکھائی کی دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پڑھے۔ اللھم انی اسئلك واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی اللھم فشفلہ فی۔ ترجمہ ”اے اللہ میں تیرے نبی مجسمہ رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوں اور سوال کرتا ہوں یا محمد ﷺ میں آپ کے واسطہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ آپ کی سفارش میرے حق میں قبول فرما اور یہ طریق وسیلہ تا قیامت جاری ہے۔

حدیث میں ہے کہ ابوطالب نے حضور علیہ السلام کا بحالت شیر خوارگی ازالہ قحط میں وسیلہ طلب کیا۔ فرماتے ہیں ابیض یستسقی الغمام بوجهہ ثمال الیتامیٰ عصمة للارامل آپ کے چہرہ مبارک کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے اور آپ بیوگان اور یتیموں کی پناہ گاہ ہیں۔

حدیث میں ہے کہ ستاروں کے واسطہ سے آسمان محفوظ ہے اور میرے وسیلہ سے صحابہ کرام محفوظ ہیں اور میرے صحابہ کے وسیلہ سے میری امت محفوظ ہے۔ (احمد و مسلم) مختصر

حدیث میں ہے اللھم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة۔ ترجمہ: ”اے

اللہ حضرت عمر بن الخطاب کے خاص وسیلہ سے اسلام کو عزت دے۔ (حاکم بیہقی)

حدیث میں ہے لولا شیوخ رکع و صبیان دضع و بہائم رتع لصب

عليكم العذاب صبا ترجمہ ”اگر بوڑھے رکوع کرنے والے اور شیر خوار بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو تم کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔“ یعنی ان کے وسیلہ سے یہ عذاب نل گیا۔

قال الجوزی فی الحصن فی آداب الدعاء ومنها ان يتوسل الى الله تعالى بانبيائه و الصالحين من عباده. ”ترجمہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کا وسیلہ لایا جائے۔“

ناظرین کرام! ان حوالجات سے ثابت ہوا کہ کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قضا حاجت کے لیے وسیلہ لانا درست ہے اور صحیح۔

مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک اور آسمان کے درمیان پردہ اٹھا دو (تو آپ کی قبر شریف کے وسیلہ سے) بارش ہوئی۔

حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسطنطنیہ میں مزار پاک مرجع خواص و عوام ہے یعنی اس کے وسیلہ سے مطلب براری ہوتی ہے۔

حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں یہ مذکور ہے یا رب اسئلك بحق محمد ﷺ. (حاکم۔ طبرانی۔ بیہقی) ترجمہ: ”اے میرے رب میں محمد (ﷺ) کے حق کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ (ابن المنذر)

حدیث میں ہے اللهم انی اسئلك بجاه محمد عندک و کرامۃ علیک. ترجمہ ”اے اللہ میں محمد (ﷺ) کے اس حق اور کرامت کے وسیلہ سے جو کہ تیرے دربار میں ان کو حاصل ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔“

قال السبکی بحسن التوسل والا ستعانة والتشفع زاد القسطلانی والتضرع والتجوه والتجوه بالنبی الی ربہ ولم نیکو ذالک احد من السلف و الخلف. (ہدیہ المہدی ص ۸۴)

ترجمہ: ”امام سبکی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قضا حاجت کے لیے نبی کریم ﷺ کو وسیلہ شفیع وغیرہ بنانا بالاتفاق جائز ہے۔

بخاری شریف میں تین مسافروں کا قصہ مذکور ہے جو بارش میں گھر جانے کی وجہ سے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے کہ غار کے منہ پر ایک پتھر گرا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر وہ اپنے مخلصانہ اعمال کی وجہ سے باہر نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار صالح کے وسیلہ سے انہیں نجات دی۔

مولوی اسحاق صاحب مائة مسائل میں لکھتے ہیں۔ یجوذالدعاء من اللہ بان یقول یا اللہ اقص حاجتی بحرمت فلاں وقدروی فی دعاء الاستفتاح بحرمة الشهر الحرام والمشعر العظام و قبر نبيک علیہ السلام. (ترجمہ) ”اللہ سے یوں دعا جائز ہے کہ اے اللہ فلاں شخص کی حرمت و عزت کے واسطے سے اور شہر حرام اور مشعر عظام کی حرمت کے وسیلہ سے اور آپ کی قبر شریف کی بدولت میری حاجت کو پورا کر دے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں دعا مانگی۔ اسئلک بحق السائلین علیک و بحق ممشای هذا الیک. (ابن ماجہ) ترجمہ ”اے اللہ میں تجھ سے سائلین کے اس حق اور عزت جو ان کو تیرے ہاں حاصل ہے اور اس تیری طرف چلنے کے حق کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔“

حدیث میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہوئیں تو ان کے دفن کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی ”اے اللہ میری چچی کو بخش اور اس پر اس کی قبر کو میرے حق اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے واسطے سے کشادہ کر کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ (طبرانی ابن حبان حاکم)

دلائل الخیرات میں ہے اللهم بالاسماء المكتوبة حول العرش وبالاسماء التي حول الكرسي الخ. ترجمہ ”اے اللہ ان ناموں کے وسیلہ سے جو کہ کرسی اور عرش کے ارد گرد لکھے ہوئے ہیں۔ (میری دعا قبول کر)

مشہور بات ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کا بال مبارک رکھا ہوا تھا جس کے وسیلہ سے روم شام ایران وغیرہ ممالک میں فتوحات ہوئیں۔

ناظرین حضرات! قرآن و حدیث وغیرہ کے ان حوالجات میں حقوق و قبر شہر حرام مشعر حرام، عبادت کے لیے چلنا انبیاء علیہم السلام کرسی و عرش کے اسماء مکتوبہ بال مبارک وغیرہ کا وسیلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا سلف و خلف سے کسی نے انکار نہیں کیا تو روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو گیا کہ کسی نوعیت کے جائز وسیلہ و واسطہ کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اختیار کرنے میں شرعی اور عقلی طور پر کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ امر مندوب و مستحسن ہے۔

حدیث میں وارد ہے۔ من بنی اللہ مسجداً بنی اللہ له بیتا فی الجنة مثله او کمال قال. ترجمہ ”جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کی بدولت اس جیسا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔“

حدیث میں ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من بنی مسجداً او ترک ولداً صالحاً يدعو له او علماً ينتفع به. ترجمہ ”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے مگر جو مسجد بنائے یا نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا خیر کرے یا علم پڑھا جائے جس سے لوگوں کو نفع ہو (تو اس کا عمل جاری رہے گا) ہدیۃ المہدی ص ۴ پر ہے۔ ولیت شعری اذا جاز التوسل الی اللہ بالاعمال الصالحة بنص من الكتاب والسنة یقاس علیہا التوسل بالصالحین..... والتوسل الی اللہ تعالیٰ باہل الفضل والعلم ہو فی الحقیقۃ توسل باعمالہم الصالحة ومزایا ہم الفاضلة. ترجمہ ”جب کہ اعمال صالحہ کے ساتھ کتاب و سنت سے توسل جائز ثابت ہو تو صالحین کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صالحین کے ساتھ توسل اصل میں ان کے اعمال صالحہ اور صفات حمیدہ کے ساتھ توسل ہے۔“ نیز ان حوالجات میں غور کرنے سے ذات اور متعلقات ذات اور اعمال کے ساتھ وسیلہ لینا ثابت اور واضح ہو گیا صرف دعا و ندا کے ساتھ توسل باقی رہ

گیا اور نسبتہ اس میں نزاع زیادہ ہے۔ لہذا اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

## دعا و ندا کے ساتھ وسیلہ

دعا اصل میں دعا یدعو سے ہے بمعنی بلانا یا پکارنا اور قرآن میں دعا کو تقریباً پانچ معنوں میں استعمال کیا گیا ہے

(۱) پکارنا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ادعوہم لابانہم ہوا قسط عند اللہ۔ ترجمہ ”ان کو ان کے باپوں کا نام لے کر بلاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مناسب ہے۔“ والرسول یدعوکم فی اخری کم اور رسول تم کو پیچھے سے پکارتے ہیں۔ (ﷺ) ان جیسی آیات میں پکارنا مراد ہے مگر یہ پکارنا کئی طرح پر ہوتا ہے۔

(الف) مخلوق کو سبب اور ذریعہ سمجھ کر پکارنا جیسے یارب اسئلک بحق محمد۔ یا عباد اللہ اعینونی۔ یا محمد انصر۔ یا رسول اللہ یا علی یا غوث وا محمد اہ۔ یا عمراہ قبلہ دین مدد دے کعبہ ایمان مدد دے۔ قاضی شوکانی مدد دے۔ ابن قیم مدد دے۔

(ب) قریب کو پکارنا یا اللہ اور یا زید وغیرہ جب کہ قریب ہو عام ازیں کہ ذی شعور ہو یا غیر ذی شعور یا جبال یا ارض یا حجر وغیرہ۔

(ج) بعید کو پکارنا کہ وہ بقدرت الہی خود سن لیتا ہے یا اس کو کسی واسطہ سے سن لیتا ہے۔ نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو جیسا کہ قوت قدسیہ والے پکارتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا ساریۃ الجبل علاقہ نہاوند میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر بحکم الہی تمام قریب و بعید لوگوں کو پکارا جس کو تمام روحوں نے جو کہ تاقیامت تک پیدا ہونے والی تھیں سب نے سن لیا جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے آج ہر نماز نماز میں السلام علیک ایہا النبی بصورت خطاب پڑھتا ہے۔ شرق میں ہو یا غرب میں جنوب میں ہو یا شمال میں

تو اگر دور سے پکارنا شرک ہو تو غازی نماز سے فارغ ہونے سے قبل مشرک اور کافر ہو جائے۔

یہ عقلاً بھی جائز ہے۔ دیکھئے ریڈیو کے ذریعہ آج کتنی دور تک آواز پہنچائی جاتی ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ریڈیو میں بجلی کی قوت سبب ہے تو اسی طرح جائز ہے کہ نور نبوت کی قوت سبب ہو اور سبب سے یہ آواز دور تک سنائی جاسکے اور اسی طرح نور ولایت و فراست کی قوت اور سبب سے دور تک آواز سنائی جاسکتی ہے۔

(د) مردوں کو پکارنا کہ وہ سنتے ہیں جیسا کہ ہر نمازی نماز میں حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو پکارتا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ قبرستان میں جا کر اہل قبور کو یوں خطاب کریں۔ السلام علیکم دار قوم من المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذبح کی ہوئی چیزوں کو پکارا اور انہوں نے سن کر تعمیل حکم کی۔ ثم ادعہن یا تینک سعیا ترجمہ ”پھر ان کو بلائیے وہ آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد ان کو پکارا۔ فتولی عنہم وقال یقوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد پکارا۔ فتولی عنہم وقال یقوم لقد ابلغتکم رسالات ربی۔

حضور پر نور ﷺ نے خود بدر کے روز مردہ کافروں ابو جہل، ابولہب، امیہ بن خلف وغیرہ کو پکار کر خطاب کیا اور حضرت عمرؓ کے عرض کرنے پر فرمایا کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعدد مردوں کو پکارا اور وہ قبروں سے باہر نکل آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس وقت جب کہ ان کا قبر میں حساب شروع ہوا اور وہ گھبرا گئیں اوپر سے تلقین کی کہ آپ یوں کہو نبی ابن انخی محمد ﷺ اسی طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو دور ہوں یا نزدیک خطاب کرنا درست ہے اور وہ سنتے اور حتی الوسع تعمیل حکم بھی کرتے ہیں۔

ذ: کسی کو پکارنا کہ وہ سنتے ہیں اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے۔ واسئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الہة یعدون۔ ترجمہ ”اے پیارے محبوب ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے کہ ہم نے اپنے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔“ ظاہر ہے کہ باقی انبیاء علیہم السلام آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب گذشتہ رسولوں سے پوچھ لو کہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے اور پوچھا اسی سے جاتا ہے جو سنے اور سکر جواب دے۔

معراج شریف کی رات سب گذشتہ انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور حجۃ الوداع میں سب نبیوں نے شرکت کی اور حج ادا کیا۔ یا عباد اللہ اعینونی۔ یا محمد انصر قبلہ دیں مددے کعبۃ ایمان مددے وغیرہ۔

ر: دور سے پکارنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لایحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لایشعرون فتبسم ضاحکامن قولہا۔ ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیو اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں بے خبری کی وجہ سے سلیمان اور اس کا لشکر جس پر سلیمان علیہ السلام سکر مسکرائے۔ تفاسیر میں ہے کہ یہ لشکر تین میل کے فاصلہ پر تھا ظاہر ہے کہ چیونٹی کے قدم کی آواز کس قدر دھیمی اور باریک ہوتی ہے کہ قریب کھڑے نہیں سن سکتے مگر سلیمان علیہ السلام نے تین میل سے سن لی۔ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعیہ زبردست تھی۔ قرآن مجید میں ہے ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجدریح یوسف لولا ان تفندون۔ ترجمہ ”قافلہ جب مصر سے جدا ہوا تو یہاں یعنی کنعان میں ان کے باپ نے کہا کہ بیشک مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ کہو۔“

ملاحظہ ہو یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر

سے چلی ہے جس کی خوشبو آپ کو یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھئے کتنی دور سے احساس فرمایا اور کہا۔

قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک: ترجمہ: ”جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس اس کو حاضر کروں گا آپ کے پل مارنے سے پہلے۔“ ملاحظہ ہو کہ یہ لانے والے آصف بن برخیا شام میں ہیں اور بلقیس کا تخت یمن میں اور فوراً لانے کی خبر دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کا لانا بغیر دیکھے اندازہ لگانے مقدور ہونے بالکل ناممکن ہے ثابت ہوا کہ ان کی قوت رویت بڑی تیز تھی۔“

وانبئکم بماتا کلون وتدخرون فی بیوتکم. ترجمہ ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو ان تمام چیزوں کی خبر دیتا ہوں جن کو تم کھاتے اور گھروں میں جمع کرتے ہو۔ دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چشم پاک اپنی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے جو وہ کھاتے اور گھروں میں جمع کرتے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ آپ میں اور ان چیزوں میں سینکڑوں حجاب ہوں گے مگر سب کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور اطلاع دی جا رہی ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے حواس میں بے پناہ قوت ودیعت فرماتا ہے۔

ز: کسی کو امور خارقہ یا فوق الاسباب طریق پر پکارنا اور مدد کا لینا و دینا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت ساریہ کو علاقہ نہادند میں جو کہ مدینہ پاک سے تقریباً پندرہ سو میل دور ہے برسر منبر پکارا اور ان کو دشمن کی خفیہ تدبیر پر مطلع فرما کر ان کی مدد کی حتیٰ کہ اسلام کو فتح ہو گئی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے دور سے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی مدد فرمادی اور بطریق خرق عادت اور مافوق الاسباب طور پر بحکم الہی اپنی قمیص سے انکی آنکھیں روشن



کردیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطریق مافوق الاسباب وفات کے بعد ہماری مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کروادیں۔ مختصر یہ کہ جملہ معجزات اور کرامات جو کہ مافوق الاسباب اور خرق عادت کے طور پر ہیں سب شرعاً صحیح و درست ہیں کیونکہ مافوق الاسباب کا اور خرق عادت کا معنی یہی ہے کہ قدرت نے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کو کسی سبب پر موقوف کہا جیسے روشنی سورج اور چاندنی چاند پر دیکھنا آنکھ کے کھولنے اور کھانا منہ پر اور سننا کان پر موقوف کیا ہے۔ کسی ایسی چیز کو قدرتی طور پر بظاہر سبب کے بغیر پیدا کر دیا جائے۔ مثلاً روشنی سورج کے بغیر دیکھنا آنکھ کے بغیر اولاد والدین کے بغیر ظاہر کر دی جائے۔ بہر صورت مافوق الاسباب کے طور پر غیر اللہ سے مدد دینا اور لینا شرعاً جائز ہے۔

س: خدا کا مقابل سمجھ کر پکارنا یعنی غیر اللہ کو خدا اور مستقل بالذات اور مستحق عبادت سمجھ کر پکارنا۔ قرآن میں ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا مثالکم جن کو خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ ان المساجد لله فلا تدعوا مع اللہ احداً۔ بیشک اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔ ان جیسی تمام وہ آیات جن میں غیر خدا کی دعا کو شرک و کفر کہا لیا ہے یا اس پر جھڑکا گیا ہے ان سب میں دعا کا معنی عبادت ہے اور یدعون کا معنی پوجتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ہر آیت میں دعا کا معنی عبادت نہیں بلکہ بعض جگہ عبادت کا معنی ہے اور بعض جگہ کوئی اور معنی اسی وجہ سے علماء کرام نے دعا بمعنی عبادت کے کچھ قرائن بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر دعا بمعنی عبادت ہے مثلاً دعا کے ساتھ عبادت یا الہ کا لفظ آجائے۔

قرآن میں ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ اس آیت میں ان اعبد سے معلوم ہو گیا کہ مراد تدعون سے تعبدون ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں پر

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بھی بقرینہ عبادت دعا سے پکارنا مراد نہیں بلکہ عبادت کرنا مراد ہے۔ اسی طرح جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا فاعل کافر ہو یا دعا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو یا دعا کرنے والوں کو خدا پاک نے کافر مشرک گمراہ فرمایا ہو تو دعا سے مراد عبادت و پوجنا مراد ہوگا نہ صرف پکارنا۔

بہر صورت دعا کا معنی ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے عموماً الفاظ کے معنی بیان کرنے میں سیاق و سباق اور قرآن حالیہ مقالہ وغیرہ کا لحاظ کرنا از بس ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اگر دعا لہ کہا جائے تو معنی یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی اور دعا علیہ کہا جائے تو اس کا معنی ہے اس پر بدعا کی۔ لہذا لازمی طور پر دعا کے معنوں میں غور کرنا ضروری ہے ورنہ معنی صحیح نہ ہوں گے۔ مثلاً دیکھئے کہ اگر دعا کا معنی ہر وجہ سے پکارنا ہی ہو تو ان آیات کے ساتھ جن میں دعا کو عبادت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تعارض اور مخالف لازم آئے گا لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دعا کا معنی پکارنا اور عبادت ہر دونوں ہیں۔ جن آیات میں عبادت ہے وہاں پر دعا کا معنی پکارنا ہے اور جہاں پر ممانعت ہے وہاں پر دعا کا معنی عبادت ہوگا یا یوں کہئے کہ پکارنے کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی پکارا جائے مگر اس کو خدا نہ سمجھا جائے اور دوسرا یہ کہ کسی کو مستقل اور خدا سمجھ کر پکارا جائے۔ لہذا جن میں ممانعت ہے ان میں کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔ کیونکہ عبادت خدا کے سوا اور کسی کو نہیں ہو سکتی نتیجہ یہ کہ کسی دوسرے کو پکارنا جب کہ اس کو خدا نہ سمجھا جائے جائز ہے زندہ ہو یا مردہ نبی ہو یا غیر، پتھر ہو یا لکڑی فرق صرف یہ ہے مرنے کے بعد نبیوں اور ولیوں کے علاوہ اوروں کو اگر ان کی قبر پر جا کر پکارا جائے تو سنتے ہیں ورنہ نہیں جیسا کہ سوئے ہوئے کہ روح جہاں چاہے سیر کرتی ہے مگر سنتی جب ہے کہ پاس آ کر آواز دین۔ اسی طرح قبر کے پاس سے سنتی ہے دور سے نہیں بخلاف انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے کہ وہ جیسے دنیا میں دور سے سنتے تھے بعد وفات بھی دور سے سنتے ہیں۔

ش: شوق اور محبت کی وجہ سے کسی کو پکارنا۔ اگر کوئی مال محبت اور عشق سے کسی کو پکارے

تو یہ جائز ہے لہذا اسی نیت سے یا رسول یا غوث یا علی کہنا جائز ہے کہ یہ محض محبت سے پکارنا ہے۔

حاجی امداد اللہ صاحب فیصلہ مفت مسئلہ میں فرماتے ہیں۔ اس میں (یعنی ندائے غیر اللہ میں) تحقیق یہ ہے کہ ندا سے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی محض اظہار شوق کبھی تحسّر کبھی منادی کو سنانا اور کبھی اسکو پیغام پہنچانا سو مخلوق غائب کو پکارنا۔ اگر واسطے محض تذکرہ اور شوق وصال اور حسرت فراق کے ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتا ہے اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسی ندا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بکثرت روایات میں منقول ہے اور اگر مخاطب کا اسماع یعنی سننا مقصود ہے تو اگر تصفیہ باطن سے منادی کو مشاہدہ کر رہا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر مشاہدہ نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو یہ خبر پہنچ جائے گی اور وہ ذریعہ ثابت بالدلیل ہوتا بھی جائز ہے مثلاً ملائکہ کا درود شریف حضور اقدس میں پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے اگر کوئی الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے کچھ مضائقہ نہیں اور اگر منادی مشہود نہ ہونہ پیغام پہنچانا مقصود ہی ہونہ کوئی ذریعہ مدلل ہو تو ندا ممنوع ہے مگر مصلحت یوں ہے کہ مذا کرنے والا سمجھ دار ہو تو اس پر حسن ظن کیا جائے اور اگر عامی جاہل ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے اور اصل عمل سے نہ روکا جائے (ملقط) اسی طرح ہدیۃ المہدی میں بھی ہے۔

(۲) دعا کا معنی بلانا۔ وادعوا شهداء کم من دون اللہ۔ ترجمہ ”اپنے معبودوں کو بلاؤ جو اللہ کے سوا ہوں۔“

(۳) دعا کا معنی مانگنا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ“ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں اپنے رب سے مانگا۔“

(۴) دعا کا معنی آرزو کرنا۔ ولکم فیہا ماتشتہی انفسکم ولکم فیہا ماتدعون، ”جنت میں تمہارے واسطے وہ ہے جو تم چاہو گے اور اس میں وہ ہر چیز ہوگی جو کہ تم طلب کرو گے۔“

(۵) دعا کا معنی شرک و کفر کرنا: ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً۔ ”بلاشبہ مساجد اللہ کے لیے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے شرک و کفر نہ ہو۔“

## ندا قریب و بعید کی بحث و تنقیح

بعض حضرات اس پر اڑ جاتے ہیں کہ ندا بعید کو ہی کی جاسکتی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ قریب کے لیے ہے بعید کے لیے نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ندا قریب و بعید ہر دو کے لیے ہے۔ لہذا ایک مخصوص انداز پر روشنی ڈالی جاتی ہے جس سے مذکورۃ الصدر مطالب کی مزید وضاحت بھی ہو جائے گی۔

(۱) دعا اور ندا کا لغت میں ایک ہی معنی ہے یعنی پکارنا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ندا اس پکارنے کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کو سنانا مقصود ہوتا ہے اور دعا صرف پکارنے کو کہتے ہیں کوئی سنے یا نہ سنے مگر اصطلاحی اور شعری طور پر دعا کا معنی عبادت ہے لہذا معنی اول کی رو سے ندا و دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کو بھی کی جاسکتی ہے۔

ہدیۃ المہدی ص ۲۳ پر ہے۔ الدعاء الشرعی عبادۃ كالصلوة فلا يجوز من غیر الله وهی المراد فی الايات التي ورد فيها لفظ الدعاء اما الدعاء اللغوی بمعنی النداء فيجوز لغير الله تعالى مطلقاً سواء كان حياً او ميتاً. ترجمہ ”دعا شرعاً عبادت کے معنی میں ہے نماز کی طرح لہذا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں اور جن آیات میں دعا وارد ہے وہاں بمعنی عبادت ہے اور دعا بمعنی لغوی وہ ندا کے معنی میں ہے جو غیر اللہ کے لیے جائز ہے۔ عام ازیں زندہ ہو یا مردہ۔“

(۲) یہ کہ ندا قریب اور بعید ہر دو کے لیے جائز ہے۔ حیات میں ہو یا ممات میں ذی شعور ہو یا غیر شعور موجود ہو یا متحیل ہر ایک کے لیے جائز ہے نحو میر میں ہے دیا عام است یعنی برائے دور و نزدیک مستعمل شود یعنی یا قریب و بعید دونوں کے لیے

ہے۔ علامہ جار اللہ زمشری گفتہ کو یا نیز برائے دور است وایں قول مرجوع است  
چہ شائع است یا رب یا اللہ و نیز ظاہر است کہ خداوند کریم اقرب است از شہ رگ  
گردنکہ مایہ حیات است۔ ترجمہ ”کہ یا دور کے لیے ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے  
کیونکہ مشہور ہے کہ یا رب یا اللہ کہا جاتا ہے اور خداوند کریم شاہ رگ سے بھی  
قریب ہے جو کہ معیار حیات ہے۔

تفسیر بیضاوی میں ہے ص ۳۹ ویا وضع لنداء البعید وقد ینادی بہ القریب  
تنزیلا منزلة البعید اما لعظمتہ کقول الداعی یا رب یا اللہ و هو اقرب الیہ من  
حبل الورد الخ اور یا بعید کے لیے ہے اور کبھی قریب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔  
بنا بر عظمت جیسے داعی یہ کہتا ہے یا رب یا اللہ اگر بعید ہی کے لیے ہو تو اللہ تو شہ رگ سے بھی  
قریب ہے۔

ہدایۃ النحو میں ہے ویالہما اور یا قریب وبعید ہر دو کے لیے ہے شرحی جامی میں ہے  
یا اعمہما استعمالا لانہما تستعمل لنداء القریب والبعید یا دونوں سے عام ہے کیونکہ  
یہ قریب وبعید ہر دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح کلمہ میں ہے۔

ہدیۃ المہدی ص ۲۴ پر ہے۔ (ترجمہ) کہ اس سے واضح ہوا کہ عام لوگ جو یوں  
کہتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث، یا علی وغیرہ چونکہ محض ندا ہے لہذا جائز ہے اسی طرح جو قہکی بدر  
پر آپ نے یا فلاں بن فلاں اور حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف میں جو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
الخ آیا ہے سب جائز ہے۔ اسی میں ص ۲۳-۲۵ پر ہے (ترجمہ) اگر کوئی یہ گمان کرے کہ حضور  
علیہ السلام کا سماع یا علی یا اور اولیاء کا سماع عوام الناس کے سماع سے اس قدر زاید ہے کہ باقی  
اقطار ارض کو شامل ہے تو یہ شرک نہیں کیونکہ اللہ نے بعض ملائکہ کرام کو بلکہ بعض حیوانات کو اس  
حد تک سماعت و بصارت عطا کی ہے کہ وہ عوام الناس کی سماعت اور بصارت سے بہت زیادہ  
ہے اور ویلیسی نے مسند الفردوس اور ابو یعلیٰ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ  
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مقرر کر رکھا ہے کہ جب کبھی میری امت سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ

فرشتہ کہتا ہے یا محمد فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے اور عقلی اور نجاری نے اپنی تاریخ میں مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو دنیا بھر کی آوازوں کو سننے کے لیے برابر کان دیئے ہیں۔ ثابت ہوا کہ خدا قریب و بعید کے علاوہ حیات و ممات میں بلکہ حیوانات وغیرہ میں یہ خدا و سماع صحیح و درست ہے۔ قرآن مجید میں ہے باجمال اویسی۔ باسماء اقلعی۔ بالارض اقلعی۔ بالحسرة علی العباد۔ بالیہ الناس۔ بالیہ المرمل حدیث میں ہے یا محمد اسی التوجہ الخ یا عباد اللہ استغفونی۔ یا محمد اوی۔ یا عمر اوی یا حجر۔ ثابت ہوا کہ جمادات اور متخیل و متصور امور کو اور بہت مصیبت مقربان الہی وغیرہ کو زندہ ہوں یا فوت شدہ دور ہوں یا قریب مصیبت بری ہو یا چھوٹی دن ہو یا رات اور وہ ذی شعور ہو یا غیر ذی شعور بنائے جنس ہوں یا غیر خدا دینا پکارنا جائز اور صحیح ہے۔

(۳) غیر اللہ کو پکارنا خدا دینا اس کی کئی صورتیں ہیں۔ (۱) یہ کہ غیر اللہ کو کہے یا شہد مقہر عن الہی سمجھ کر اور یہ کہ ان کو اللہ نے عالم اسباب میں از قبیلہ اسباب بنایا ہے (۲) یہ کہ وہ غیر اللہ مستقل بالذات ہیں۔ کہ اپنی ذاتی قوت سے حاجت روائی کرتے ہیں۔ (۳) یہ کہ وہ غیر اللہ مستقل بالذات تو نہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی استقلالیّت میں دخل اور شرکت ہے کہ دونوں قوتوں کے مجموعہ سے سائل کی مراد پوری ہوتی ہے (۴) یہ کہ وہ غیر اللہ مستقل بالذات تو نہیں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل طور پر قوت تصرف و ایجاد تسلیم و تفویض کر دی گئی ہو کہ وہ اس تفویضی قوت سے جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ کی قوت کو اس میں کوئی دخل نہیں گویا اللہ تعالیٰ کا نظام عالم کے وجود و بقا سے کوئی تعلق نہیں صرف غیر اللہ ہی کی تفویضی قوت اور اس کے اختیار سے سلسلہ کائنات قائم و دائم ہے۔ یہ چار احتمال ہیں جن سے بعض صحیح اور بعض غیر صحیح اور ناجائز ہیں۔ مثلاً دوسرا اور تیسرا احتمال تو صریح شرک و کفر ہے۔ کوئی ایماندار اور فطرت سلیمہ کا مالک اس کا معتقد نہیں ہو سکتا اور عقلاً و عقلاً یہ اعتقاد باطل ہے۔ اسی طرح چوتھا خیال بھی باطل اور غیر صحیح ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعطل لازم اور بیکار ہونا لازمی آتا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے۔ کل اخذنا صیبتہا۔

من يكلؤكم بالليل والنهار. بیدہ ملکوت کل شیء. تلک الایام نداولہا بین الناس. ترجمہ ”ہر ایک اسی کے قبضہ میں ہے۔ دن رات تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہر چیز کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اور زمانہ میں انقلاب پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور یہ عالم بحیثیت ممکن ہونے کے اپنے وجود و بقا میں ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے نیز اس وجہ سے بھی کہ نظام عالم نفس الامر اور واقع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چل رہا ہے۔ اب اگر غیر اللہ بھی مستقل طور پر گوتفویضی قوت سے ہی سہی عالم میں متصرف مان لیں تو تعارض و اختلاف رونما ہو کر یا تو دونوں میں سے ایک کا تصرف باطل ہو جائے گا یا نظام عالم کا وجود و بقا خطرہ میں پڑ جائے گا۔“

اور درحقیقت یہ اعتقاد ہندو چین و یونان وغیرہ کے کافروں کا بلکہ اسلامی فرقوں سے معتزلہ کے بعض افراد کا ہے جیسا کہ ہدایۃ المہدی ص ۱۳ حاشیہ پر مذکور ہے۔ قال امامنا جعفر بن محمد علیہ و علی اللہ السلام لا جبر ولا تفویض ولكن امر بین امرین هذا رد علی المعتزلة حیث شہروا انفسہم بانکار لکن عظیم من الذین وهو کون الحوادث بقدرۃ اللہ تعالیٰ و قضائہ و زعموا ان العبد قبل ان يقع منه الفعل مستطیع تام یعنی لا بتوقف فعلہ علی تجدد فعل من افعاله تعالیٰ و هذا معنی التفویض یعنی ان اللہ فوض الیہم افعالہم فمن فهم هذا المعنی لمخلوق من مخلوقات اللہ تعالیٰ فقد ضل و اضل و مشرکوا الہند البراہمۃ۔

مشرکوا الیونان والصین كانوا یزعمون اللہ فی روح و ریحان و راحة و نوم و قدنوض الامور الی برہما و یشن و شانتی و مہادیو و غیرہم فهم یعملون کیف یشاؤن و لذالک جعلوہم الہة و عبدوہم بانواع العمدات الی لا تلیق الا بحضرة الالوہة خابوا و خسروا و ضلوا و اضلوا۔

ترجمہ: ”اور ہمارے امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ جبر ہے اور نہ ہی تفویض بلکہ

معاملہ ان کے بین بین ہے اور یہ معتزلہ پر رد ہے کہ انہوں نے اپنی تشہیر کا ذریعہ دین کے ایک عظیم ترین رکن کا انکار بنا رکھا ہے اور وہ یہ کہ اہل اسلام کے ہاں یہ مسلم ہے کہ جملہ حوادث عالم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قضا سے معرض وجود میں آئے ہیں مگر معتزلہ اس کے منکر ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بندہ اپنے فعل پر کرنے سے قبل قدرت کامل کا مالک ہے اب اس فعل کی ایجاد میں قدرت الہی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ گویا یہ فعل صرف بندے کی قدرت کا تاثر متصور ہوگا۔ اور تفویض قدرت کا یہی مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے بندوں کو اپنے افعال کرنے کی قدرت تفویض و تسلیم کر دی ہے (کہ اللہ کی قدرت کو اس میں کوئی دخل نہیں) پس جس شخص نے کسی مخلوق کے لیے یہ تفویض معنی سمجھ لیا کہ بندہ اپنی تفویضی قدرت سے اپنا فعل کرتا ہے تو وہ بنفس خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو گمراہ کرے گا اور ہند کے مشرکین براہمہ جن کو برہمن کہتے ہیں اور یونان اور چین کے مشرکین یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی راحت و آرام اور چین و نیند میں خوش و خرم ہے (اور کوئی کام نہیں کرتا بلکہ) کائنات عالم کے تمام کاروبار کا سلسلہ برہما، بشن، شانتی۔ مہادیو وغیرہ کو سپرد کر دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو پس وہ جو چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں عالم کائنات میں کرتے ہیں اور اسی واسطے برہما وغیرہ کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا اور ایسی صورتوں میں ان کی عبادت کرتے تھے جو کہ صرف خداوند کریم خالق کائنات کا ہی حق ہے اور اسی کو سزاوار ہے پس وہ انتہائی خسارہ اور گھاٹے میں پڑے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا العیاض باللہ ثم العیاض باللہ۔





## ان عبارات سے کیا ثابت ہوا

(۱) یا قریب و بعید ہر دو کے لئے آتا ہے (۲) ندا ہر شخص ہر چیز کو زندہ ہو یا مردہ موجود ہو یا متخیل وغیرہ سب جائز ہے (۳) ندا بمعنی عبادت غیر اللہ کو ناجائز ہے۔ (۴) غیر اللہ کو کسی امر میں مستقل سمجھنا ذاتی قدرت سے یا تقویٰ یعنی قوت سے حرام کفر و شرک ہے۔ (۵) تقویٰ یعنی قوت کا اعتقاد پہلے ہند یونان چین کے مشرکین کا تھا۔ (۶) بعد میں معتزلہ نے بھی تقویٰ قوت کا اعتقاد کر لیا اور گمراہ ہوئے۔ (۷) تقویت الایمان میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ چاہے وہ اپنی قوت سے ہو یا خدا کی دی ہوئی قوت سے ہو ہر طرح سے شرک لازم آتا ہے۔ وہ مشرکین ہند، یونان، چین اور معتزلہ کے اعتقاد سے کیا گیا۔ گویا تقویت الایمان کا ماخذ معتزلہ کا مذہب ہے۔ جیسا کہ معتزلہ کے اعتقاد کا اصل مشرکین یونان وغیرہ کا اعتقاد ہے۔ (۸) ندا استمداد وغیرہ کا رد معتزلہ کے مذہب کی روشنی میں کیا گیا ہے جیسا کہ اور امور مثلاً خلف و عید امکان کذب وغیرہ میں معتزلہ سے استناد کیا گیا ہے حالانکہ مذہب معتزلہ کا بذات خود باطل ہے اور پھر طرہ یہ کہ کسی مسلمان کا عقیدہ ایسے مسائل میں تقویٰ یعنی قوت نہیں ہے۔ از بردستی بنا فاسد علی الفاسد کے طور پر مسلمانوں پر تقویٰ یعنی قوت کی نوعیت کو تھوپ دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس قسم کے مسائل میں غیر اللہ کی طرف نسبت محض سبب ہونے کے لحاظ سے اور مجازی طور پر۔ (۹) تقویت الایمان میں معتزلہ کے عقائد کی بنا پر تردید کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب تقویت الایمان اور اس کے پیروکاروں کا عقیدہ اہلسنت کا عقیدہ نہیں بلکہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ گویا حنفی کہلاتے ہیں مگر عقیدہ سنی حنفی نہیں ہے بلکہ وہابی معتزلی۔ (۱۰) تقویت الایمان میں بہتان تراشی اور خلاف واقع حالات سے کام لیا گیا

۱ کیونکہ بندہ ممکن ہے اور ممکن ہر آن میں اپنے مرتبہ ذات میں غیر کا محتاج ہے اسی طرح اہل حق اہل سنت کے نزدیک بندہ اپنے افعال میں گو کا سب تسلیم کیا گیا ہے لیکن فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے جب بندہ کوئی فعل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے ثابت ہوا کہ بندے کے فعل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دخل ہے اور تقویٰ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ فلا تعطل

ہے۔ (۱۱) تقویت الایمان کو باوجود ایسے ناجائز اور غلو آمیز اور بہتان صریح پر مشتمل ہونے کے پھر بھی دیوبندی حضرات اس تقویت کی تعریف میں ہمہ تن رطب اللسان ہیں اور اس کو ماننا پڑھنا پڑھانا عین اسلام اور محض ایمان بتلاتے ہیں اور اس کو نہ ماننے والوں کو گمراہ اللہ سبحانہ رحم کرے۔ اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

## وسیلہ کی نوعیت

ناظرین! قضا حاجات میں کسی وسیلہ کو اختیار کرنا گو یہ ثابت ہو چکا ہے مگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس وسیلہ کی نوعیت کیا ہے کیونکہ وسیلہ اور واسطہ کا ایک ہی معنی ہے اور واسطہ کی کئی قسمیں ہیں۔ نہ معلوم کہ یہاں پر کونسا واسطہ مراد ہے لہذا ضروری ہے کہ واسطہ کی مختصر سی تشریح اور اس کی تعیین کر دی جائے؟

عرف میں واسطہ یہ ہے کہ ایک امر کو دو چیزوں کے درمیان اعتبار کیا جائے جس کو عموماً ہر آدمی جانتا ہے۔ مگر علمی اصطلاح میں اس کی تین قسمیں ہیں واسطہ فی الثبوت اور یہ دو قسم ہے۔ قسم اول یہ ہے کہ واسطہ اور ذو واسطہ ہر دو حکم کے ساتھ حقیقتہ متصف ہوں جیسا کہ ہاتھ کے واسطہ سے کنجی کی حرکت اس میں ہاتھ واسطہ اور کنجی ذو واسطہ ہے اور حرکت حکم ہے جس کے ساتھ ہاتھ اور کنجی ہر دو حقیقی طور پر متصف ہیں کیونکہ ہاتھ اور کنجی دونوں میں اختلاف وضع و نسبت ماحول میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور یہی حرکت کی حقیقت ہے اور قسم دوم یہ ہے کہ واسطہ اس میں سفیر محض ہوتا ہے اور اس کے لیے حکم ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ رنگریز کے واسطے سے کپڑے کا رنگ کہ رنگریز کپڑے اور رنگ میں واسطہ ہے مگر رنگ صرف کپڑے میں ہے رنگریز میں نہیں کیونکہ رنگریز حیوان ناطق ہے اگر اس کو رنگ چڑھے تو دنیا بھر کے حیوان ناطق و رنگ چڑھے گا کہ کلی کا حکم اس کے سب افراد میں جائے گا اور واسطہ فی العروض یہ ہوتا ہے کہ اس میں حکم کے ساتھ واسطہ حقیقتہ متصف ہوتا ہے اور ذو واسطہ صرف مجازی طور پر جیسا کہ گاڑی میں حرکت کرنے والا اس میں حرکت حکم ہے جو کہ واسطہ یعنی گاڑی میں حقیقتہ پائی

جاتی ہے اور حرکت کرنے والے مسافر میں یہ حرکت صرف مجازی طور پر ہے یعنی گاڑی میں بیٹھا ہے اور گاڑی متحرک ہے لہذا اس کی حرکت کو مجازی طور پر مسافر کی طرف منسوب کر دیا گیا اور حقیقت میں وہ متحرک نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے جس میں اس کا ماحول بالکل نہیں بدلا۔ اور واسطہ فی الاثبات یہ ہوتا ہے کہ دو جملوں میں جو ایک چیز مکرر واقع ہو اس کے ذریعہ ایک حکم (یعنی اکبر) کو دوسرے چیز (یعنی اصغر) کے لیے ثابت کیا جائے یہ چیز مکرر حد اوسط اور واسطہ کہلاتی ہے اس کے ذریعہ حکم دوسری چیز کے لیے ثابت ہو جاتا ہے مگر اس کے لیے حکم ثابت نہیں بلکہ اثبات حکم کے بعد یہ خود درمیان سے ساقط ہو جاتی ہے جیسے العالم متغیر ایک جملہ ہے وکل متغیر حادث دوسرا جملہ ہے ان میں لفظ متغیر مکرر ہے یہ حد اوسط اور واسطہ ہے کہ اس کے واسطہ سے حادث کو عالم کے لیے ثابت کیا گیا ہے وسیلہ کی ہر سہ اقسام کے واضح ہونے کے بعد ایک اور چیز بھی ذہن نشین کر لینے کی از بس ضرورت ہے اور وہ وجود نسبت و اسناد ہے۔

## نسبت و اسناد کی نوعیت اتصاف

نسبت و اسناد یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کیا جائے اور یہ اسناد حقیقی ہوتی ہے اور کبھی مجازی حقیقی یہ ہے کہ مسند الیہ اور چیز حقیقہ متصف ہو اور مجازی یہ ہے کہ وہ حقیقہ متصف نہ ہو بلکہ مجازاً جیسے کہا جائے زید قائم تو قیام کے ساتھ زید حقیقہ متصف ہے اور یہ اسکی ذاتی اور اپنی وصف ہے اور کہا جائے جالس السفیۃ متحرک۔ اس میں تحرک کشتی میں بیٹھنے والے کی حقیقی وصف نہیں ہے بلکہ یہ وصف کشتی کی ہے مجازی طور پر بیٹھنے کی وجہ سے جالس کی وصف ہو گئی ہے یا کہیں نہر جاری ہے تو اس میں نہر کو جاری کہنا مجازی طور پر ہے۔ حقیقت میں پانی کی وصف ہے کہ پانی جاری ہے نہ کہ نہر ہاں نہر میں پانی جاری ہونے کی وجہ سے نہر کو بھی مجازاً جاری کہہ دیا گیا۔ یا کہیں اللہ علیم زید علیم پہلی مثال میں علم اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات میں متحقق و ثابت ہے اور یہ اسکی وصف ذاتی ہے کسی سے مانگی ہوئی نہیں

اور نہ ہی مجازی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں وصف علم نہ ہو (معاذ اللہ) اور کسی کے علم کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہو اور اتصاف حقیقی کا مطلب بھی یہی ہے کہ وصف اپنی ہو مانگی ہوئی نہ ہو اور اتصاف مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصف اس میں اپنی نہیں ہے بلکہ کسی کی وصف مجازاً ادھر منسوب کر دی گئی ہے اور اتصاف کا معنی ایجاد نہیں ہے کہ حقیقہ متصف ہونے کا معنی کیا جائے وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے جیسے زید قائم یا زید قائم کہ اس میں زید قیام کے ساتھ حقیقہ یعنی یہ وصف اس میں خود موجود ہے مانگی ہوئی نہیں یہ معنی نہیں کہ زید اس کے ساتھ حقیقت میں متصف ہے یعنی زید نے وصف قیام کو پیدا کیا ہے۔

اسی طرح اتصاف ذاتی یہ ہے کہ یہ وصف اسکی ذاتی ہے اپنی ہے از خود ہے کسی اور شے سے حاصل کی ہوئی نہیں جیسا اللہ علیم کہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ذاتی ہے از خود ہے کسی سے مستفاد نہیں اور اتصاف غیر ذاتی یہ ہے کہ یہ وصف گو اس میں حقیقہ ثابت و متحقق ہے مجازی طور پر کسی کی وصف کو ادھر منسوب نہیں کیا گیا لیکن یہ وصف اس کی ذاتی اور از خود نہیں بلکہ کسی سے مستفاد و مستعار ہے جیسا زید علیم کہ اس میں وصف علم کے ساتھ گوزید حقیقت متصف ہے اور علم اس میں ثابت ہو متحقق ہے لیکن یہ اپنی ذاتی اور از خود نہیں ہے بلکہ کسی سے مانگی ہوئی اور اس کو حقیقی عطائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ حقیقی اس لیے کہ یہ وصف اس میں حقیقہ موجود ہے اور عطائی اس وجہ سے کہ یہ غیر کی عطا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی کا معنی ذاتی اور از خود لینا یا حقیقی عطائی کو مستقل و ذاتی سمجھنا یا اس کو موہم شرک خیال کرنا درست نہیں ورنہ انسان وغیرہ پر بصیر، علم، رؤف، رحیم، حکیم، سمیع وغیرہ کا اطلاق درست نہیں رہے گا حالانکہ یہ شرعاً جائز ہے کیونکہ بصیر علیم وغیرہ کا غیر اللہ پر اطلاق و حکم محض اس وجہ سے ہے کہ ان میں یہ اوصاف ثابت ہیں اور حقیقہ متحقق لیکن ذاتی اور از خود نہیں بلکہ بعبا الہی ہیں اور یہ اطلاق محض اشتراک اسمی کے طور پر ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور حقیقہ موجود ہے اور ہم بھی حقیقہ موجود ہیں۔ لیکن ہر دو اطلاق میں فرق ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی اور ذاتی وجود کے ساتھ موجود اور غیر اللہ عطائی وجود اور مستعار اور ظلی وجود کے ساتھ موجود۔

اسی طرح لفظ عطا سے یہ سمجھ لینا کہ عطا کے بعد عطا کنندہ کے پاس وہ چیز نہیں رہتی اور جس کو عطا ہوئی ہے وہ اس وصف کا مستقل مالک ہوتا ہے اب اگر علم وغیرہ بطور عطا مان لیں تو غیر اللہ کا ان اوصاف میں مستقل ہونا لازم آتا ہے جو کہ محض شرک ہے۔ قطعاً غلط ہے اور غیر صحیح۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوصاف ان میں پیدا کر دیتا ہے نہ کہ ان سے عطا کنندہ اپنے کو خالی کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے متعدد الفاظ وارد ہیں جو کہ عطا کا معنی ادا کرتے ہیں اور ان کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے مثلاً ہذا عطاءنا عطاء غیر مجذور۔ یہب لمن یشاء وغیرہ خیال معنی فرمائیے کہ اگر عطا کا معنی یہ ہو کہ معطی کے پاس عطا کے بعد یہ وصف نہیں رہتی تو معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کے بعد اس معنی اور وصف سے خالی ہوگئی۔ کیا صفات الہیہ کا انفکاک جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ ثابت ہوا کہ عطا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وصف ان میں پیدا کر دی ان کی حاجت پوری کر دی۔ اسی طرح یہ کہنا کہ عطا کے بعد دوسرے میں استقلال پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرے میں استقلال یہ شرک ہے بھی غلط ہے کیونکہ استقلال کا معنی اگر یہ ہو کہ مستقل وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ذاتی طور پر از خود مستقل غیر مستفاد من الغیر ہو تو واقعی یہ استقلال مستلزم معنی شرک ہے مگر مخلوقات ممکنہ کو اس معنی کے مستقل تصور کرنا خلاف واقع ہے کیونکہ اعراض کے مقابل جملہ جواہرات اور ماہیات غیر عریضہ کو مستقل کہا جاتا ہے مگر شرک نہیں اور اگر استقلال کا معنی یہ نہیں بلکہ استقلال اضافی اور نسبتہ۔ تو وہ شرک کو ہرگز مستلزم نہیں۔

### اسناد مجازی اور مجاز عقلی

الفاظ کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک حقیقی کہ لفظ کو اپنے وضعی اور حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے جیسا اسد۔ جب اس کو شیر حقیقی میں استعمال کیا جائے تو یہ حقیقت ہے اور اگر اس کو حقیقی معنی میں استعمال نہ کیا جائے جیسا کہ اسد کو بہادر نوجواں میں استعمال کیا جائے تو یہ مجاز ہے۔ ان پر ہر دو استعمالوں کو حقیقت لغوی اور مجاز لغوی کہتے ہیں۔

اسی طرح اسناد بھی دو طرح پر مستعمل ہے۔ ایک حقیقی جس وقت فعل کو اپنے فاعل حقیقی اور جس سے وہ صادر ہو اسی کی طرف منسوب کیا جائے جیسے قام زید وزید قائم دونوں میں قیام جس سے وہ صادر ہوا ہے اس کی طرف منسوب ہے اس کو حقیقت عقلی کہتے ہیں اور دوسرا مجازی کہ فعل کو اپنے فاعل حقیقی کے علاوہ کسی مناسبت کی وجہ سے کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے جیسا النهر جار و صام النهار ان میں جریان کی پہلی مثال میں نہر کی طرف منسوب کیا گیا ہے حالانکہ یہ پانی کی وصف ہے اور صوم کو دوسری مثال میں نہار کی طرف منسوب کیا گیا ہے حالانکہ وہ شخص روزیدار کی وصف ہے اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں۔

## مجاز عقلی

محاورات اور استعمالات میں گو اسناد حقیقی ہی اصل ہے لیکن اکثر و بیشتر اسناد و مجازی عقلی کا استعمال ہوتا ہے مثلاً واذات علیہم ایاتنا زادتہم ایماناً زاد اللہ فی تصدیقہم۔ اخرجت الارض اشقالہا۔ ای اخرجت دفانہا بامر اللہ تعالیٰ۔ یاہامان ابن لی صرحاً ای العملة بیناء المكان فاخرجہما مماکانا ای وسوس الیہما لنہارہ صائم ای ہوفی نہارہ اس سب میں فعل اپنے فاعل حقیقی اور جس سے وہ صادر ہوا اسکی طرف منسوب نہیں ہوا بلکہ غیر کی طرف لہذا یہ اسناد بطور مجاز عقلی ہے مگر اصل چونکہ اسناد بطریق حقیقت ہی ہونی چاہئے پھر اگر بطور مجاز استعمال کریں گے تو لازم ہے کہ غیر حقیقی اور مجازی معنی لینے کے لیے کلام میں کوئی علامت یا حال و مقالی قرینہ سیاق و سباق کا انداز ہونا چاہئے جس سے صاف صاف ثابت ہو کہ متکلم نے اپنے اس کلام میں مجازی معنی مراد رکھا ہے اور فاعل حقیقی اور فاعل مجازی کی اصل فعل میں کسی نوعیت کی ملائمت و مشابہت ہونی لازمی ہے۔ مثال اول میں زادت کا فاعل حقیقی اللہ ہے اور فاعل مجازی آیات ہیں اور ملائمت یوں کہ زادت کا حقیقہ فاعل اللہ ہے اور آیات اس کے ساتھ قائم ہیں کہ اسکی وصف ہیں اور فاعل مجازی آیات ہیں اور یہ زیادتی کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ دوسری مثال میں فاعل حقیقی اللہ ہے

اور مجازی زمین ہے۔ اخراج اللہ کا حقیقی فعل ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے۔ اور زمین فاعل مجازی جو کہ اخراج کے لیے ظرف ہے اور جیسے جری النہر جری کا فاعل حقیقی پانی ہے اور فاعل مجازی نہر ہے اور مشابہت یوں کہ پانی فعل کا فاعل اور نہر فعل کے لیے ظرف ہے اور قرینہ مجازی اسناد پر یوں سمجھے کہ مومن یوں کہے انبت الربیع البقل ربیع نے انگوری اگادی شفی الطیب المریض طبیب نے مریض کو شفا دی اشاب الصغیر ازمان زمانہ نے بچے کو بوڑھا کر دیا۔ ان مثالوں میں قائل چونکہ مومن ہے لہذا سب مثالوں میں اسناد مجازی ہے کیونکہ ایمان دار اللہ کے سوا کسی کو شافی اور اگانے والا اور بوڑھا کرنے والا نہیں سمجھتا۔

اسی طرح یہ خیال بھی باطل ہوا کہ عطا میں استقلال آجاتا ہے تو گویا اللہ نے عطا کے بعد اس کو مستقل قوت کا مالک بنا دیا ہے کہ اب اس میں اللہ کی قوت کا کوئی دخل نہیں۔ وہ اپنی عطا شدہ مستقل قوت کے ساتھ سب کاموں کو سرانجام دیتے ہیں۔ اب اللہ کی قوت و قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں اور یہ شرک جلی ہے۔ کیونکہ اول تو تفویضی قوت کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کو اس میں کچھ دخل نہ رہے یہ مشرکین ہندو وغیرہ کا اعتقاد ہے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں۔ مسلمانوں کا یہ اعتقاد بتانا بہتان عظیم ہے جیسا کہ پہلے اسکی تفصیل گزر چکی ہے۔ دوم اس کے یہ نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔ کل یوم ہو فی شان۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار وغیرہ آیات سے صریح طور پر اسکا ہر وقت میں اور ہر لمحہ میں فعال اور کرنے والا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ سوم اس وجہ سے کہ بندہ کے جملہ افعال میں کسب گو بندے کا ہے لیکن خلق تو اللہ کا فعل ہے۔ بندہ کا ہر فعل اسکا مخلوق ہے قرآن میں صاف فرمایا خلقکم و ماتعملون۔ تو جب ہر فعل کا خالق وہی ہوا تو یہ کیسے ہوا کہ اس کی قوت کا بصورت استقلال دخل ہی نہیں۔ چہارم اس طور پر کہ بندہ مرتبہ ذات میں محض عدم ہے۔ نہ اس کا وجود ضروری نہ عدم تو اس کا اور اس کی قوت کے مستقل ہونے کا کیا مطلب؟

## غیر اللہ کے توسل اور واسطہ کی نوعیت

ناظرین حضرات! مذکورۃ الصدر چند ضروری اور معیاری امور کے جان لینے کے بعد غالباً یہ معلوم کر لینا آسان ہو جائے گا کہ بعض مشکلات کے ازالہ میں بزرگان دین کا واسطہ اور توسل کیسے جائز ہوا؟ اور یہ واسطہ کیا ہے۔ مثلاً زید کہتا ہے کہ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے واسطہ سے مجھے اولاد عطا فرما۔ یہاں زید نے اللہ سے مانگا ہے لیکن واسطہ درمیان ذکر کر دیا ہے کہ بواسطہ اپنے پیارے محبوب ﷺ کے عطا فرما۔ یہ صورت جائز ہے اور عقلی طور پر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تفصیل اور توضیح ملاحظہ ہو کہ زید کے اس کلام میں محبوب ﷺ واسطہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ذو واسطہ ہے اور التجاء اعطاء اولاد ہے اور واسطہ فی الثبوت قسم اول ہے اور اس میں چونکہ واسطہ اور ذو واسطہ ہر دو حقیقہ متصف ہوتے ہیں۔ یہاں پر یونہی ہے کہ عطاء میں دونوں شریک ہیں اور حقیقہ متصف ہیں نہ مجازاً۔ ہاں عطاء کی حقیقت دونوں میں الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطاء کہ اس نے پیدا کیا اور حضور علیہ السلام کی عطاء کہ آپ نے کسب کیا دعا مانگی۔ سفارش کی۔ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ حقیقی فعل ہے اور کسب دعا حضور علیہ السلام کا حقیقی فعل ہے اور اس میں کچھ حرج بھی نہیں کیونکہ وصف مشترکہ میں نوعی اختلاف ہو جاتا ہے مثلاً موجود اللہ اور مخلوق دونوں پر صادق آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ میں وجود قدیم مبداء اثار موثر وغیرہ ہونے کی حیثیت سے ہے اور مخلوق میں حادث ظلی طور پر صادق آتا ہے۔ ایسے ہی سمیع و بصیر، رؤف و رحیم کریم وغیرہ اللہ اور مخلوق ہر دو پر حقیقہ بولے جاتے ہیں۔ مگر نوعیت صدق میں دونوں مختلف ہیں۔ دینی اور اخروی نعمتیں دونوں میں اشتراک اسی ہے گو حقیقہ الگ الگ ہے۔

یونہی کسی بزرگ کا واسطہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ سے سوال ہے اور وہ ذو واسطہ ہے بزرگ واسطہ ہے اور قضا حاجت سوال والتجا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے امور کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کو جائز رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ وما نقموا الا ان



اغناهم الله ورسوله. سيرتنا الله من فضله ورسوله. واذتقول للذي الخ انعم  
الله عليه و نعمت عليه. لاهب لك غلاماً زكياً يحل لهم الطيبات. يُحرم  
عليهم الخبائث. الایہ کہ ان جیسی آیات کریمہ میں اغناء، الیتان انعام بہت۔ تحریم و تحلیل  
وغیرہ کو غیر کی طرف بوجہ بیان کسب پھونک وغیرہ جو کہ غیر کے ساتھ حقیقہ قائم ہے کے منسوب  
کیا ہے اور اللہ کی طرف بمعنی خلق کے منسوب ہے اور حقیقہ ثابت ہے علی ہذا القیاس۔ دفع  
مصیبت فتح شکست، عالم کے انتظامات و دیگر امور تکوینہ میں یہی طریق مجاز عقلی کو جاری کیا  
جاسکتا ہے۔ اسی طرح احکام شرعیہ فرض، واجب حلال و حرام وغیرہ میں یہی مجاز عقلی کا طریقہ  
مستعمل ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی شان میں فرمایا۔ يحل لهم الطيبات و  
يحرم عليهم الخبائث و يزكيهم تطهرهم يضيغ عنهم وغیرہ ان آیات میں محلل محرم  
مزکی مطہر وغیرہ آپ کو بتایا گیا ہے اور حقیقہ اللہ تعالیٰ کا ہی یہ فعل ہے تو اس کی صورت صحت کا  
طریقہ یہی مجاز ہے کہ تحلیل تحریم تزکیہ اللہ کی طرف سے ہو مگر حضور علیہ السلام کے واسطے سے  
یعنی حضور علیہ السلام واسطے ہیں جن کے ساتھ تحلیل وغیرہ بصورت کسب و دعا حقیقہ قائم ہے  
اور اللہ تعالیٰ ذو واسطہ جس کے ساتھ تحلیل وغیرہ بحیثیت تشریح و تکوین حقیقت قائم ہے اور تطہیر  
مکلف کے لیے ثابت ہوئی گویا بندہ نے زبان حال سے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہم کو اپنے حبیب  
علیہ السلام کے واسطے سے پاک کر دے یا اس کو حلال کر دے یا مختصر یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ محلل  
ہے اور یہ وصف محللیت بوجہ خالق اور شازع ہونے کے اس میں حقیقہ موجود ہے۔ اور حضور  
علیہ السلام کے واسطے سے تحلیل ہوئی اور یہ وصف تحلیل آپ کے ساتھ بوجہ بیان کرنے کے  
حقیقہ قائم ہے گویا مکلف پر بوجہ اس کی اطاعت یا سرکشی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ  
کے واسطے سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کر دیا ہے۔

زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے واسطے سے اپنے مالدار بندوں پر فرض  
قرار دیا ہے۔ گویا مکلف پر مال کا شکر یہ بصورت زکوٰۃ حضور علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ  
نے ضروری اور فرض قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام واسطے ہیں اور زکوٰۃ کو فرض قرار دینا آپ

کے ساتھ بوجہ مبین و مظہر ہونے کے حقیقۃً قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے بوجہ شارع اور خالق و نعم ہونے حقیقۃً قائم ہے و علیٰ ہذا القیاس۔

یہ تفصیل اس تقدیر ہے جس وقت امور تکوینیہ میں سے کسی امر کو غیر اللہ کے واسطہ سے طلب کیا جائے اور اگر کسی چیز کو غیر کے واسطے سے طلب نہ کیا جائے یا غیر اللہ کی دعا و کسب کا اس میں دخل ہی نہ ہو جیسے زمین کو آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس میں کسی کی دعا و کسب کو دخل نہیں تو اس وقت مذکورہ الصدر واسطہ کا تحقق کیسے ہوگا سوا اسکی صورت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وصف خلق اس میں حقیقۃً متحقق ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات کے صدقہ اور اس کے سبب سے پیدا کیا اور وصف خلق آپ کے ساتھ بھی حقیقۃً قائم ہے گو یہاں خلق بمعنی تقدیر ہوگا جیسا کہ فتبارک اللہ..... احسن الخالقین و اخلق لکم سے یہ معنی مفہوم ہو رہا ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہی ہے کہ آپ واسطہ فی الثبوت قسم اول ہیں لیکن بعض جگہ واسطہ فی الثبوت قسم ثانی سفیر محض بھی ہیں اور یہ ان مقامات میں جہاں کسب و دعا کی کیفیت سے واسطہ متصور نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کسب و دعا کرنا معلوم نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں آپ واسطہ فی الثبوت سفیر محض ہوں گے۔

تحقیق و تعلیق عبد اللہ المفتی علی اللغات ج ۱ ص ۱۴۰ میں ہے ان قلب الشیخ باب مفتوح الی عالم الغیب و هو واسطہ و سفیر محض بین المرید و بین الحق سبحانہ فیصل امداد فیضہ علی قلب المرید بواسطہ. ترجمہ ”پیرو مرشد کا دل اس دروازہ کی طرح ہے جو کہ عالم الغیب کے دربار کی طرف کھلا ہوا ہو اور مرشد حق سبحانہ اور مرید کے درمیان واسطہ اور سفیر محض ہوتا ہے۔“ جس کی وجہ سے مرید کے دل پر فیضان ہوتا رہتا ہے۔ اور لغات ص ۱۴۰ تا ص ۱۴۱ پر ہے۔

ان قلب الشیخ بمثابة باب مفتوح الی عالم الغیب و هو واسطہ و سفیر محض بین المرید و بین الحق سبحانہ و تعالیٰ فیصل امداد فیضہ علی قلب المرید بواسطہ. ترجمہ ”شیخ کا دل بمنزلہ ایسے دروازہ کے ہوتا ہے جو کہ عالم غیب کی

طرف کھلا ہو اور وہ شیخ مرید اور حق سبحانہ کے مابین واسطہ اور سفیر محض ہوتا ہے۔

ثابت ہوا کہ حصول مراد میں شیخ کبھی مرید اور اللہ سبحانہ کے مابین واسطہ بصورت

سفیر محض ہوتا ہے کہ شیخ کا وجود حصول فیض کا ذریعہ اور واسطہ ہوتا ہے۔ بدوں اس کے کہ شیخ

نے مرید کے لیے کوئی کسب و دعا کی ہو۔ تو جہاں کہیں ایسی چیزیں ہوں کہ ان کے لیے آپ

نہ دعا وغیرہ نہیں کی تو وہاں آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کا وجود مبارک حصول فیوض و برکات

میں واسطہ بشکل سفیر محض ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے لولاک لما خلقت

الدنیا۔ ترجمہ ”اگر آپ نے ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔“ اما ابوحنفیہ رضی اللہ عنہ اپنے قصیدہ نعتیہ

میں فرماتے ہیں۔ انت الذی لولاک ما خلق امرءٌ۔ کلاً ولا خلق الوری لولاک۔

ترجمہ ”آپ وہ ہیں کہ آپ کی ذات نہ ہوتی کوئی شخص بلکہ کائنات عالم نہ پیدا ہوتی۔ دیکھئے

ارضی و سماوی کائنات کے وجود کے لیے حضور علیہ السلام کے وجود نوری کو واسطہ و ذریعہ بنایا گیا

بدوں اس کے کہ حضور علیہ السلام نے کسب و دعا وغیرہ کچھ کیا ہو بہر صورت احکام تکوینیہ ہوں یا

تشریحیہ سب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام واسطہ فی الثبوت ہیں۔ بعض میں واسطہ فی الثبوت

بصورت قسم اول اور بعض میں واسطہ فی الثبوت بشکل سفیر محض و قسم ثانی۔

اسی طرح اولیاء کرام کہ جن کی ولایت عوام و خواص میں مسلم کتاب و سنت سے

مستفاد اسوہ حسنہ کی مجسمہ امور تکوینیہ۔ قضا حاجات۔ مشکلات و مصائب وغیرہ کے ازالہ اور

دفعہ میں واسطہ فی الثبوت کی قسم اول اور قسم دوم ہر دو متصور ہو سکتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے اس

میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی عقلی طور پر اس پر کوئی اشکال لازم آتا ہے کیونکہ ان ہر دو واسطوں

میں حقیقت میں سوال تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے غیر کا تو صرف واسطہ

ہے اور اس کا ذریعہ اور سفارش اور بس۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں اور خواص کے

کلام میں اس کا ذکر کھل کر اور واضح طور پر آتا ہے اگر کوئی نزاع ہو سکتا ہے تو یہ کہ اس تو سل

اور واسطہ کی نوعیت کیا ہے اور یہ واسطہ کہاں اعتبار کیا جاسکتا ہے اور کن امور میں اس کو اختیار کیا

جاسکتا ہے مگر اس تفصیل و تشریح کے بعد بفضلہ تعالیٰ کسی قسم کا اشکال لازم نہیں آتا۔

## وسائل اور اسباب کی طرف اسناد

ناظرین کرام! اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے لیے مختلف اسباب و وسائل پیدا فرمائے ہیں مثلاً دیکھنے کے لیے آنکھ بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، ازالہ مرض کے لیے ادویات بقانسل کے لیے ازدواجی تعلقات، فتح و نصرت کے لیے عزم صمیم و آلات حرب و دشمنی کے لیے ستارے ازالہ بھوک کے لیے استعمال غذا، حصول جنت کے لیے خاتمہ بالخیر و رحمت الہی پانی عبور کرنے کے لیے کشتی، دفع ماندگی کے لیے نیند، اخروی کمال نجات کے لیے حصول رضا الہی بامراد ہونے کے لیے ادب و احترام، دشمن پر فتیابی کے لیے منظم اتحاد و علیٰ ہذا القیاس۔ اور ان امور کو جن کو علام کائنات میں قدرت نے اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ تکوینی امور ماتحت الاسباب کہتے ہیں۔ ان امور میں انبیاء کرام و اولیاء عظام کا واسطہ مذکورہ یعنی وسطہ فی الثبوت قسم اول متحقق و ثابت ہے یعنی یوں کہ بجائے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے یہ کہنا جائز ہے کہ آپ مجھے کامیاب کر دیں کھلا دیں پلا دیں میری حاجت پوری فرمادیں۔ مجھے پارا تار دیں۔ مجھے نجات دلائیں اور اس واسطہ میں عوام و خواص سب داخل ہیں اور سب دائرہ اسباب میں رہتے ہوئے اپنی عطائی قوتوں سے کام لے سکتے ہیں اور یہ جائز اور صحیح ہے کیونکہ چیزیں اور امور تکوینیہ دائرہ اسباب سے متعلق ہیں تو جب نسبت غیر اللہ کی طرف ان میں ہوگئی تو عموماً ہر خاص و عام یہی تصور کرے گا کہ غیر اللہ کی طرف نسبت مجازی طور پر بوجہ سبب ہونے کے ہے نہ حقیقی اور یہی وجہ ہے کہ یہ طریقہ عوام و خاص میں معمول و مستعمل ہے اور کسی نے اس میں نزاع نہیں کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں۔ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اور تمام امت برمثال پیراں و مرشداں سے پرستند و امور تکوینیہ را بایشاں وابستہ می دانند و فاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشاں رائج و معمول گردیدہ۔ چنانچہ جمع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است تحفہ مطبوعہ کلکتہ ۱۲۴۳ء آخرفصفحہ ۳۹۶ اول ص ۳۹۷ ترجمہ ”حضرت امیر علی المرتضیٰ اور آپ کی اولاد پاک کو تمام امت

پیروں اور مرشدوں کی طرف اطاعت کرتی ہے اور امور تکوینیہ ماتحت الاسباب ہوں یا مافوق الاسباب میں تصرف ان سے متعلق کہتے ہیں اور فاتحہ درود صدقات نذرو نیاز ان کے نام سے رائج اور معمول ہے ہو گیا ہے چنانچہ تمام اولیاء کرام کا یہی معاملہ ہے۔ اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کو مکرر پڑھئے۔ جو اہر خمسه حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ میں فرمایا۔  
ناد علیا مظهر العجائب تجده عونالک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی  
بولاتیک یا علی یا علی یا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار جو کہ مظهر عجائبات ہے تمام مشکلات میں اس کو مدد کنندہ پائے گا تمام پریشانی اور دکھ تمہاری ولایت کے صدقہ میں دور ہو جائے گا یا علی یا علی یا علی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاب تفسیر عزیزی میں اکابر اولیاء کا حال بعد انتقال لکھتے ہیں۔ دارباب حجات و مطالب حل مشکلات خود ازاں ہامی طلبند وے یا بند۔ ترجمہ اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا ان سے ازالہ چاہتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تذکرہ الموتی میں ارواح اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے متعلق لکھتے ہیں ارواح ایساں از زمین و آسماں و بہشت ہر جا کہ خواہند میروند و دوستاں و معتقداں را در دنیا آخرت مددگاری میفرمانید و دشمنان را ہلاک می سازند۔ ترجمہ اولیاء کرام کی روہیں زمین و آسماں جنت جہاں چاہیں چلی جاتی ہیں اور اپنے دوستوں کی دنیا و آخرت میں مدد فرماتی ہیں اور ان کے دشمنوں کو تباہ کرتی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ اطیب النغم اور اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔ بنظر نمی آید مرا مگر آنحضرت ﷺ کہ جائے دست اندوہکین است در ہر شدے..... پناہ گرفتن بندگان و گریز لاں ایساں در وقت خوف ایساں روز قیامت..... نافع تریں ایساں مردماں را نزدیک ہجوم حوادث زماں..... بہترین خلق خدا والے بہترین عطا کنندہ والے بہترین کسی کہ امید واداشته شود برائے ازالہ مصیبتے..... تو پناہ دہندہ از ہجوم کردن مصیبتے۔ ترجمہ ”مجھ کو بجز حضور علیہ السلام اور کوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ ہر شدت و مصیبت زدہ کی

آپ جائے پناہ ہیں۔ قیامت میں ہر مصیبت زدہ اور پریشانی کی آپ کی ذات سہارا ہے۔  
زمانہ کے حوادث کے وقت سب سے زیادہ مفید۔ بہترین خلق خدا اور بہترین بخشش کنندہ  
اور بہترین امیدگاہ ہر غمزدہ کے لیے۔ وقتی مشکلات سے پناہ دہندہ۔

شرح عقائد میں ہے۔ فیظہر الکرامة علی طریق نقض العادة للولی من  
قطع المسافة البعيدة فی المدة القليلة مع بعد المسافة والمشي علی الماء  
الطيران فی الهواء وکلام الجماد والعجماء وغير ذالک من الاشياء. ترجمہ ”جس  
ولی کے لیے خرق عادت کے طور پر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے ایک لمبی مسافت کو تھوڑی سی  
مدت میں طے کر لینا اور پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا اور پتھروں اور حیوانات سے کلام کرنا وغیرہ۔“  
ان حوالجات میں خط کشیدہ عبارات سے اور اوراق گذشتہ کے مطالعہ سے جو کہ ایسے  
ہی مضمون سے متعلق گذر چکے ہیں امور تکوینیہ کی تعیین قضا حاجات حل مشکلات ومصائب اور  
پناہ گاہ سہارا مفید ترین طریق عموم سفلی علوم کائنات میں سیر و سیاحت میں امداد اور ہلاک میں  
دنیا و آخرت میں صحت و مرض میں ازالہ حوادث کے لیے نداء غائبانہ عطا وغیرہ بھی ہو گئی اور یہ بھی  
واضح ہو گیا کہ اس سلسلہ میں ماتحت الاسباب کی قید زاید ہے اور ایجاد بندہ لہذا درست نہیں  
کیونکہ تصرفات بالا میں یہ بھی آ گیا ہے۔ پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا غائبانہ ندا اور مدت قلیل میں  
لمبی چوڑی مسافت کا طے کرنا اور جمادات حیوانات سے کلام کرنا اور ایک آن میں ایک انتہائی  
قلیل چیز کا لے آنا۔ بلا موسم پھل اور معمولی چیز سے ہزاروں کی کفایت وغیرہ اور یہ ایسی  
چیزیں ہیں جو کہ مافوق و الاسباب ہیں اور امور تکوینیہ تو ثابت ہوا کہ امور تکوینیہ ماتحت  
الاسباب کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اور ان میں غیر اللہ کا واسطہ مذکورہ کا ثبوت بھی مستند حضرات  
سے ہو گیا اور صحت مریض ایسے ہی مروجہ فاتحہ شریف درود شریف اور صدقات و نذر و نیاز جمہور  
اسلام اور امت کی اکثریت کا معمول اور اتفاتی مسئلہ بھی۔

اسی طرح حدیث میں ہے۔ یا عباد اللہ اعینونی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
نے پاؤں پھسلنے کے وقت کہا و اممہ اے محمد ﷺ میری مدد کیجیو۔ (غائبانہ حالت میں کہا)

حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کہا واعمرہ۔  
حدیث میں ہے ایک نابینا کو آپ نے دعا سکھائی جس نے آنکھوں میں بینائی کا سوال کیا تھا  
اس میں انی توجہت بلک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی الخ اس میں قضا  
حاجت حضور علیہ السلام کو واسطہ بنایا گیا۔

شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی تکمیل الایمان ص ۴۲ پر لکھتے ہیں کہ مشائخ  
صوفیہ قدس سرہم العزیز میگویند کہ تصرف اولیاء اللہ در عالم بزرخ دائم است واستمداد ازاں  
ارواح مقدسہ شان ثابت وموثر۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں ص ۳۶ اور بعض جن  
کی استعداد زیادہ ہوتی ہے وہ ارواح سے مستفید ہوتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سرہندی کی کتاب مبدء ومعاد میں ص ۲ پر ہے  
کہ حضرت غوث الاعظم محی الدین شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح کی مدد سے مجھ کو  
تمام مقامات قرب سے گزار کر اصل الاصول تک پہنچا دیا۔ بحوالہ تقویت الایمان۔  
معجزات بھی امور خارجہ اور از قبیلہ مافوق الاسباب ہیں ان میں بھی واسطہ کا تحقق  
ہوسکتا ہے۔ سو اس میں ذرا سی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

## معجزہ کی تعریف

معجزہ یہ ہے کہ اس انسان کے ہاتھ پر جو مدعی النبوة ہوا اسکی تصدیق کے لیے کسی  
ایسے امر کو جو کہ عادات الہیہ کے خلاف ہو ظاہر کر دیا جائے۔ دوسرا انسان چونکہ ایسا کرنے  
سے عاجز ہوتا ہے لہذا اس کو معجزہ کہتے ہیں۔

## باعتبار تحقق معجزہ کی دو قسم

ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا محسوسات میں اظہار کیا جائے اور یہ کہ علم والے اور  
جاہل لوگوں کو دکھلایا جاتا ہے کیونکہ ان کا ادراک و فہم محسوسات تک بند ہوتا ہے لہذا ان کو

محسوسات ہی میں کسی امر خارق للعادة کو دکھایا جاتا ہے تاکہ یہ ان کے اطمینان کا پیش خیمہ ہو کر واسطہ ایمان ہو سکے۔

اور دوسرا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ معقولات میں ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ عقلا اور اصحاب فراست کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا ادراک محسوسات سے متجاوز ہو کر حقائق و معارف میں بھی راسخ ہوتا ہے۔ لہذا انکو معقولات میں کوئی امر خارق دکھلا کر ان کے تحقق ایمان کے لیے سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کی عوام و خواص ہر دو کی طرف بعثت ہوتی ہے لہذا اس کو محسوسات و معقولات کے حقائق و معارف کے انتہائی مراتب پر فائز المرام کیا جاتا ہے۔

### کیا معجزہ مقدر اور اختیاری ہوتا ہے؟

اس میں اختلاف ہے کہ معجزہ میں نبی علیہ السلام کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں اور کیا اس میں سبب کا لحاظ ہوتا ہے؟ نیز اس ص ۸۰ پر ہے۔ ”والمعجزہ امر خارق للعادة قصد بہ اظہار صدق من ادعی نہ رسول اللہ ای اراد الحق سبحانہ بہ ذالک او اراد صاحب المعجزہ والاول اظہر۔ یعنی وہ امر خارق اسکو اللہ ظاہر کرتا ہے یا نبی پہلی بات زیادہ ظاہر ہے اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کے ارادے سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔“

مافی الاسلام مولفہ مولانا اصغر علی روحی پروفیسر اسلامیات لاہور۔ امر خارق للعادة کہ اس میں ان قوانین عادیہ جو کہ بنا بر تجربہ و مشاہدہ حاصل ہوتے ہیں میں سے کسی سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ درحقیقت اور واقع میں معجزہ میں کوئی سبب نہیں ہوتا۔

”یہ امر مسلم ہے کہ کسی واقعہ کا ظہور بلا سبب نہیں ہوتا۔ اور یہ قاعدہ کا لوجی من السماء ہے۔“  
”بلکہ امر خارق للعادة کی حقیقی علت مشیت الہی ہے جس سے ایسے اسباب خفیہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ جن کو ہم عادی اسباب میں نہیں لاسکتے۔ ص ۳۳۲ و ۳۳۶ ج ۱



”..... اور بحکم خداوند کریم معجزہ نبی کے مقدمات میں ہے اور منصب نبوت کو لازم مگر نفس دعوت نبوة کو اظہار معجزہ لازم نہیں اسی وجہ سے کبھی دکھلایا گیا اور کبھی روک لیا گیا۔ اسی طرح شرح مواقف ص ۲۶۶ پر ہے ان کرامات الاولیاء قد تقع باختیارهم وطلبهم هذا هو الصحيح (شرح مسلم بر حاشیہ مسلم ص ۳۲۲ ج ۴ فتح الباری ص ۲۹۱ ج ۷ عمدۃ القاری ص ۳۱ ج ۱۶)

تکمیل الایمان ترجمہ تمام امور کائنات اسباب پر موقوف رکھے ہیں اسی کو عادت کہتے ہیں اور کبھی وہ اس عادت کو توڑ دیتا ہے اور کسی ظاہری سبب کے بغیر (نہ باطنی) ہی ایک چیز کو پیدا کرتا ہے اور یہ اللہ کا فعل ہے نہ رسول کا اور غیر اختیاری ہے۔ مافی الاسلام میں ہے درحقیقت توحید کا اعلیٰ کمال یہ ہے کہ جس قدر سلسلہ ہائے اسباب عالم کائنات میں نظر آتے ہیں نبی اللہ کی نظر سے اٹھ جاتے اور یہی عارف کامل کی انتہا ہے۔

فتوح الغیب میں مقالہ ص ۴۰ پر ہے۔ ویرد علیک التکوین فتکون کلینک قدرۃ۔ (بحوالہ نور ربانی ص ۹)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ ”جب ولی اللہ مضائق بشریت سے خارج ہو کر میدان قدرت الہی میں فائز ہوتا ہے تو اس کو یہ مرتبہ کرامت عطا ہوتا ہے کہ اشیاء کو بغیر اسباب عادی کے اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ سب مومنین جنت میں اسی اقتدار پر ہوں گے اور اولیاء اللہ کا ملین کہ عادات و رسوم سے گذر کر فانی ہو جاتے ہیں تو عالم دنیا میں بھی قبل از دخول جنت مظہر تجلی اسم قدر کے ہو جاتے ہیں۔

حدیث نوافل مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نقلی عبادت کرتے کرتے بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اب اس کا سننا میرے کان دیکھنا میری آنکھ پکڑنا میرے ہاتھ چلنا میرے پاؤں اور سمجھنا میرے دل سے ہوتا ہے۔

ان مندرجات سے کیا ثابت ہوا۔ معجزات میں اسباب کا اعتبار ایک اختلافی امر

ہے۔ (۲) توحید کامل میں سلسلہ اسباب کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور تصرف بلا اسباب ہوتا ہے۔  
(۳) اولیاء کاملین بلا اسباب تصرف کرتے ہیں۔ (۴) ولی کامل پر وصف تکوین یعنی کسی چیز کا عدم سے وجود میں لے آنا نہ کہ کلمہ کن کہنا رد کردی جاتی ہے یعنی وہ بلا اسباب تصرف کرتا ہے۔ (۵) معجزات اور کرامات میں اسباب ظاہرہ گو نہیں ہوتے مگر اسباب خفیہ ضرور ہوتے ہیں۔ (۶) نقلی عبادت سے وہ قرب حاصل ہوتا ہے جس سے ولی کامل کے وجود و اعضا سے امور خارقہ للعاادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ (۷) توحید کامل سے یہ کمال پیدا ہوتا ہے کہ تصرفات بلا اسباب کا ظہور ہونے لگتا ہے۔

### نتیجہ کیا ہوا؟

ان حوالجات مذکورہ کی روشنی میں کہا جائے گا کہ اگر معجزات و کرامات میں اسباب ظاہرہ معتبر نہیں ہوتے تو پھر واسطہ فی الثبوت سفیر محض ہوگا اور اگر اسباب خفیہ کا اعتبار کیا جائے تو واسطہ فی الثبوت قسم اول ہوگا اور اس اعتبار پر بحث کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔

### معجزہ باعتبار طلب دو قسم پر ہے

معجزہ کی دو قسم میں ایک اقتراحیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اظہار معجزہ کا مطالبہ کیا جائے اور دوسرا غیر اقتراحیہ اور وہ یہ ہے کہ بغیر مطالبہ اس کا اظہار کر دیا جائے مثلاً شق قمر کا معجزہ مطالبہ پر دکھلا دیا گیا۔ آسمان کی طرف چڑھنے اور سونے کے مکانات اور نہریں وغیرہ کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ شب معراج وغیرہ معجزات صرف بلا مطالبہ ہیں۔

ان حوالجات سے ثابت ہوا کہ معجزہ کے مقدور ہونے اور اس میں اسباب کے ہونے میں اختلاف ہے مگر یہ معمولی اختلاف ہے اور نزاع لفظی ہو سکتا ہے جنہوں نے اسباب کی نفی کی ہے ان کی مراد اسباب ظاہر ہوں اور جنہوں نے اسباب کو مانا ہے ان کی مراد اسباب خفیہ ہوں جو کہ تجربہ اور مشاہدہ کے دائرہ سے خارج ہوں۔

## امور تشریحیہ میں واسطہ کی نوعیت

امور تشریحیہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو فرض یا واجب یا سنت یا مستحب یا مباح کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کسی چیز کو فرض کسی کو واجب وغیرہ قرار دے کر ان کے انفاذ و اجراء کے لیے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنا نائب و خلیفہ مقرر فرمایا اور ان کی اطاعت اپنی اطاعت کی طرح فرض قرار دی اور احکام شرعیہ کی تعمیل بنا بر مصلحت اور اسباب و علل ہے اور اس کو انبیاء علیہم السلام بفضلہ تعالیٰ خوب سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے خداوند کریم نے انکو شرعی احکام میں کسی طرح کی ترمیم و تنسیخ اور کمی و بیشی کرنیکی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور عقلی طور پر بھی یہ اجازت دائرہ جواز میں مفہوم ہوتی ہے۔ کیونکہ جب یہ اس کے نبی و رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کا ہر شرعی اقدام بصورت وحی ہے تو اس جواز میں شک و شبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں اس اجازت کی متعدد مقامات پر تصریح موجود ہے جیسا کہ قدرے اس کا تذکرہ قبل اس کے ہو چکا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں آپ کو مزکی، معلم، حکیم، رؤف، رحیم، سمیع، بصیر، ہادی، منعم، معطی، محرم، محلل واضح مصلی، داعی، مخبر، بشیر، نذیر، منیر وغیرہ سے یاد کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ مثلاً مزکی درحقیقت تو اللہ ہی کی وصف ہے۔ حضور علیہ السلام تو محض سبب ہیں اسی طرح باقی امور کو قیاس کر لیا جائے۔

اسی طرح حدیث پاک میں اگر آپ کے متعلق یہ ذکر آیا ہے کہ فلاں چیز کو حرام اور فلاں کو حلال اور فلاں کی اجازت اور فلاں کی ممانعت کی ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہقیقہ حلال و حرام وغیرہ اللہ ہی کا کام ہے آپ کی طرف ایسی نسبت محض سبب اور ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ احکام تشریحیہ میں یہی واسطہ فی الثبوت قسم اول ہے۔ حضور علیہ السلام واسطہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ذو واسطہ اللہ تعالیٰ کی یہ وصف حقیقی اور ذاتی ہے اور حضور علیہ السلام کی حقیقی یعنی آپ اس وصف کے ساتھ ہقیقہ متصف ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ آپ اس کے موجد ہیں

اور عطائی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا شدہ ہے۔ سنیئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں ایک باب باندھتے ہیں۔ باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بانہ یحض من شاء بما شاء من الاحکام۔ آپ جس کو چاہیں کسی حکم کے ساتھ مخصوص فرمادیں۔

(۱) علامہ شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ مدارج شریف میں لکھتے ہیں کہ احکام مفوض بود بوسلیم ﷺ بر قول صحیح۔

(۲) دران روز ظاہر گردد کہ حکم حکم او و روز روز او بحکم رب العالمین ہرچہ خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود دہر۔

(۱) ترجمہ ”صحیح قول یہی ہے کہ شرعی احکام میں آپ مختار تھے۔“

(۲) ”قیامت میں ثابت ہوگا کہ اللہ کے حکم سے حکم آپ ہی کا ہوگا۔ آپ اللہ کے حکم سے جو چاہیں جس کو چاہیں دیں۔“

حدیث میں سنل ایک سائل کو آپ نے فرمایا تھا جس سے متعلق شیخ عبدالحق محدث فرماتے ہیں از اطلاق سوال کہ فرمود سل معلوم میشود۔ میشود کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست ہرچہ خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بد علی العمول ارشاد فرمانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے جو چاہیں جس کو چاہیں دیں۔

علامہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں یوخذ من اطلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق: ترجمہ ”حضور علیہ السلام کے مطلقاً بیان کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ جو چاہیں اس کے دینے کا اختیار دیا ہے۔“

اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے دو صحابیوں کو ششماہ بکری کے بچہ کی قربانی دینے کی اجازت فرمادی۔ (بخاری و مسلم)

ایک صحابیہ کو خاوند کے فوت ہونے پر بجائے چار ماہ دس دن کے صرف تین دن کا سوگ کر لینے کے بعد نکاح کی اجازت دے دی۔ (طبقات ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ایک صحابی رمضان میں روزہ توڑ کر حضور علیہ السلام کی پناہ لیتے ہیں اور بجائے کفارہ ادا کرنے کے درباریکس پناہ سے خرے لے جاتے ہیں۔ (صحاح ستہ)

سونے کا ہر زیور مرد کے لیے حرام ہے مگر حضور علیہ السلام نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ (مسند امام احمد)

ریشم مرد پر حرام ہے مگر حضور علیہ السلام نے دو شخصوں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی..... ایک شخص اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ وہ دو نماز سے زیادہ نہ پڑھیں گے۔ حضور اسکو منظور فرما کر انہیں مسلمان بناتے ہیں۔ (مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ)

قرآن مجید میں ہے توجی الیہ من تشاء و تودی الیک من تشاء جس کو چاہیں اپنی صحبت و رفاقت سے پیچھے کر دیں اور جس کو چاہیں اپنی پناہ میں رکھیں۔

یہ چند مثالیں احکام شرعیہ سے ہیں جن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تخصیص فرمائی ہے۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام احکام شرعیہ میں جیسا چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ اور آپ چونکہ واسطہ ہیں لہذا احکام ہدیۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں لہذا کوئی حرج نہیں۔

## حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مختار ہونا

حضور علیہ السلام کو احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے کہ ترمیم اور تخصیص اور کمی و بیشی کی اپنے فضل و کرم سے اجازت فرمائی ہے جیسا کہ اوپر ابھی ذکر کیا گیا ہے مگر اس سے حضور علیہ السلام کو مستقل خیال کرنا یا اس اجازت کو قوت تفویضی تصور کرنا کہ خداوند کریم کی قوت کو اس میں دخل تک نہ ہو۔ یہ سب غلط فہمی ہے اور غیر صحیح وجوہ حسب ذیل ہیں:

(۱) انسان و جن ہر دو نوع شرعاً مکلف ہیں اور مختار کہ اپنے ارادہ سے جو چاہیں کریں

اور نہ ہی اذن جدید کی ضرورت ہے یہ اختیار کیوں استقلال کو نہیں چاہتا؟

(۲) یہ اختیار اضطرار کے مقابلہ میں ہے یعنی انسان فاعل مختار ہے نہ فاعل بلا اضطرار جیسے کہ مجبور ہو کر کام کیا جائے۔

(۳) مختار کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی طرف سے اختیار دیا گیا ہے اپنا استقلال اس میں نہیں ہے تو استقلال کیسا؟

(۴) احکام شرعیہ میں بحیثیت تبدیلی و تنسیخ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے تو استقلال ذاتی ختم۔

(۵) معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ آپ احکام میں جو تبدیلی کریں گے وہ ہمیں منظور ہے پس استقلال ناپید۔

(۶) احکام شرعیہ میں تبدیلی کا اختیار جیسا کہ اوپر مذکور ہوا مخصوص ہے نہ مطلقاً حتیٰ کہ وصف الوہیت بھی مراد لے لی جائے۔

(۷) اختیار سے قوت تفویضی مراد لینا درست نہیں جب کہ کا سب فعل گو بندہ ہے مگر فاعل اور خالق تو اللہ ہے تو جب قوت تخلیقی ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی ہے تو قوت تفویضی میں قوت الہیہ کے بے دخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نیز بندہ ممکن ہے مرتبہ ذات میں معدوم ہے یہ مستقل ہو ہی نہیں سکتا تو قدرت الہیہ کی بے دخلی چہ معنی؟

(۸) اختیار مختار ہونے کا یہ مطلب کہ مختار کو جدید اذن کی ضرورت نہیں اور مختار اپنی عطائی قوت مستقلہ مفوضہ سے ہی کام کرتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اول اس وجہ سے کہ قوت تفویضی کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ رہی اذن جدید کی ضرورت کہ ہر فعل میں ضروری ہے سو یہ بھی غلط اور غیر صحیح ہے کیونکہ آخر ہم بھی مختار ہیں مگر ہم ہر فعل میں اذن جدید کے محتاج نہیں ہیں کہ پہلے اذن لیں اور پھر کریں اور پھر جب خالق ہر فعل میں اللہ ہے تو اس صورت میں قوت الہیہ کا بے دخل ہونا بے معنی بات ہے نیز حضور علیہ السلام کے بعض افعال پر اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا مثلاً لم اذنت

لہم (آپ نے کیوں اذن دیا) لم تحرم ما احل الله لك (آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں) ثابت ہوا کہ آپ نے بلا اذن یہ کام کیا تھا جس پر انکار کیا گیا اور اگر ہر فعل میں اذن جدید لازمی ہوتا تو آپ پھر کیوں کرتے ثابت ہوا کہ ہر فعل میں اذن جدید کی ضرورت نہیں ہم آخر میں حضور پر نور ﷺ کے مختار ہونے کا ایک اور حوالہ درج کرنے کے بعد اس بحث کو ختم کرتے ہیں علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کا کلام ذکر فرماتے ہیں:

وقال! بعد نقل احادیث و آثار معالفة فحصل من مجموع هذا الكلام النقول والاحادیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسده و روحه و اہ یتصرف و یسیر حیث شاء فی اقطار الارض و فی المکوت و هو بهیئته التیکان علیہا قبل وفاته لم یتبدل منه شی و انه مغیب عن الابصار کما غیبت الملائکة مع کونہم احياء باجسادہم فاذا اراد اللہ تعالیٰ دفع الحجاب عن اراد کرامہ برویتہ راہ علی ہیئته التی ہو علیہ الصلوٰۃ والسلام علیہا لامانع من ذالک ولاداعی الی التخصیص برویة المثل و ذهب رحمہ اللہ تعالیٰ الی نحو هذا فی سائر الانبیاء علیہم السلام فقال انہم احياء ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا و اذن لہم فی الخروج من قبودہم و التصرف فی الملکوت السفلی العلوی.

(روح المعانی ص ۳۶-۳۷ ج ۳۲)

ترجمہ: ”حضور علیہ السلام کی حیا و تصرف سے متعلق مجموعہ احادیث سے بقدر مشترک یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جسم اور روح سے حقیقتاً بقید حیات ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ اطراف عالم میں بلکہ عالم ملکوت و بالا میں بھی سیرو سیاحت کرتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں اور آپ بعینہ اسی شکل و ہیئت پر ہیں جس پر دنیا میں تھے کچھ فرق نہیں صرف فرشتوں کی طرح آنکھوں سے غائب ہیں۔ جب کسی شخص پر اللہ تعالیٰ خصوصی عنایت

فرمانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اصلی شکل و ہیئت پر دیکھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اور یہ کہنا بے معنی ہے کہ آپ کا اصلی وجود نہیں بلکہ مثالی اور منامی وجود نظر آتا ہے کیونکہ اصلی اور حقیقی وجود دیکھنے میں کوئی امر مانع اور حجاب نہیں اور یہی کیفیت باقی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ ان کی روحوں کو بدنوں میں واپس لوٹا دیا گیا ہے اور وہ اصلی اور حقیقی وجود سے زمین و آسمان میں ہر مناسب تصرف کرتے ہیں۔“

ملاحظہ فرمائیے کس قدر واضح بیان ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سیر و سیاحت اور ضروری تصرف فرماتے ہیں۔ بہر صورت یہ مذکورہ الصدر جملہ تصرفات مجازی اور عطائی قوت سے سرانجام پاتے ہیں اور چونکہ مجازی معنی لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کوئی قرینہ اور خارجی امر ایسا ہو جو کہ بتائے کہ عبارات میں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی ہے لہذا قرینہ کے وجود پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

### مجاز میں قرینہ

کلام کا استعمال اصلی تو یہی ہے کہ اس کو حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے لیکن کبھی ضرورت کی وجہ سے کلام مجازی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اس وقت لازمی ہے کہ وہاں کوئی امر ایسا ہو جو یہ بتائے کہ متکلم نے مجازی معنی مراد لیا ہے۔ اس امر کا نام قرینہ ہے اور یہ قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے جیسا کہ کہا جائے۔ رایت اسد فی الحمام شیر کو میں نے حمام میں دیکھا۔ فی الحمام کا لفظ بتاتا ہے کہ شیر سے مراد جنگلی شیر نہیں کیونکہ وہ حکام میں نہیں آتا بلکہ راجل شجاع مراد ہے اور یہ قرینہ کبھی معنوی ہوتا ہے جیسا کہ کلام میں جو مسند واقع ہوا ہے اس کا قیام مسند الیہ کے ساتھ ناممکن ہو۔ جیسا کہ کہا جائے محبتک جاءت ہی الیک تیری محبت مجھے تیری طرف لائی ہے یہاں جاءت مسند ہے اور بحتہ مسند الیہ ہے اور ظاہر ہے کہ محبت کا قیام محبت کے ساتھ غیر متصور ہے معلوم ہوا کہ معنی مجازی مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ تیری محبت کی



وجہ سے تیری طرف لے آیا اور کبھی یہ قیام عادی طور پر محال ہوتا ہے مثلاً ہزم الامیر الجنہ امیر نے لشکر کو شکست دے دی ظاہر ہے کہ عادتاً امیر لشکر کو شکست نہیں دیتا بلکہ لشکر شکست دیتا ہے مگر امیر کے حکم سے۔ لہذا مجازی طور پر امیر کی طرف شکست دنیا منسوب کر دیا گیا اور کبھی قرینہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام ایک کامل موحد یعنی اللہ کو واجب الوجود اور مستحق عبادت سمجھنے والا کہہ رہا ہے اور نسبت حکم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر رہا ہے لہذا یہ مجاز ہے۔ جیسے اشاب الصغیر و افنی الکبیر۔ کرا الغدرة و مرا العشی۔ زمانہ کے لیل و نہار نے بچے کو بوڑھا اور بوڑھے کو فناہ و تباہ کر دیا۔ یہاں اشاب اور افنی کو کرا العذاة کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسناد حقیقی ہے لیکن اس شعر کا ایک موحد کامل اور صادق الایمان انسان قائل ہے تو ثابت ہوا کہ یہ اسناد مجازی ہے کیونکہ مومن کامل سے کیسے ہو سکتا ہے کہ حقیقی فاعل کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف فعل کی اسناد کر دے اسی طرح اور قرآن بھی قائم کیے جاسکتے ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اسناد و نسبت مجازی ہے نہ حقیقی۔

لہذا جس قدر واسطہ وسیلہ وغیرہ میں عبارات اور حوالجات درج کیے جا چکے ہیں ان میں اگر یہ ثابت ہو جائے اور ثابت یقیناً ہے کہ ان کا قائل مومن کامل صادق الایمان کتاب کا حامل سنت کا عالم ہے تو بلاشبہ یہ سب اسناد میں اور نسبتیں مجازی ہوں گی نہ کہ حقیق اور یہی ثابت کیا گیا ہے کہ عبارات کے قائل و ذمہ دار قطعی طور پر کامل ایماندار مخلص متشرع ہیں لہذا ان میں کوئی شرک نہیں۔ اگر کوئی نا سمجھ جاہل اس کے خلاف کرے تو اسکی اصلاح ضروری ہے نہ کہ ایک جائز چیز کو ناجائز قرار دیا جائے۔

**متنازعہ فیہا عبارتیں اور تو تسل و واسطہ کی ابتدا کب سے ہے**

ناظرین حضرات! یہ متذکرۃ الصدر مسائل تو تسل وسیلہ اور واسطہ وغیرہ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے اور ضرورت کا دخل ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسائل قرون اولیٰ سے کسی نہ کسی صورت میں چلے آ رہے ہیں اور بعد کے امور مستحسنہ وہ بھی کسی نوعی مناسبت اور جنسی

اشتراک سے مسائل مذکورہ میں داخل ہیں اور نہ ہی ان کے کرنے سے کتاب و سنت کی کوئی مخالفت آتی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان مسائل کو اختراعیہ اور ایجاد بندہ کہہ کر بریلوی علماء رحمۃ اللہ علیہ کو ہی بدنام اور مطعون کیا جا رہا ہے اور ہر وجہ سے ان کو ہی مورد طعن بنایا جاتا ہے۔ کیا جو کچھ علماء بریلی کو کہا جا رہا ہے اس کا براہ راست علماء متقدمین تاقرون اولیٰ تک اثر نہیں پڑے گا ضرور پڑے گا اور پھر غضب یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے جمہور اسلام کے مقابلہ میں شرمہ قلیلہ کی حیثیت رکھنے کے باوجود اپنے کردار کا قطعاً مطالعہ نہیں کرتے اور اپنے گریبان میں اپنی تاریخ نہیں دہراتے تاکہ ان کو اپنی حیات مستعار کے خط و خال نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔

### معترضین اپنے کو کیوں چھپاتے ہیں؟

ناظرین باتمکین! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ انسان کو جب اپنی زندگی قابل اعتراض ہو اور اس کا نقشہ حیات قابل تعریف نہ ہو اخلاقی کیفیت گھناؤنی ہو حرص و ہوا کا مجسمہ ہو قوی مفاد کو ٹھکرانا اور ذاتی مفاد کو اپنانا ہو تو پھر وہ اپنے عیوب و نقائص کو پوشیدہ کرنے اور رکھنے کے لیے دوسروں کو ہر طرح سے مطعون کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کی ہر اچھی بات کو بھی نظر انداز کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہاں بادی النظر میں یہی حال معلوم ہوتا ہے کہ معترضین اور نزاع و جھگڑا ڈالنے والوں کا اندرونی خانہ قابل تعریف نہیں۔ اعمال کی فہرست انتہائی طور پر محل اعتراض ہے مفاد پرستی ہٹ دھرمی، ضد و عناد کا بے پناہ تصور مرکوز دماغ سے ہجو مادِ گیرے نیست کے ترانے گائے جا رہے ہیں جن کی تفصیل کا یہ محل نہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا مناسب ہے کہ اس کتابچہ میں نجدی عقاید و دیگر مضامین کا آپ بار بار مطالعہ فرمائیں اور سوچیں اور غور کریں تو یہ حقیقت شمس و امس کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اہلسنت و الجماعت پر اعتراض کرنے والے بزرگ اپنے صفحہ قرطاس قلب پر کن کن اعمال کی فہرست رکھتے ہیں۔

## عبارات ندائیہ کی صحت

ناظرین کرام! واسطہ اور توسل سے متعلق ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ وہ عبارات جو کہ توسل اور واسطہ اور عموماً ندا و استعانت کی صورت پر مشتمل ہیں ان کی سرے سے صحت ہی مشکوک ہے تو ان کے ذریعہ استغاثہ اور استعانت کے جواز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لہذا ہم اپنی ایک تحریر بشکل عربی مع ترجمہ جو کہ از روئے علم صرف نحو منطق معانی وغیرہ ان عبارات کی مکمل صحت اور نتیجہ خیز ہونے پر مشتمل ہے پیش کرتے ہیں اور علمی ذوق رکھنے والے حضرات سے پوری توقع رکھتے ہیں کہ وہ پورے غور سے پڑھنے کی تکلیف گوارا کرتے ہوئے ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے۔

ہم نے اس تحریر کو ایک کتابچہ کی شکل دے کر اس کا نام النداء بحرف الیاء رکھا تھا جو کہ بعینہ حسب ذیل ہے۔

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على رسولہ المجتبیٰ  
والالتقی وصحبہ الہدی۔ اما بعد پس کہتا ہے  
بندہ اپنے خدا تعالیٰ سے پناہ لینے والا  
محمد مہر الدین اللہ کریم اس کو ظاہری و باطنی  
مہربانیوں سے مالا مال کرے کہ تحقیق  
اولیاء کرام کو دور و نزدیک سے پکارنا مثلاً یا  
شیخ عبدالقادر جیلانی..... ہینا اللہ ویا معین  
الدین اجمیری امداد کن امداد کن کلمات  
ندائیہ قضا حاجات اور دفع بلیات یا زیادہ

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام  
على رسولہ المجتبیٰ والہ التقی و  
صحابہ الہدی۔ اما بعد فيقول العبد  
الملتجى الى ربه القوي محمد مهر  
الدين رزقه الله بلطفه الخفي والجلي  
ان نداء اولياء الله تعالى مثلاً يا شيخ  
عبدالقادر رحمة الله عليه جيلاني  
شينا لله ويا معين الدين اجميري  
امداد كن امداد كن وغيره من ا

محبت کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار ان کو پہنچا دیتا ہے یا جب چاہے ان کو سنا دیتا ہے یا ان پر سلام کہنے کی غرض سے جیسا کہ کہنے والے اور پکارنے والے مختلف نیتوں کے آدمی ہوتے ہیں جو کہ ان کو محض امور تکوینیہ اور احکام تکلیفیہ الہیہ کے مظہر سمجھتے ہیں شرعی طور پر جائز ہے قطعاً کوئی مانع نہیں اور نہ ہی اس قسم کی عبارات و کلمات کی صحت میں کوئی مناقشہ ہے بلکہ یہ علم صرف، نحو، بیان سے صحیح ہیں مثلاً یا شیخ عبد القادر جیلانی ہی اللہ کو ہی لے لو یہ نہایت صحیح اور درست عبارت ہے شب و روز لوگ اس کو پڑھتے ہیں پس یہاں پر چند امور ہیں۔ اول اس عبارت کی صحت کے دلائل میں پس میں بتوفیق الہی عرض کرتا ہوں کہ یہ عبارت علم صرف کے لحاظ سے ضروری و بدیہی طور پر صحیح و درست ہے قطعاً محتاج دلیل نہیں اور علم نحو کی رو سے بھی صحیح ہے دلائل حسب ذیل ہیں۔ (۱) بلاشبہ حرف یا ندا کے لیے ہے۔ ادعو کے قائم مقام ہو کر ندا اور دعا وغیرہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ

لكلمات الندائية لقضاء الحاجات و دفع البليات او الاستفراق في حبه او ظناً بان الله تعالى يُبلغهم ندائنا او يسمعهم اذا شاء او نبياء السلام عليهم حين اختلاف نيات القائلين على انهم مظاهر الامور التكوينية و مناشي الاحكام التكليفية جائز شرعاً لا مانع منها اصلاً ولا مناقشته في صحة هذه العبارات صرفاً ولا نحواً ولا بياناً قطعاً مثلاً يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئاً لله فانها عبارة صحيحة متعارفة بين الناس فهنا امور الاول في بيان وجوه صحة هذه العبارة فاقول وباللله التوفيق. انها صحيحة اما صرفاً لضرورة و بداهة و اما نحواً فيوجوه الاول ان يا حوف النداء نائب مناب ادعو تستعمل على وجه النداء والدعاء وغيرهما لاعلى وجه العبادة و شيخ منادى مبن على ما يرفع به واقع موقع الكاف عبد القادر منصوب على انه بدل من الشيخ بدل الكل عن الكل والمعنى ادعوك لا طلب

منك شيئاً ارضاً لله و تحصيلاً  
للثواب.  
معنی قربت و عبادت میں اور شیخ منادی جو  
کہ علامت رفع پر مبنی ہے۔

اور کاف خطاب کی جگہ پر واقع ہے۔ عبدالقادر جیلانی شیخ مبدل منہ سے بدل الكل عن الكل  
ہے اور اس تقدیر پر معنی یہ ہوا کہ میں آپ کو اس لیے پکارتا ہوں تاکہ آپ خدا تعالیٰ کو راضی  
کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی برتری ظاہر کرنے کے لیے مجھ کو کچھ عطا فرمائیں۔ (خلاصہ یہ کہ  
خدا کے نام پر کچھ دیں اور یہ بلاشبہ جائز ہے۔

الثانی یا حرف النداء نائب مناب  
ادعوشیخ منادی مبنی علی ما یرفع بہ  
عبدالقادر منصوب علی انه تابع  
المنادی المضاف وجیلانی صفتہ  
وشیئاً مفعول بفعل محذوف بقرینہ  
النداء لله متعلق بمقدرای اکراما او  
ارضاء و تحصيلاً کما مر والمعنی  
ادعواک لا طلب منک. شیئاً اکراماً  
الله ای بحقه و منه تعالیٰ علیک و  
بفضله تعالیٰ لدیك کما فی الکافیة  
والمضافة (ای التوابع) تنصب وفیه  
ایضاً والبدل والمعطوف غیر ما ذکر  
حکمہ حکم المنادی المستقل مطلقاً  
و قررة الجامی قدس  
سرہ و فی شرحہ ص ۱۰۷۰ ویویدہ  
ماورد فی النصوص القرانیة والآثار  
(۲) دوم یا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام  
ادعو ہے شیخ منادی جو کہ علامت رفع پر مبنی  
ہے عبد القادر منادی مضاف کے تابع  
ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور جیلانی  
اس کی صفت ہے اور شیئاً لله بقرینہ ندا  
فعل محذوف کا مفعول یہ ہے۔ لله عامل  
مقدر کے ساتھ متعلق ہے یعنی اکراما یا  
ارضایاً تحصيلاً جیسا کہ اوپر گزرا اور معنی اس  
تقدیر پر یہ ہوا کہ میں آپ کو پکارتا ہوں کہ  
آپ سے میں اس فضل و کرم کے صدقے  
کوئی چیز طلب کروں جو کہ آپ پر خداوند  
کریم نے فرمایا ہے اور اس تشریح عبارت  
کی تصدیق کافیہ کی اس عبارت سے بخوبی  
واضح ہے۔ المضافة (ای التوابع)  
بمصب یعنی تابع منادی مضاف منصوب  
ہوتے ہیں اور بدل و معطوف غیر مذکور علی

الاطلاق مستقل منادی کے حکم میں ہیں اور شارح جامی نے اس کو ثابت رکھا ہے اور اس کجا سید قرآن مجید کی صریح آیتوں اور آثار صحیحہ سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے واتقوا اللہ الذی تساء لون بہ اس کی تفسیر جلالین میں یوں ہے تساء لون بہ فیما بینکم الخ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس خدا سے ڈرو جس کی قسم دے کر اور نام لیکر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور یوں کہتے ہو۔ اسئلک باللہ وانشدک باللہ (خلاصہ یہ ہوا کہ یا شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ کا نام لیکر اور اسی کے نام کے واسطے سے سوال کیا گیا ہے لہذا قرآن مجید کی تصریح سے جائز ہے) تفسیر جامع البیان صفحہ ۶۷ جو کہ جلالین پر ہے میں آیت مذکورہ کے نیچے یوں تفسیر کی ہے۔ ای تساء لون فیما بینکم حوائجکم یعنی مطلب یہ ہے کہ اس خدا سے ڈرو جس کا نام لیکر ایک دوسرے سے حاجت روائی کرتے ہو جیسے کہتے ہو اسئلک باللہ اور حدیث شریف میں اس طریق سوال کو جائز رکھا گیا ہے

الصحيحة قال سبحانه تعالى واتقوا الله الذي تساء لون به قال في الجلالين تحت هذه الآية المذكورة اي تساء لون به فيها بينكم حيث يقول بعضكم لبعض اسئلک باللہ نشدک باللہ وفي جامع البيان ص ۶۷ علی حاشية الجلالين تحت الکريمة المذكورة اي يتساء لون فيما بينکم حوائجکم كما تقولون اسئلک باللہ وا وعد علی انکارہ فی الحدیث حيث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ باللہ فاعيدوه ومن سئل باللہ فاعطوه (ابوداؤد) وايضا قال علیہ السلام اخبرکم بشرالناس مترلا قيل نعم قال يسئل باللہ ولا يعطى له. (ترمذی) والثالث ان يا حرف النداء قائم مقام ادعو شیخ منادی مرفوع علی انه مقصود بالنداء وعبدالقادر مرفوع علی انه تابع بطریق عطف البیان وتقدير العبارة يا ايها الشيخ اوبيا هذا

الشیخ عبد القادر جیلانی اطلب  
منک شیئاً اکراماً لله والمعنی  
ادعوك لا طلب منك شیئاً الخ.

بلکہ اس پر سائل کو کچھ نہ دینے پر وعید  
و تنبیہ فرمائی گئی ہے چنانچہ حضور علیہ  
السلام نے فرمایا کہ جو خدا کا نام لیکر تم  
سے پناہ چاہے اس کو پناہ دو اور جو  
اس کا نام لیکر کچھ مانگے اس کو کچھ

ضرور دو (ابوداؤد) اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سب  
سے برے شخص کی خبر نہ دوں عرض کیا گیا ضرور فرمایا وہ شخص ہے جس سے اللہ کا نام لے کر کچھ  
مانگا گیا اور کچھ نہ دیا۔

(۳) بلاشبہ یا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو ہو کر مستعمل ہے۔ شیخ منادی جو کہ  
مقصود ندا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے عبد القادر تابع عطف بیان ہونے کی وجہ سے مرفوع  
ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوئی۔ یا ایہا الشیخ یا یا ہذا الشیخ عبد القادر جیلانی اطلب منک شیئاً اکراماً  
لله اور معنی یہ ہوا کہ میں آپ کو پکارتا ہوں تاکہ آپ اللہ کریم کو راضی رکھنے کے لیے اور اس کی  
برتری کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ کو کچھ عطا فرمادیں۔

شارح جامی نے فرمایا ہے کہ مثلاً ایہا  
الرجل میں رجل کو مقصود ندا ہونے کی وجہ  
سے نحو یوں نے مرفوع ہونا لازمی قرار دیا  
ہے اسی طرح اس کے توابع کیونکہ وہ  
معرب کے توابع ہیں۔ (خلاصہ یہ کہ آپ  
کے نام پر کچھ دیں) (۴) یہ بھی ممکن ہے  
کہ کہا جائے شیخ بتقدیر لام منادی

قال فی شرح الکافیہ الجامی و  
التزموار رفع الرجل مثلاً لانه  
المقصود بالنداء و توابعه لانها توابع  
معرب. والرابع انه یمكن ان یقال ان  
الشیخ منادی مستغاث بتقدیر اللام  
وعبد القادر مجرور علی انه تابع  
المعرب والمعنی ادعوك للاغاثۃ.

مستغاث ہے عبد القادر معرب کا تابع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور معنی یہ ہوا کہ میں آپ کو پکارتا ہوں کہ آپ خدا کو راضی رکھنے کے لیے میری فریاد رسی فرما دیں (خلاصہ یہ ہوا کہ خدا کے نام پر میری فریاد رسی فرمادیں) اور علم بیان کے لحاظ سے اس طرح پر کہ فعل عطا ہو یا کوئی اور کی نسبت غیر اللہ کی طرف شیخ ہو یا غیر آیا جائز ہے یا ناجائز ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے اول اس لیے کہ نسبت الفعل الی غیر مامولہ مجاز عقلی ہے (اصغری) اور مجاز عقلی جائز ہے (کبری) کبری کی دلیل یہ ہے۔ آیات قرآنیہ و احادیث میں یہ نسبت بکثرت موجود ہے مثلاً وان خفتم شقاق بینہما ای شقاق الزوجین الواقع بینہما (یہاں پر شقاق کو بین کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے) اذا تلیت علیہم آیات زادہم ایماناً ای زاد اللہ فی تصدیقہم اذا تلی القرآن علیہم (یہاں پر زیارت کو آیات کی طرف منسوب کیا گیا ہے) دیوماً يجعل الولدان شیعاً ای - یبلغون منه وقت

أما بياناً وهو ان نسبة الفعل اعطاءً كان او غيره الى غير الله تعالى شيئاً كان او غيره هل يجوز ام لا فنقول انه جائزہ اما اولاً فبناءً على انه مجاز عقلی (صغری) ای بطریقة النسبة الى غير ماہولہ والمجازا العقلی جائز

(کبری) اما الكبرى فلما ورد به الآيات الصريحة والاثار القريحة و مصرحٌ في كتب الفن قال الله سبحانه تعالى وان خفتم شقاق بینہما ای شقاق ای زاد الله تعالى فی تصدیقہم اذا تلی القرآن علیہم ویوماً يجعل الولدان شیئاً ای یبلغون منه وقت الشیخوخته اخرجت الارض القالها ای اخرجت



وفانها با مر الله تعالى يا هاما بن لي  
صَرَحًا اى مُرِ الْعَمَلَةَ بِنِیاءِ الْمَكَانِ  
فما ربحت تجارتهم اى  
مادبحرافى تجارتهم ولا هب لك  
غلاما زكيا اى انفخ فى حبيك فقلد  
باذن الله تعالى و هكذا  
ابنت الربيع البقلی واحی الارض  
شباب الزمان و لیصم نهارك بنی  
الامیر المدینة ونهاره صنائم كذافی  
مختصر المعانی والمطول و دلائل  
الاعجاز والمفتاح وهدية المهدي  
الذی صنفه فی تشریح عقائد اهل  
الحديث غیر المقلدین و حید الزمان  
المترجم للصحاح الستة من  
الاحادیث و غیرها واما الصفري فبان  
مصدرا كفعال التكوینیة وان  
كان ذاته (تعالى لانه خالق) كل شیء و  
مكون كل امر لكن اولیاءه اصفیائهُ  
تعالى لما كانوا مطاهر الامور  
التكوینیة و منا قد الاحكام  
التكلیفیة أسند التكوین الیهم مجازاً

الشیخوخة (یہاں پر مجعل کو یوم کی طرف  
منسوب کیا گیا ہے حالانکہ منسوب الیہ مراد  
نہیں ہے جیسا کہ تشریح سے ظاہر ہو  
رہا) اخرجت الارض اثقالها اى اخرجت  
وفاكها با مر الله ہے (اسی طرح یہاں پر  
اخراج کو زمین کی طرف  
منسوب کیا گیا ہے) یا ہاما بن لی صرحاً  
اى مر العملَةَ (یہاں پر نبا کو ہاما کی طرف  
منسوب کیا گیا ہے) فما ربحت تجارتهم اى  
ما ربحوا فی تجارتهم (یہاں پر ربح کو تجارت  
کی طرف منسوب کیا گیا ہے) لا هب لك  
غلاماً زكياً اى انفخ فی حبيك فقلد باذن الله  
تعالى (یہاں پر بچہ کو حضرت جبریل کی  
طرف منسوب کیا گیا ہے) اور اسی  
طرح دوسری مثالیں ابنت الربيع البقل  
واحی الارض شباب الزمان ویصوم  
نهارك بنی الامیر المدینة نهاره صنائم بھی  
منسوب الی الغیر ہیں جیسا کہ مختصر معانی  
مطول دلائل الاعجاز مفتاح العلوم و ہدیة  
المہدی جس کو وحید الزمان  
مترجم صحاح ستہ نے غیر مقلدوں کے

عقائد میں لکھا ہے وغیرہ میں موجود ہے اور صفحہ ۸۰ پر ہے کہ افعال تکوینیہ کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ وہ ہر شے کا خالق و مکنون ہے لہذا دراصل ہر فعل کو اسی کی طرف منسوب ہونا چاہئے مگر اولیاء کرام چونکہ امور تکوینیہ اور احکام تکلیفیہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر تکوین وغیرہ کی نسبت بطور مجاز ان کی طرف کر دیتے ہیں جیسا تفسیر عزیز ص ۸۰ پر ہے کہ اگر التفات محض اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور اس کو یعنی غیر اللہ کو مظہر عون الہی سمجھ کر اس کے کارخانہ اسباب و علل میں نظر کرتے ہوئے غیر اللہ سے ظاہری طور پر استعانت چاہے تو عرفان سے دور نہیں یعنی شرعاً جائز ہے اسی طرح شواہد الحق اور جواہر البحار میں ہے۔ حضرت سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ اپنی کتاب فتوح الغیب مقالہ نمبر ۶ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق سے بحکم خدا فنا ہو جا کہ صفات بشری تجھ میں نہ رہیں پس تیرا

قال فی تفسیر فتح العزیز ص ۸۰ مانصہ فی الفارسیۃ واکر التفات محض بجانب حق است واورا یکی از مظاهر عون دانستہ نظربکار خانہ اسباب و حکمت اللہ تعالیٰ دران نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود۔

یعنی اذا اسند الفعل الی غیر اللہ تعالیٰ باعتبارہ مظہر عون اللہ ناظراً الی نظام العالم و اسبابہ بانہ رتب علی طریق الاسباب والعلل فلا باس وانہ امر جائز فی الشرع وھکذا فی شواہد الحق وجواہر البحار قال الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ فی کتابہ فتوح الغیب فی المقالة السادسة مانصہ ان عن الخلق بحکم اللہ تعالیٰ فتنو عنہ الاخلاق البشریۃ فلن یقبل باطنک شیئاً غیر ارادۃ اللہ تعالیٰ فحینئذ یضاف الیک التکوین وخرق العادات فیری ذالک منک فی

باطن اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے ماسوا اس وقت کسی چیز کو ہرگز قبول نہ کرے گا پس اس وقت تکوین (کسی کو زندہ کرنا) اور امور خارقہ للعادة تیری طرف منسوب ہوں گے یعنی یہ کہا جائے گا کہ تو نے مارا ہے تو نے زندہ کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ پس اس وقت یہ ظاہراً معلوم ہوگا کہ یہ فعل تجھ سے صادر ہو رہا ہے

(یعنی درحقیقت خداوند کریم سے سرزد ہوگا اور انسان صرف مظہر اور جائے ظہور ہوگا) اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم میں خدا ہوں کہ میرے علاوہ اور کوئی مستحق عبادت نہیں میری قدرت یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کو کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پس تو بھی میری کامل اطاعت کر کہ اس کے بعد تو بھی جس چیز کو کہے کہ ہو جا وہ فوراً ہو جائے گی۔

مولوی وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی ص ۱۴۰ پر لکھا ہے کہ ان افعال سے جو کہ غیر اللہ کی طرف مسلمان و مومن سے منسوب ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سے چونکہ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے لہذا وہ شرعاً شرک نہیں ہیں۔

اور مولوی رشید احمد دیوبندی نے اپنے فتاویٰ ج ۲ ص ۲۴ پر ایک سوال کا جواب

ظاهر العقل وَالْحَكْمِ وَفِيهِ عَلِي هَامِش  
بہجت الاسرار ص ۲۰۹ وھو قولہ  
عزوجل فی بعض کتبہ یا ابن آدم انا  
اللہ لا الہ الا انا اذا اقول للشی کن  
فیکون اطعنی اجعلک تقول للشی  
کن فیکون۔

قال وحید الزمان فی ہدیۃ المہدی  
ج ۱ ص ۱۴۰ وانما قصدہ بهذا  
الافعال (المنسوبات الی غیر  
اللہ تعالیٰ) مجرد التعظیم والتحیۃ  
لشعار اللہ الصالحین المقربین من  
عبادہ فلا یكون مشرکاً فیما بینہ و بین  
اللہ۔

وقال المولوی رشید احمد دیوبندی  
فی فتاویٰ ج ۲ ص ۲۴ مجیباً وانت

دیتے ہوئے لکھا ہے ندا غیر اللہ تعالیٰ کو کرنا  
دور دراز سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ  
کہ ان کو عام سامع مستقل عقیدہ کرے  
ورنہ شرک نہیں ہے مثلاً یہ جانے کہ حق  
تعالیٰ ان کو مطلع فرما دے گا یا باذنہ تعالیٰ  
انکشاف ان کو ہو جائے گا یا باذنہ تعالیٰ  
ملائکہ پہنچا دیں گے جیسا کہ درود کی نسبت  
وارد ہے یا محض شوقیہ کہنا محبت میں یا عرض  
حال محل تحسّر حرمان میں کہ ایسے مواقع میں  
اگرچہ کلمات خطابییہ بولتے ہیں لیکن ہرگز  
نہ مقصود اسماع ہوتا ہے اور نہ عقیدہ پس  
انہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار  
بزرگان کرام کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ  
نہ شرک ہے نہ معصیت اور نیز جبکہ بعض  
امور بعض افعال کے لیے بمنزلہ سبب کے  
ہوتے ہیں تو فعل و شبہ فعل کو بوجہ سمیت  
اور مصاحبت غیر کی طرف منسوب کر دیتے  
ہیں جیسا کہ پہلے مثالیں گزریں اور جیسے  
انی ارانی اعصر خمر ای اعصر الغیب فیصیر خمر  
(یہاں پر اعصر کی نسبت خمر کی طرف بوجہ  
سمیت کی گئی ہے کیونکہ خمر اور غیب میں  
سمیت کا علاقہ رہے) فلیدع نادیہ

تعلم ان ندا غیر اللہ تعالیٰ من بعید  
انما یکون شرکاً اذا اعتقد  
الغیر سامعاً بذاتہ و مستقلاً بنفسہ  
و الا فلا مثلاً اذا اعتقد فی النداء  
المذکور ان اللہ تعالیٰ یطلعه  
او ینکشف الامر عنده بامرہ تعالیٰ او  
الملائکة یبلغہ باذنہ تعالیٰ کما فی  
الصلوة علی النبی ﷺ او قالہ شوقاً  
واظهاراً و تحسراً او حرماناً لانہم  
فی ہذہ المواقع وان استعملوا  
الکلمات الخطابیۃ الندائیۃ لکن  
مرادہم لیس الا ہذا فلا یکون شرکاً  
قطعاً ولا معصیۃ و الکلمات الدعائیۃ  
والاشعار النعتیۃ المنسوبۃ الی اولیاء  
اللہ تعالیٰ وغیرہم واخلتہ فی ہذہ  
الاقسام المذکورہ و ایضاً اذا کان من  
الامور ما کان سبباً لبعض آخر و  
مصاحباً اسند القعل و معنایہ الی لغیر  
ای الی سببہ و مصاحبہ کما مرض  
الامثلۃ و نحوانی ارانی اعصر خمر  
ای اعصر الغیب فیصیر خمر و  
فلیدع نادیہ ای اہل نادیہ و ہکذا

ای اہل ناد یہ (یہاں پر یدع کو ناد یہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے حالانکہ اہل کی طرف ہونا چاہئے کیونکہ اہل اور ناد ی میں حلول کا علاقہ ہے) اور بھید اس میں یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کا معیار یہ ہے کہ ایک معنی کو ایسی متعدد عبارتوں میں لایا جائے جو کہ وضوح و خفا میں مختلف ہوں اور یہ چونکہ مجاز کے بغیر متصور نہیں کیونکہ حقیقی اور مطابقی معنی علم بالوضع کے بعد وضوح و خفا میں مختلف نہیں ہو سکتا ہے لہذا مجازی طور پر فعل و شبہ فعل کو غیر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور یہ اختیار مجاز چونکہ معیار حصول بلاغت کے لیے ہے نہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا لفظ لا نہیں سکتا۔ جو کہ مطابقی اور حقیقی طور پر اپنے معنی پر دلالت کرے۔ بدیں وجہ فن بلاغت بلکہ کتب دیدیہ میں عام طور پر مجاز مستعمل ہے جیسا کہ مختصر معانی شرح تلخیص المفتاح میں مذکور ہے کہ ایراد مذکور مطابقی دلالت میں ناممکن ہے۔ ہاں دلالت عقلیہ یعنی تقمینی والتزامی میں ہو سکتا

واجعل لی لسان صدق فی الاخرین  
والسرفیہ ای فی نسبة الفعل و معناه  
الی غیر ما هو لہ انه لما كان مناط  
البلاغة و معیار البراعة المعنی الواحد  
فی تراکیب مختلفة فی الموضوع  
والخفاء و هو لا يحصل الا فی المجاز  
لان المنطوق الصریح والمدلول  
المطابقی یمتنع اینکون مختلفاً فی  
وضوح الدلالة و خفاتها بعد العلم  
بالومع و یمتعمل المجاز فی الکتب  
الدینة و غیرها لان الله تعالى عاجز  
عن ایتان اللفظ الذی یدل علی  
المعنی بطریق المطابقة تعالیٰ الله عن  
ذالک علواً کبیراً فی شرح تلخیص  
المفتاح اعنی المختصر المعانی  
والایراد المذكور لایتاتی بالوضعیة  
ای بالدلالة المطابقیة (الی ان قال)  
ویتاتی الایراد المذكور بالعقلیة من  
الدلالات (ای التضمن والا التزام)  
لجواران ینخلف مراتب اللزوم فی  
الوضوح ص ۳۹۰، ۳۱۰ فالحاصل

ہے کیونکہ لزوم کے مرتبے وضوح خفا میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ص ۳۰۹، ۳۱۰ پس حاصل یہ ہے کہ اعطاء تکوین وغیرہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں لیکن بطور مجاز عقلی غیر کی طرف شیخ ہو یا اور بوجہ اس کے سبب و ذریعہ ممفیذ احکام ہونے کے منسوب کیے جاتے ہیں اور ثانیاً اس بنا پر یہ عبارت صحیح ہے کہ اس میں مجاز بالحذف ہے۔ ای یا مظہر العون شیخ عبد القادر الخ جیسا کہ کہا جاتا ہے یا غوث اعثنی۔ ای یا مظہر الغوث اعثنی اور مثلاً عبارت بطریق مجاز مستعار علی وجہ الکنایہ صحیح ہے یعنی غوث اور شیخ بول کر مغیث و معین حقیقہ مراد ہو اور اغاثہ واجابہ کا اثبات بصورت تخمیل جیسا کہ کہا جائے راجح اسدا یری و تجرمی من تحت الانہار و جری المیزاب وغیرہا کما لا یخفی اور اس سے وہ اعتراض بھی دور ہو گیا جو کہ اس عبارت مذکورہ کے قطار و امثال پر جیسے یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات جب کہ غیر اللہ پر بولا جائے کہا جاتا ہے کیونکہ معنی بطریق مجاز بالحذف ہے یعنی یا مظہر العون و قاضی

ان الاعطاء والتکوین وان کان فعل اللہ تعالیٰ حقیقۃً لن اسند الی غیر ای الشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً لکونہ مظہراً وسبباً لتنفيذ احکام مجازاً عقلياً و اما ثانياً فبناءً علی انہ مجاز بالحذف ای یا مظہراً العون شیخ عبد القادر جیلانی شیناً للہ کما قال فی یا غوث اعثنی ای یا مظہر الغوث اعثنی واما ثالثاً فعلى انہ مجاز مستعار سبیل الکنایۃ ای ذکر الغوث و الشیخ و ارادۃ المغیث و المعین حقیقۃ و اثبات الاغاثۃ و الاجابۃ تخمیل مثل رایت اسدا یری و تجری من تحت الانہار و جری المیزاب و غیرہا کما لا یخفی و لا یخفی علیک انہ نحل بہ عقدۃ الاشتباہ الذی اور دعلی نظائرہ مثل یا قاضی الحاجات ای اذا قیل لغير اللہ تعالیٰ و يادافع البلیا و المرض و الالم و غیرہا لان معناها علی مالہ یا مظہر العون و یاسبب الاجابۃ کیف لا و هو الواقع و الثابت و عند الناس

الحاجات ویا سبب دفع البلیات مثلاً کیوں جائز نہ ہو حالانکہ یہ معنی واقع اور ثابت ہے اور عرف عام اس پر موجود ہے اور نیز اس سے یہ بھی اعتراض دور ہو گیا کہ غیر اللہ کو یا قاضی الحاجات وغیرہ کہنا محض جھوٹ و خلاف واقع ہے کیونکہ یہ عبارتیں بطور مجاز مستعار ہیں اور مجاز مستعار از قسم بلاغت ہے نہ کہ جھوٹ جیسا کہ سمجھ دار پر واضح ہے اور امر ثانی درمیان معنی ندا کے ہے جب کہ حرف یا کے ساتھ ہو اور یا کی کیفیت استعمال میں پس جان تو کہ معنی ندا بحرف یا مثلاً یا زید کا زید کو طلب کرنا اور پکارنا ہے پس معنی یا زید کا یہ ہوا کہ میں زید کو طلب کرتا ہوں اور اس کو پکارتا ہوں جیسا کہ علم نحو میں مذکور ہے اور ادنی طالب علم بھی جانتا ہے چہ جائیکہ فاضل تبحر ہو اور یہ قریب و بعید ہر دو کے لیے مستعمل ہے۔ تفسیر کبر میں ہے کہ یا حرف ہے جو کہ اصل میں ندا بعید کے لیے موضوع ہے۔ پھر ہر سہو و غفلت زدہ پر بولا

المتعارف. وایضاً اندفع به ما یقال انه کذب محض لاحقیقة له لانه استعارة وهو غیر کذب کما هو لا ینحی علی المتدرب والامر الثانی فی معنی النداء بحرف یاء وکیفیه استعماله فاعلم ان معنی النداء بحرف یا مثلاً یا زید هو الطلب والدعاء فمعنی یازید اطلب زیداً ادعوزیداً کما هو المصرح فی النحو و غیر منحی علی مبتداً وفضلاً عن فاضل متبحر وهو یتعمل للقریب و البعید قال فی التفسیر الکبیر یا حرف وضع فی اصله لنداء البعید ثم استعمل فی ندا من سہی و عقل وان قرب تنزیلاً منزلة البعید وفی المطول شرح التلخیص واما یا فقیل حقیقة فی القریب والبعید لانها لطلب الاستقبال مطلقاً و قیل بلا للبعید و استعمالها فی القریب قال العلامة چلبی علی حاشیة المطول القول

جاتا ہے گو قریب ہو کیونکہ قریب کو بعید تصور کر لیا جاتا ہے اور مطول شرح تلخیص میں ہے اور بہر نہج حرف یا پس کہا گیا ہے کہ وہ حقیقتہ قریب و بعید ہر دو کے لیے ہے کیونکہ وہ طلب استقبال کے لیے ہے مطلقاً اور کہا گیا ہے کہ وہ حقیقتہ بعید کے لیے ہے اور استعمال قریب میں بھی ہے۔ علامہ چلی نے حاشیہ مطول میں کہا ہے کہ پہلا قوال ابن حاجب کا ہے اور دوسرا علامہ زمخشری کا اور پہلا قول قبولیت میں بہت قریب ہے کیونکہ یا قریب و بعید ہر دو میں برابر مستعمل ہے اور قریب و بعید میں سے ایک کے لیے دعویٰ مجازیت خلاف اصل ہے۔ بیضاوی شریف میں ہے یا حرف ہے جو کہ ند بعید کے لیے موضوع ہے اور قریب پر بھی جب کہ اس کو بمنزلہ بعید فرض کیا جائے بولا جاتا ہے۔ اور امر ثالث قریب و بعید کا معنی بیان کرنے میں اور وہ یوں کہ وہ قریب و بعید کا معنی فقط یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے وجود خارجی کے لحاظ سے قریب ہے یا بعید بلکہ

الاول قول ابن الحاجب وَالثاني قول الزمخشري والاول اقرب لاستعمالها في القريب والبعيد على استواء و دعوى المجازية في احدهما خلاف الاصل و في البيضاوي يا حرف وضع لنداء البعيد و نياوي به القريب تنزيلاً له منزلة البعيد والامر الثالث في معنى القرب والبعيد فاعلم ان معنى القرب والبعيد ليس ان هذا قريب منه في الوجود الخارجى و هذا بعيد منه فيه بل اعم من اينكون قريباً في الخارج اوفى الذهن واعم اينكون قريباً تحقيقاً او تنزيلاً قال في المطول اى والهمزة للقريب و قد تستعمل في البعيد تنبيهاً على انه حاضر في القلب لا بغيب فالحاصل ان النداء اللغوى بمعنى الدعاء بغير الله تعالى سوا كان على جهته المحبة وَالاستغراق واعلى وجه التحسراوان الله تعالى يُسمعه اذ ناداه احدٌ بلا واسطة او بواسطة وسواء



كان المنادى قريباً او بعيداً خارجياً او  
ذهيناً حياً او ميتاً امر جائز عند الشرع  
الصفي وشئ مرغوب في الدين  
القوى وليس للعقل الصحيح والفهم  
الزكى ان يمتنع من قبوله الجلى  
ولهذا كثر النداء على هذه الطريقة في  
الكتب السماوية للاحاديث النبويه  
على صاحبها الصلوة والسلام ونشاء  
استعمالها في الاسفار القديمة  
والجديدة وثبتة الصوفياء العظام  
والعلماء الكرام في اذهانهم العاليه  
كثرهم الله تعالى سوادهم.

عام ہے کہ وجود خارجی کے لحاظ سے  
قريب و بعيد ہوں یا ذہنی کے لحاظ سے اور  
نیز یہ بھی کہ وہ خود خارجی و ذہنی تحقیقی ہو یا  
تزیلی مطول میں ہے کہ ای و ہمزہ قریب  
کے لیے ہیں اور کبھی بعید پر بھی بولے  
جاتے ہیں۔ اس پر تنبیہ کرنے کی غرض  
سے کہ وہ دل میں حاضر ہے کبھی غائب ہی  
نہیں ہوا پس حاصل یہ ہوا کہ ندا لغوی  
بمعنی دُعا و پکار غیر اللہ کے لیے جائز ہے۔  
عام ازیں کہ ندا محبت و استغراق کی وجہ  
سے ہو یا تحسّر و حرمان کی وجہ سے یا اس  
خیال سے کہ بوقت ندا اللہ تعالیٰ کو بواسطہ یا  
بلاواسطہ بتا دیتا ہے اور عام اس سے کہ  
منادی قریب ہو یا بعید خارجی ہو یا ذہنی  
زندہ ہو یا مردہ اور عقل سلیم اس کو قبول  
کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طریقہ پر  
صحف سماویہ اور احادیث نبویہ علی صاحبہما  
الصلوة والسلام اور آثار صحیحہ و کتب متداولہ  
قدیمہ و جدیدہ میں ندا بکثرت وارد ہے  
اور علمائے کرام و صوفیائے عظام کثر ہم  
اللہ سواد ہم نے بنظر استحسان دیکھا ہے۔

## فقط

هذا ما عندي واللّه تعالى اعلم وعلمة اعلى واتم عبده الملتجى  
المسكين محمد مهراالدين عفا الله عنه الرحمن المبين  
بذاما عندي واللّه اعلم و علمه اعلى واتم نياز مند بنده مسكين محمد مهراالدين عفى عنه



<http://t.me/Tehqiqat>

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مَا ثَبَّتَ بِالسُّنَّةِ فِي أَيَّامِ السُّنَّةِ

اسلامی مہینوں کے

# فضائل و مسائل

مصنف: شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مترجم: حضرت مفتی سید غلام معین الدین نعیمی  
تدریس و تہذیب: محمد فاق چشتی فاضل بہارہ


مکتبہ جمال کرم



9. مرکز الاولیاء (سٹا ہاؤس) دربار مارکیٹ - لاہور فون: 7324948

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>



● پیارے نبی کی پیاری دعائیں

● اسلامی مہینوں کے فضائل و مسائل

● غائبانہ نماز جوازہ جائز نہیں

● یارسول اللہ ﷺ  
پکارنے کا ثبوت

● نماز کے بعد دعا  
کی فضیلت

● رکن دین ● علامہ امام مہدی

● مکتبہ جمال کرم ● 9 مرکز الاویس، دربار مارکیٹ لاہور

Click